

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال رسول الله ﷺ:  
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

(صحیح البخاری ۱۶۱/۱ رقم: ۷۱، صحیح مسلم ۳۳۳۱/۱ رقم: ۱۰۳۷)

# کتاب النوازل

منتخب فتاویٰ: مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری

نائب مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

(جلدِ ثالث عشر)

کتاب الوقف، احکام مساجد و عید گاہ

ترتیب و تحقیق:

(مفتی) محمد ابراہیم قاسمی غازی آبادی

ناشر

المركز العلمي للنشر والتحقق

لال باغ مراد آباد



- نام کتاب : کتاب النوازل (جلدِ ثالث عشر)
- منتخب فتاویٰ : مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری
- ترتیب و تحقیق : مفتی محمد ابراہیم قاسمی غازی آبادی
- کمپیوٹر کتابت : محمد اسجد قاسمی مظفرنگری
- ناشر : المرکز العلمی للنشر والتحقیق، لال باغ مرادآباد
- 09412635154 - 09058602750**
- تقسیم کار : فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ دریا گنج دہلی
- 011-23289786 - 23289159**
- اشاعتِ اول : ربیع الاول ۱۴۳۷ھ مطابق جنوری ۲۰۱۶ء
- صفحات : ۶۰۸
- قیمت : ۴۰۰ روپے

ملنے کے پتے:

- مرکز نشر و تحقیق لال باغ مرادآباد **09058602750**
- مکتبہ صدیق اینڈ کلاتھ ہاؤس لال باغ مرادآباد **09997747293**
- کتب خانہ یحوی محلہ مفتی سہارن پور
- کتب خانہ نعیمیہ دیوبند



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



## مسائل کی پوچھ تاچھ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

[الأنبياء: ٧]

ترجمہ: پس پوچھ لو جانکار لوگوں سے اگر تم نہ جانتے ہو۔



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ.

(سنن أبي داؤد ٤٩/١ رقم: ٣٣٦، سنن ابن ماجه ٤٣/١ قم: ٥٧٢)

ترجمہ: عاجز (ناواقف) شخص کے لئے اطمینان قلب کا ذریعہ

(معتبر اور جانکار لوگوں سے مسئلہ کے بارے میں) سوال کر لینا ہے۔



# اجمالی فہرست

## کتاب الوقف

- وقف کے مسائل ----- ۸۸-۳۲
- متولی اوقاف؛ شرائط و احکام ----- ۱۰۲-۸۹
- اوقاف میں تصرف کرنا ----- ۱۵۲-۱۰۳
- اوقاف کی زمینوں کا تبادلہ ----- ۱۷۸-۱۵۳

## احکام مساجد

- مسجد کی بناء و تعمیر ----- ۲۱۳-۱۷۹
- مسجد شرعی ----- ۲۵۴-۲۱۲
- سرکاری زمین مسجد میں استعمال کرنا ----- ۲۷۳-۲۵۵
- مسجد کا متولی اور اُس کے احکام ----- ۲۸۹-۲۷۴
- مسجد کی آمدنی اور اُس کا مصرف ----- ۳۴۰-۲۹۰
- مسجد میں حرام اور مشتبہ مال لگانا ----- ۳۸۰-۳۴۱
- مسجد کا پیسہ مدرسہ میں اور مدرسہ کا مسجد میں لگانا ----- ۴۰۰-۳۸۱
- مسجد میں مدرسہ وغیرہ قائم کرنا ----- ۴۱۹-۴۰۱
- مسجد کی اشیاء کرایہ پر دینا ----- ۴۲۹-۴۲۰

- مسجد میں لاؤڈ اسپیکر اور اس کا استعمال ----- ۲۳۰-۲۴۴
- مسجد کی چیزیں ذاتی استعمال میں لانا ----- ۲۴۵-۲۵۹
- ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا ----- ۲۶۰-۲۶۹
- مسجد میں خارجی تصرف کرنا ----- ۲۷۰-۲۸۶

## آدابِ مساجد

- مسجد کو گذرگاہ بنانا ----- ۲۸۷-۲۹۴
- مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ----- ۲۹۵-۵۰۶
- مسجد میں سونا اور رہائش اختیار کرنا ----- ۵-۵۱۸
- مسجد کے قریب طہارت خانہ بنانا ----- ۵۱۹-۵۲۷
- مسجد میں بدبودار چیز داخل کرنا ----- ۵۲۸-۵۳۵
- مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا ----- ۵۳۶-۵۳۹
- مسجد میں زیب و زینت کرنا ----- ۵۴۰-۵۴۷
- مسجد میں تعلیم و تعلم ----- ۵۴۸-۵۶۴
- متفرقات احکام مساجد ----- ۵۶۵-۵۷۴

۶۰۸-۵۷۵

## احکام عید گاہ



# تفصیلی فہرست

## کتاب الوقف وقف کے مسائل

۳۲

- صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے؟ ----- ۳۲
- مسجد کے لئے زمین وقف کرنا؟ ----- ۳۳
- اپنے گھر کی زمین مسجد میں دینا؟ ----- ۳۶
- عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لئے زمین دینا؟ ----- ۳۷
- مسجد کے نام رجسٹری کے بغیر صرف زبانی وقف کرنا؟ ----- ۳۸
- زبانی وقف کرنے کے بعد رجسٹری کرانا ضروری نہیں ----- ۴۰
- وارثین کو نہ دے کر مکان مدرسہ کے نام وقف کرنا؟ ----- ۴۱
- ورثہ کی موجودگی میں پوری زمین مسجد کے نام وقف کرنا؟ ----- ۴۳
- جائیداد میں اولاد کو حصہ نہ دے کر مسجد میں وقف کرنا؟ ----- ۴۵
- وقف علی الاولاد کرنے کے بعد جائیداد کو مسجد مدرسہ میں ہیہ کرنا؟ ----- ۴۶
- وارثین میں اگر صرف بھتیجے اور بھانجے ہوں تو کل مال مسجد کیلئے وقف کرنا کیسا ہے؟ ----- ۴۷
- اپنی ذاتی زمین میں قومی مدرسہ کی تعمیر؟ ----- ۴۸
- گاؤں سبھا کا کسی کی شخصی زمین کو اپنی ملک میں لے کر اُس پر مدرسہ بنانے کیلئے دینا؟ -- ۴۹
- مطلق کار خیر کیلئے وقف کردہ زمین میں مسجد مدرسہ وغیرہ بنانا؟ ----- ۵۰

- حج و قربانی کیلئے وقف کی گئی آمدنی کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا؟----- ۵۳
- موقوفہ زمین پر مدرسہ تعمیر کر کے متولی کا بیٹے کے نام کا کتبہ لگانا؟----- ۵۴
- پنجاب وقف بورڈ کے زیر قبضہ زمینوں کو مدارس، مساجد اور رفاہی کاموں میں استعمال کرنا؟ -- ۵۵
- مدرسہ کے چندہ سے خریدی گئی زمین پر وقف کا حکم کب لگے گا؟----- ۵۷
- جائیداد کو اس طرح وقف کرنا کہ زندگی میں واقف استعمال کرے اور مرنے کے بعد ادارہ؟--- ۵۸
- تاحیات مدرسہ کا رکن شوریٰ رہنے کی شرط پر مدرسہ کے لئے زمین وقف کرنا؟----- ۵۹
- مسجد کے نام مکان وقف کر کے تاحیات اُس میں رہنے کی شرط لگانا؟----- ۶۱
- چک بندی کے وقت مسجد کے لئے چھوڑی گئی زمین وقف شرعی ہے یا مسجد کی ملکیت؟--- ۶۳
- رشتہ داروں کی طرف سے تیمارداری کی شرط پر مسجد کے نام مکان وقف کرنا؟----- ۶۴
- ختم تراویح پر آمدنی صرف کرنے کی شرط پر زمین مسجد کے نام وقف کرنا؟----- ۶۷
- نابالغ بہن کی طرف سے بھائی بہنوں کے نام وقف کرنا؟----- ۶۷
- موجودہ زمانے میں مکانات اور جائیداد کو اولاد پر وقف کرنا؟----- ۶۹
- اولاد در اولاد پر وقف شدہ جائیداد میں واقف کی حیات میں مرنے والوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟--- ۷۱
- واقف کی زندگی میں مرنے والی لڑکی کا وقف علی الا اولاد میں حصہ؟----- ۷۳
- واقف کا مسجد تعمیر کر کے وقف ہونے کا اعلان کرنا، اور بیوی کا اُس کے وقف ہونے کی تردید کرنا؟- ۷۵
- ”اسلامک دعوت اکیڈمی“ کو مکان وقف کر کے ضرورت پر فروخت کرنے کا اختیار دینا؟--- ۷۸
- مسجد کے نام موقوفہ زمین میں والدین کی وصیت کے مطابق اُن کی تدفین کرنا؟----- ۸۲
- عوامی کنویں کی جگہ مسجد میں دینا؟----- ۸۳
- زید نے مسجد کیلئے رقم دی؛ لیکن تعمیر سے قبل زید کا انتقال ہو گیا؟----- ۸۴
- سرکاری اسٹامپ پر وقف نامہ لکھوا کر حق وراثت کا دعویٰ کرنا؟----- ۸۵
- ”مجلس دعوت الحق“ سے ملحق ہونے کے زمانے میں خریدی گئی زمین مجلس کی ہے یا مدرسہ کی؟-- ۸۶

## متولی اوقاف؛ شرائط و احکام

۸۹

- موقوفہ زمین میں واقف کا حق تولیت؟ ..... ۸۹
- موقوفہ مکان میں اولاد در اولاد کو تولیت کی وصیت کرنا؟ ..... ۸۹
- نسلاً بعد نسل اولاد کو کو تولیت کی وصیت کرنا؟ ..... ۹۱
- تولیت وقف کی وصیت بڑے بیٹے کے نام کرنا؟ ..... ۹۲
- متولی کی طرف سے اگر زندگی میں انتقال تولیت کا ثبوت نہ ملے تو متولی کی اولاد کو تولیت کا حق ہوگا؟ - ۹۴
- کیا واقف کی وصیت کے بغیر اولاد کو ورثہ متولی بنایا جاسکتا ہے؟ ..... ۹۵
- اولاد کی عدم موجودگی میں عصبہ کیلئے تولیت کی وصیت کرنا؟ ..... ۹۵
- اولاد در اولاد کی عدم موجودگی میں صحیح العقیدہ عالم کو متولی بنانے کی وصیت کرنا؟ ..... ۹۶
- بیوی کو موقوفہ مکان کا متولی بنانا؟ ..... ۹۸
- واقف کی اولاد کو نہ رہنے کی صورت میں حاکم شہر کا کسی دوسرے کو اوقاف کا متولی بنانا؟ - ۹۸
- متولی کا وقف کی آمدنی سے اپنی اجرت لینا؟ ..... ۹۹
- مسجد کمیٹی اور متولی کا لاپرواہ امام کو برخاست کرنا؟ ..... ۱۰۰
- واقف کا متولی وقف کو معزول کرنا؟ ..... ۱۰۰
- متولی کی مرضی کے بغیر موقوفہ جائیداد پر قبضہ کرنا؟ ..... ۱۰۱

۱۰۳

## اوقاف میں تصرف کرنا

- کیا واقف وقف کو ختم کر کے ماکانہ تصرف کر سکتا ہے؟ ..... ۱۰۳
- وقف کی زمین فروخت کرنا؟ ..... ۱۰۴
- موقوفہ زمین کو کسی وارث کا فروخت کرنا؟ ..... ۱۰۴
- غیر مسلموں کے قبضے سے بچانے کیلئے مسجد اور قبرستان کو فروخت کرنا ..... ۱۰۶



- وقف علی اللہ یا وقف علی الاولاد کو فروخت کرنا؟ ----- ۱۰۷
- جائیداد موقوفہ کو از روئے شرع محمدی فروخت کرنا؟ ----- ۱۰۸
- وقف کی جائیداد کو متولی کی ملکیت سمجھ کر فروخت کرنا؟ ----- ۱۰۹
- موقوفہ زمین کو بیچنا جائز نہیں ----- ۱۱۰
- مدرسہ کو زمین دے کر واپس لینا؟ ----- ۱۱۲
- مشترکہ زمین مسجد کے نام وقف کر کے کسی ایک شریک کا اپنے حصہ کی زمین واپس لینا؟ - ۱۱۳
- عید گاہ کے لئے وقف کردہ زمین کو تین سال بعد واپس لینا؟ ----- ۱۱۵
- مسجد کیلئے زمین دینے والوں سے راستہ کیلئے زمین طلب کرنا؟ ----- ۱۱۶
- مسجد کیلئے زمین وقف کر کے اُس کا معاوضہ طلب کرنا؟ ----- ۱۱۷
- مرکزی ادارہ کا ملحقہ مدارس کو بطور تبرع زمین دے کر واپس لینا؟ ----- ۱۲۰
- مسجد کی موقوفہ زمین کی بولی لگا کر زیادہ کرایہ پر دینا؟ ----- ۱۲۲
- اجر مثل سے کم پر اوقاف کی آراضی کرایہ پر نہیں دی جائے گی؟ ----- ۱۲۳
- وقف کی جائیداد سینما چلانے کے لئے کرایہ پر دینا؟ ----- ۱۲۴
- دینی تعلیم کے ادارہ کی موقوفہ زمین کو آئی ٹی آئی کیلئے کرایہ پر دینا؟ ----- ۱۲۵
- وقف بورڈ کی زمین لمبے پٹے پر دینا اور پگڑی لینا؟ ----- ۱۲۶
- وقف کی جائیداد کو سنی وقف بورڈ سے منسوخ کرانا؟ ----- ۱۲۷
- مسجد کے نام پر چھوڑی گئی زمین فروخت کرنا؟ ----- ۱۲۸
- جس زمین کو مدرسہ کیلئے وقف کرنے کی نیت کی ہو اُس کو فروخت کرنا؟ ----- ۱۲۹
- مسجد کے نام پلاٹ بک کرنے کے بعد آبادی نہ ہونے کی وجہ سے فروخت کرنا؟ ----- ۱۲۹
- اہل مسجد کا موقوفہ مکان کو فروخت کرنا؟ ----- ۱۳۰

- مسجد کے کرایہ کے موقوفہ مکانات کو فروخت کرنا؟ ----- ۱۳۱
- مسجد کی موقوفہ زمین مدرسہ کو فروخت کرنا؟ ----- ۱۳۲
- متولی کا مدرسہ کے لئے خریدی گئی زمین کو مسجد کے نام کرنا؟ ----- ۱۳۳
- زمین مسجد کے نام وقف کر دینے کے بعد اس کو خریدنا؟ ----- ۱۳۶
- اہل مدرسہ کا مسجد کی زمین غصب کرنا؟ ----- ۱۳۷
- سرحدی علاقہ میں واقع مسجد کو حکومت کے ہاٹ میں لینے کی وجہ سے ویران چھوڑ دینا؟ ----- ۱۳۸
- جو جگہ مسجد کیلئے کارآمد نہ ہو اس کو فروخت کر کے مسجد میں پیسہ لگانا؟ ----- ۱۴۰
- جس زمین کی آمدنی مسجد کے لئے وقف ہو اسے فروخت کر کے مسجد میں لگانا؟ ----- ۱۴۲
- مدرسہ کا موقوفہ مکان فروخت کر کے لڑکوں کو کاروبار کرانا؟ ----- ۱۴۲
- موقوفہ خانقاہ میں غسل میت کے لئے جگہ بنانا؟ ----- ۱۴۳
- مدارس کے لئے موقوفہ قرآن کریم کو فروخت کر کے دینی و درسی کتب خریدنا؟ ----- ۱۴۵
- قرآن کریم خریدنے کیلئے دی گئی رقم سے دینی کتابیں خریدنا؟ ----- ۱۴۶
- انجمن اسلامیہ کے اوقاف کہاں کہاں خرچ کئے جاسکتے ہیں؟ ----- ۱۴۸
- درگاہوں اور مزارات کے نام وقف زمینوں کی آمدنی کا مصرف؟ ----- ۱۴۹
- قومی ادارے کی آمدنی کہاں خرچ کی جائے؟ ----- ۱۵۱

## ۱۵۳ اوقاف کی زمینوں کا تبادلہ

- آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے موقوفہ زمین کا تبادلہ کرنا؟ ----- ۱۵۳
- مسجد کیلئے متعین کردہ زمین کے بدلے دوسری زمین وقف کرنا؟ ----- ۱۵۴
- وقف علی الخیر جائیداد کو فروخت کر کے دوسری خریدنا؟ ----- ۱۵۵
- آمدنی بڑھانے کیلئے موقوفہ جائیداد کو فروخت کر کے دوسری خریدنا؟ ----- ۱۵۶

- موقوفہ زمین کا کرایہ کم ہونے کی وجہ سے فروخت کر کے دوسری خریدنا؟ ----- ۱۵۷
- ضیاع کے اندیشہ سے موقوفہ آراضی کو فروخت کر کے دوسری زمین خریدنا؟ ----- ۱۶۰
- سرکاری تحویل میں گرفتہ موقوفہ زمین کو بیچ کر دوسری لینا؟ ----- ۱۶۲
- آبادی سے دور مدرسہ کی مملوکہ زمین کو بیچ کر آبادی میں جگہ لینا؟ ----- ۱۶۳
- مسجد کی ڈیڑھ گٹھ موقوفہ زمین کے بدلہ ۱۲ گٹھ زمین کا تبادلہ کرنا؟ ----- ۱۶۴
- مدرسہ کی غیر مستعملہ زمین کو فروخت کر کے دوسری زمین لینا؟ ----- ۱۶۵
- تالاب کی زد میں آنے کی وجہ سے ایک مسجد کی جگہ فروخت کر کے دوسری زمین خریدنا -- ۱۶۶
- مسجد کے ناقابل استعمال مکان کو فروخت کر کے دوسری جگہ خریدنا؟ ----- ۱۶۷
- مسجد کے نام متعینہ جگہ خرید کر دوسری جگہ پر مسجد بنانا؟ ----- ۱۶۸
- غیر مامون علاقہ سے مسجد کی زمین فروخت کر کے دوسری جگہ لینا؟ ----- ۱۷۰
- ٹرسٹ کا مسجد کے نام زمین لے کر اُس کو دوسری زمین سے بدلنا؟ ----- ۱۷۱
- مسجد یا وقف کی آراضی کو منتقل کرنا؟ ----- ۱۷۲
- عارضی بنائی گئی مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا ----- ۱۷۳
- غیر مسلموں کے غلبہ کی وجہ سے گاؤں اور مسجد چھوڑنا؟ ----- ۱۷۴
- گاؤں اُجڑ جانے کی وجہ سے مسجد فروخت کر کے دوسری مسجد بنانا؟ ----- ۱۷۶

## احکام مساجد

### مسجد کی بناء و تعمیر

۱۸۰

- بلا ضرورت مسجد کی تعمیر؟ ----- ۱۸۰
- آبادی کی کثرت کی وجہ سے گاؤں میں دوسری مسجد بنانا؟ ----- ۱۸۱
- نمازیوں کے بڑھنے کی وجہ سے دوسری مسجد تعمیر کرنا؟ ----- ۱۸۲

- کسی بزرگ کے نام پر مسجد کا نام رکھنا؟ ۱۸۳
- مدرسہ میں مسجد بنانا اور ایام تعطیل میں اُسے آباد رکھنا؟ ۱۸۴
- نیچے کے حصہ میں ذاتی کاروبار کر کے اُوپر مسجد تعمیر کرنا؟ ۱۸۵
- نیچے دوکانیں اُوپر مسجد بنانا؟ ۱۸۶
- اُوپر مسجد نیچے دوکان جس میں غیر مسلم مورتی کی پوجا کرے؟ ۱۸۸
- عام گذرگاہ کے اُوپر لینسٹر ڈال کر مسجد بنانا؟ ۱۸۹
- مسجد قدیم کو شہید کر کے نیچے مکتب اُوپر مسجد بنانا؟ ۱۹۰
- مسجد کے بالائی حصہ پر محراب بنانا ۱۹۰
- تعزیر رکھنے کی جگہ پر مسجد بنانا؟ ۱۹۱
- مسجد کے صحن میں بوسیدہ ہڈیاں نکالنا؟ ۱۹۲
- مسجد کے موقوفہ مکان کو مسجد بنانا؟ ۱۹۳
- قدیم مسجد کو مکتب بنا کر بڑی مسجد تعمیر کرنا؟ ۱۹۴
- مسجد کے مینار بنانے کا حکم؟ ۱۹۵
- مسجد سے متصل جماعت خانہ پر مینار اور رہائش کی تعمیر؟ ۱۹۵
- مسجد کے اندر کسی کے نام کا کتبہ لگانا؟ ۱۹۶
- مسجد یا مدرسہ کی تعمیر کے بعد دروازہ پر نام کا پتھر نصب کرنا؟ ۱۹۷
- درس گاہ میں مسجد کے صحن کی طرف کھڑکی کھولنا؟ ۱۹۹
- MLA کا اپنے امدادی فنڈ سے عید گاہ یا مسجد میں رقم دینا؟ ۲۰۰
- مسجد کی دونوں جانب روشن دان اور کھڑکیوں کی جگہ چھوڑنا؟ ۲۰۰
- مسجد مدرسہ کے پرانے تعمیری میٹریل کو فروخت کرنا؟ ۲۰۱
- مسجد خضر کی تعریف ۲۰۲

- پرانی مسجد منہدم کر کے اونچی بنانا؟ ۲۰۳
- مسجد سے ملحق مکانات کو مسجد میں شامل کرنا؟ ۲۰۴
- مدرسہ کے کمرے کو مسجد میں شامل کرنا ۲۰۵
- پرانی قبر کو برابر کر کے مسجد میں شامل کرنا؟ ۲۰۶
- پرانی قبروں پر لینٹریڈال کر مسجد میں شامل کرنا؟ ۲۰۷
- غسل خانہ کی جگہ کو صف میں شامل کرنا ۲۰۸
- کیا بیت الخلاء کو مسقف کر کے مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے؟ ۲۰۹
- استنجاء خانے کو توڑ کر مسجد کے صحن میں شامل کرنا؟ ۲۰۹
- رفاہ عام کے کنویں کو مسجد میں شامل کرنا؟ ۲۱۰
- مسجد کی توسیع کے بعد محراب کہاں بنائیں؟ ۲۱۲
- قدیم مسجد میں قبلہ سے معمولی انحراف مضہ نہیں ۲۱۲

## مسجدِ شرعی

۲۱۴

- مسجد کا اطلاق کن کن حصوں پر ہوتا ہے؟ ۲۱۴
- مسجد کے دور ہونے کی وجہ سے عید گاہ کو مسجد بنانا؟ ۲۱۵
- کیا عید گاہ کا میدان مسجدِ شرعی کے حکم میں ہے؟ ۲۱۶
- مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانے سے مسجدِ شرعی بن جاتی ہے ۲۱۷
- مسجد کی دوکانوں کو مسجد میں شامل کرنے سے اُس پر بھی مسجدِ شرعی کے احکام جاری ہونگے۔ ۲۱۸
- مسجدِ شرعی قائم ہونے کے بعد اُس حصہ پر دوکان بنوانا؟ ۲۱۹
- مسجدِ شرعی کے حصہ میں دوکان بنانا درست نہیں ۲۲۰
- نئی انتظامیہ کا مسجدِ شرعی کی متعینہ حدود میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ۲۲۰

- مسجدِ شرعی میں دائیں بائیں خالی جگہ چھوڑ کر صف بچھانا؟ ۲۲۳
- مسجد کے بالائی حصہ کا رقبہ اگر تختانی حصہ سے زائد ہو، تو وہ مسجدِ شرعی میں داخل ہوگا یا نہیں؟ ۲۲۴
- عارضی جگہ پر نماز پڑھنے سے وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتی ۲۲۵
- فیکٹری کے ایک کمرہ کو مسجد کے نام سے موسوم کرنا؟ ۲۲۶
- گورنمنٹ کا آفسوں میں نماز پڑھنے کے لئے ہال بنانا؟ ۲۲۶
- صحن اور فناء مسجد کسے کہتے ہیں؟ ۲۲۸
- فناء مسجد میں نماز اور تراویح کا حکم؟ ۲۲۹
- کیا جماعت خانہ اور مسجد میں اتصال شرط ہے؟ ۲۳۰
- مسجد کے صحن کو خارج مسجد قرار دے کر اس کو مسافر خانہ بنانا؟ ۲۳۱
- قدیم مسجد کے صحن میں ایک حصہ کو جو تاجپیل رکھنے کی جگہ بنانا؟ ۲۳۲
- چھوٹی بڑی مسجد کا کیا معیار ہے؟ ۲۳۳
- مسجدِ کبیر: ۴۰ ذراع لمبی اور ۴۰ ذراع چوڑی؟ ۲۳۴
- ۱۰۰ ارفٹ چوڑی اور ۵۰ ارفٹ لمبی مسجد کا حکم؟ ۲۳۵
- مسجد کا منبر محراب کے کس جانب ہونا چاہئے؟ ۲۳۶
- غصب کردہ زمین پر مسجد بنانا؟ ۲۳۸
- مغصوبہ زمین میں مسجد بنانا؟ ۲۳۹
- سوتیلی والدہ کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنانا ۲۴۰
- مشترکہ غیر منقسم زمین پر ایک فریق کا مسجد بنانا؟ ۲۴۱
- مالکان اور میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر بورڈ کی جگہ مسجد بنانا؟ ۲۴۳
- جس مسجد کی بلڈنگ کی قیمت دلال نے مالک کو نہ دی ہو اس میں نماز کا حکم؟ ۲۴۴
- دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے بنائی ہوئی مسجد مسجدِ شرعی نہیں ۲۴۵

- مسجد کی توسیع زینہ راستہ وغیرہ مغصوبہ زمین پر بنانا؟ ۲۴۷
- مسجد کی تعمیر کے لئے غیر مسلم سے چند لینا؟ ۲۴۸
- غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگانا؟ ۲۴۹
- غیر مسلم کا دیا ہوا پیسہ مسجد میں کہاں لگ سکتا ہے؟ ۲۵۰
- غیر مسلم کا اپنے پیسے سے مسجد بنوانا؟ ۲۵۱
- غیر مسلم کے پیسے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا؟ ۲۵۲

## ۲۵۵ سرکاری زمین مسجد میں استعمال کرنا

- سرکاری زمین کو مسجد میں شامل کرنا؟ ۲۵۵
- سرکاری دی ہوئی زمین میں مسجد بنانا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ۲۵۵
- سرکاری زمین پر زبردستی مسجد مدرسہ بنانا؟ ۲۵۶
- گرام سماج کی زمین مسجد کو دینا؟ ۲۵۷
- گرام سماج کی زمین پر مسجد کیلئے دوکان بنانا؟ ۲۵۸
- گرام سماج کی زمین پر پردھان کی اجازت سے مسجد بنانا؟ ۲۵۹
- نگر پالیکا کی اجازت سے خالی زمین کو مسجد میں لینا؟ ۲۶۰
- وقف بورڈ کی زمین پر مسجد بنا کر اُسکے نیچے پارکنگ و تہ خانہ بنانا؟ ۲۶۱
- نگر پالیکا کی زمین میں بغیر اجازت مسجد کا ’کولہو‘ لگانا؟ ۲۶۲
- نگر پالیکا کی زمین پر مسجد کا بورنگ لگانا؟ ۲۶۵
- سرکاری زمین میں چیئر مین کی اجازت کے بغیر مسجد کا سمر سیول لگانا؟ ۲۶۶
- سرکاری رقم سے مسجد کی زمین میں کنواں کھدوانا؟ ۲۶۸
- مسجد میں سرکاری نل لگوانا؟ ۲۶۹
- سرکاری فنڈ سے مسجد میں ’نل‘ لگوانا؟ ۲۶۹

- مسجد یا عید گاہ کے اندر سرکاری بینڈ پائپ استعمال کرنا؟ ----- ۲۷۰
- میونسپلٹی اور محکمہ بجلی والوں کا مسجد کو مفت بجلی دینا؟ ----- ۲۷۱
- گورنمنٹ کی اینٹوں کو پردھان کا مدرسہ یا مسجد میں دینا؟ ----- ۲۷۲

## مساجد کی تولیت

۲۷۴

- مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟ ----- ۲۷۴
- مسجد کی کمیٹی اور نگرانوں کا امانت اور دیانت دار ہونا ضروری ہے ----- ۲۷۴
- حساب میں خرد برد کرنے والا مسجد کی کمیٹی میں رہنے کا اہل نہیں؟ ----- ۲۷۵
- خائن اور بدکلام متولی کو ہٹا کر دوسرا متولی بنانا؟ ----- ۲۷۶
- مسجد کے حساب و کتاب میں خرد برد کرنے والے کا زبردستی رشوت دے کر سکرٹری بنے رہنا؟ ----- ۲۷۸
- مسجد کے ٹرسٹیوں اور متولیوں کے کیا کیا اختیارات ہیں؟ ----- ۲۷۹
- متولی کا مسجد کے مکان میں ذاتی تصرف کرنا، اور الزام لگا کر امام کو نکالنا؟ ----- ۲۸۱
- متولی کا زمین غصب کر کے اُس کی آمدنی مسجد میں لگانا؟ ----- ۲۸۳
- مسجد کے خدمت گار متولی کا مسجد کی رقم سے ضرورت کے بقدر خرچ کرنا؟ ----- ۲۸۵
- مسجد کی حدود متعین کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ----- ۲۸۶
- علماء و مفتیان کا حدود مسجد کو متعین کرنا؟ ----- ۲۸۷
- مسجد کے انتظام میں اہل محلہ کی دخل اندازی کرنا؟ ----- ۲۸۸

## مسجد کی آمدنی اور اُس کا مصرف

۲۹۰

- مسجد کے تعاون کے لئے رقم لکھوا کر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ----- ۲۹۰
- مسجد کے نام پر جمع کیا گیا چندہ متعلقات مسجد پر خرچ کرنا؟ ----- ۲۹۱
- مسجد کے بیت المال کی رقم لوگوں کو قرض دینا؟ ----- ۲۹۲
- مسجد کی زمین کی پیداوار کو فروخت کر کے روپیہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۲۹۲



- مسجد کے پیسہ سے مسجد کے لئے مکان بنانا؟ ----- ۲۹۳
- موقوفہ جائیدادوں کو برادری کی ملکیت میں دینا اور فروخت کر کے رقم مسجد میں لگانا؟ -- ۲۹۴
- بارن کے چندہ کو مسجد کی تعمیر میں لگانا؟ ----- ۲۹۸
- تعمیری چندہ سے مسجد کی بجلی کا بل ادا کرنا؟ ----- ۳۰۰
- مسجد کی رقم سے قبرستان کی باؤنڈری کرانا ----- ۳۰۱
- مسجد کا مال فروخت کر کے مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۰۲
- مسجد کے فنڈ سے تعزیہ بنوانا؟ ----- ۳۰۳
- مسجد کی رقم سے جنازہ کی چارپائی تیار کرنا؟ ----- ۳۰۳
- مسجد کی آمدنی سے متوفی امام کے وارثین کے لئے پنشن دینا؟ ----- ۳۰۴
- مسجد کے فنڈ سے پانی گرم کرنے کا انتظام کرنا؟ ----- ۳۰۵
- مسجد بننے کے بعد اس کی آمدنی کے لئے نیچے دوکان بنانا؟ ----- ۳۰۷
- تراویح کے چندہ کو مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۰۸
- امام کو کم تنخواہ دے کر مسجد کی آمدنی نقش ونگار میں لگانا؟ ----- ۳۰۹
- سودی قرض پر خریدے گئے ٹرک کی آمدنی مسجد مدرسہ میں لگانا؟ ----- ۳۱۰
- مالی جرمانے کی رقم مسجد مدرسہ میں دینا؟ ----- ۳۱۱
- پرانی مسجد کا ملبہ فروخت کر کے پیسہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۱۳
- قبرستان کا روپیہ مسجد میں صرف کرنا؟ ----- ۳۱۴
- مسجد کی رقم امانت رکھنے کے بعد خزانچی نادار مفلس ہو گیا؟ ----- ۳۱۴
- موقوفہ قبرستان میں ذاتی رقم سے لگائے گئے درختوں کی قیمت مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۱۶
- مسجد میں مکتب اور مدرس کی تنخواہ کا نظام؟ ----- ۳۱۷
- مسجد کا قرض معاف کرانا اور امام کی تنخواہ میں اضافہ کرنا؟ ----- ۳۱۹
- وقف بورڈ سے ائمہ مساجد کی تنخواہ ----- ۳۲۰

- گولک کے ذریعہ وصول شدہ رقم سے امام کی تنخواہ دینا؟ ----- ۳۲۱
- مسجد کی گولک میں جمع شدہ پیسے سے امام کی تنخواہ دینا؟ ----- ۳۲۱
- مختلف عنوان پر جمع کردہ چندہ کے مصارف ----- ۳۲۲
- فصل کا چالیسواں حصہ مسجد کے چندہ میں وصول کرنا؟ ----- ۳۲۵
- مسجد کے رنگ و روغن کیلئے جمع کردہ رقم سے امام کی تنخواہ دینا؟ ----- ۳۲۶
- تعمیر مسجد کے چندے سے امام مؤذن کی تنخواہ؟ ----- ۳۲۷
- امام صاحب کیلئے ایام غیر حاضری کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ----- ۳۲۸
- مدتِ رخصت سے زائد تعطیل کرنے پر انتظامیہ کا تنخواہ کاٹنا؟ ----- ۳۲۹
- مسجد کا چندہ کرنے والے کو چندہ کی رقم سے تنخواہ دینا؟ ----- ۳۳۰
- مزدوری پر مسجد کا چندہ کرنا؟ ----- ۳۳۲
- مسجد کے چندہ میں سے چندہ کرنے کی اجرت لینا؟ ----- ۳۳۳
- مسجد میں چندہ دینے والوں کا نام مانگ پرنشر کرنا ----- ۳۳۳
- مانگ میں چندہ کرنا اور درمیان میں تلاوت اور نعت وغیرہ پڑھنا؟ ----- ۳۳۴
- مسجد کے مانگ سے چندہ دہندہ کا نام لے کر اعلان کرنا؟ ----- ۳۳۵
- مسجد میں سلام کے بعد مسائل کا اعلان کرنا؟ ----- ۳۳۶
- صاحب خیر کا اپنے خرچ سے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا؟ ----- ۳۳۸
- مسجد کا تعاون نہ کرنے والوں کے جنازے اور شادیوں میں رکاوٹ ڈالنا ----- ۳۳۹

## مسجد میں حرام اور مشتبہ مال لگانا

- حلال اور حرام آمدنی والے کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا؟ ----- ۳۴۱
- مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم ----- ۳۴۱
- بینک سے حاصل شدہ سود کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا ----- ۳۴۳
- سودی رقم چندہ پیٹی میں ڈالنا؟ ----- ۳۴۴

- انٹرسٹ کی رقم سے سیلاب میں شہید ہونے والی مسجد کی تعمیر کرنا؟ ----- ۳۴۶
- مسجد کے بیت الخلاء میں سود کا روپیہ لگانا؟ ----- ۳۴۷
- مسجد کے فنڈ سے حاصل شدہ سود کو مسجد کی بیت الخلاء میں لگانا؟ ----- ۳۴۷
- مسجد مدرسہ کے راستے کے لئے سرکاری روڈ پر سود کے پیسوں سے مٹی ڈالنا؟ ----- ۳۴۸
- رشوت لینے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۴۹
- رشوت کے پیسے سے خریدی ہوئی زمین مسجد میں دینا؟ ----- ۳۵۰
- حرام آمدنی والوں سے مسجد میں چندہ لینا؟ ----- ۳۵۱
- حرام کاروبار کرنے والوں کا امام صاحب کے لئے چندہ دینا؟ ----- ۳۵۲
- اُن فیم گانج کی آمدنی مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۵۴
- پلٹے بازی کا پیسہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۵۴
- پلٹے بازوں کی مسجد میں امامت کرنا اور اُن کا کھانا کھانا؟ ----- ۳۵۵
- شیعوں کا پیسہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۵۶
- فکس ڈپازٹ سے حاصل شدہ پیسے سے مسجد بنانا؟ ----- ۳۵۷
- گورنمنٹ کی رقم مسجد میں لگانا ----- ۳۵۸
- سرکاری روپے سے مسجد یا عید گاہ کی تعمیر کرنا؟ ----- ۳۵۹
- سرکاری بجلی بغیر منظور کے مسجد میں استعمال کرنا؟ ----- ۳۶۰
- سرکاری لائٹ سے سرکاری اجازت کے بغیر پانی گرم کرنا؟ ----- ۳۶۰
- چوری کی بجلی مسجد میں جلانا اور اُس کی ہوا کھانا؟ ----- ۳۶۲
- مساجد میں چوری کی بجلی کا حکم ----- ۳۶۳
- مسجدوں میں چوری کی بجلی استعمال کرنا؟ ----- ۳۶۴
- میٹر کے بغیر مسجد میں ہیٹر، گیزر سے پانی گرم کرنا؟ ----- ۳۶۵
- بغیر میٹر کے مسجد میں بجلی استعمال کرنا؟ ----- ۳۶۷

- میٹر بند کر کے باہر سے بجلی لے کر مسجد میں گیزر چلانا؟ ----- ۳۶۷
- میٹر خراب ہونے کی وجہ سے مسجد میں زائد بجلی کا استعمال کرنا ----- ۳۶۹
- جس کولہو میں چوری کا گناہ ملتا ہو اُس کی کھوئی سے مسجد کا پانی گرم کرنا؟ ----- ۳۷۰
- TV چینل کی آمدنی مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۷۱
- ٹی وی اور ڈش کا کاروبار کرنے والے کی آمدنی مسجد میں دینا؟ ----- ۳۷۲
- خنزیر کے بالوں سے برش بنانے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۷۳
- خنزیر کے بالوں سے برش بنانا اور اُس کی آمدنی مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۷۴
- شراب کی آمدنی سے حلال کاروبار کرنے والے کا مسجد میں قالیں دینا؟ ----- ۳۷۵
- مسجد کا سامان خریدنے کیلئے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم کا استعمال؟ ----- ۳۷۷
- چرم قربانی کی رقم حیلہ کر کے مسجد کی تعمیر میں لگانا؟ ----- ۳۷۸
- بیج فاسد میں بیج فروخت کر کے قیمت مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۷۹

## ۳۸۱ مسجد کا پیسہ مدرسہ میں اور مدرسہ کا مسجد میں لگانا

- مسجد و مدرسہ کی آمدنی ایک دوسرے میں خرچ کرنا؟ ----- ۳۸۱
- مسجد کے نام پر آئے ہوئے چندہ کو مدرسہ میں لگانا؟ ----- ۳۸۲
- مدرسہ کا پیسہ اور سامان مدرسہ کی مسجد میں لگانا؟ ----- ۳۸۲
- مدرسہ کی دوکانوں کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا؟ ----- ۳۸۳
- مسجد کی توسیع کیلئے حاصل شدہ رقم کا مدرسہ یا اسکول میں صرف کرنا؟ ----- ۳۸۴
- مسجد کے برتن اور دوکانوں کی آمدنی سے مسجد اور مدرسہ کا خرچ چلانا؟ ----- ۳۸۵
- مسجد کے نام پر جمع کردہ چندہ سے مدرسہ کی تعمیر کرنا؟ ----- ۳۸۷
- مسجد کی رقم پر ائمری اسکول کی تعمیر یا تنخواہ میں خرچ کرنا ----- ۳۸۸
- اسکول کی نیت سے خرید کردہ مکان میں مسجد کا روپیہ لگانا؟ ----- ۳۸۹
- مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کے کام میں بطور رشوت خرچ کرنا ----- ۳۹۱

- مسجد کی بجلی مدرسہ والوں کا استعمال کرنا اور مسجد سے قرض لینا ..... ۳۹۲
- مسجد کا مال قیتاً خرید کر مدرسہ والوں کا رقم ادا نہ کرنا؟ ..... ۳۹۳
- مسجد اور اسکول کے نام پر جمع کردہ مخلوط رقم سے خریدا ہوا کمرہ مسجد کا ہے یا اسکول کا؟ --- ۳۹۴
- مسجد کی زمین پر بنے ہوئے مدرسہ سے مسجد کمیٹی کا کرایہ لینا؟ ..... ۳۹۵
- مسجد کے نام پر وصول کیا ہوا چندہ دوسری ہستی کے مدرسہ یا مسجد میں لگانا؟ ..... ۳۹۷
- مدرسہ کی اینٹ مسجد کی نالی میں لگانا؟ ..... ۳۹۸
- مسجد کی چھت پر مدرسہ کی کڑیاں رکھنا ..... ۳۹۹

## مسجد میں مدرسہ وغیرہ قائم کرنا

۴۰۱

- مسجد کے تہ خانہ میں مدرسہ قائم کرنا اور ایک کے مصارف دوسرے میں استعمال کرنا؟ --- ۴۰۱
- امام کے حجرہ کے اوپر مدرسہ کے لئے کمرہ بنانا؟ ..... ۴۰۹
- مسجد کی زمین میں مدرسہ کے لئے دوکانیں بنوانا؟ ..... ۴۱۰
- مسجد سے ملحق عمارت میں اسکول چلانا ..... ۴۱۱
- حرم مسجد میں بنے ہوئے کمروں میں اسکول چلانا؟ ..... ۴۱۳
- مدرسہ کی ٹرسٹ سوسائٹی کا مسجد کی زمین پر مدرسہ بنانا؟ ..... ۴۱۴
- مسجد کے وضو خانہ کے اوپر ہسپتال کھولنا؟ ..... ۴۱۵
- مدرسہ کے چندہ کے لئے مسجد میں اعلان کرنا؟ ..... ۴۱۷
- موقوفہ مکان میں مسجد سے متصل لڑکیوں کا اسکول چلانا؟ ..... ۴۱۷

## مسجد کی اشیاء کرایہ پر دینا

۴۲۰

- مسجد کی لائٹ کرایہ پر دینا؟ ..... ۴۲۰
- مسجد کے حمز بیڑ اور سیڑھی کو کرایہ پر دینا؟ ..... ۴۲۱
- تبلیغی جماعت سے مسجد کے برتن استعمال کرنے پر کرایہ لینا؟ ..... ۴۲۱

- مسجد کی بجلی کا ضرورت سے زائد استعمال؟ ----- ۴۲۲
- مسجد کی جائیداد کو اجرتِ مثل سے کم کرایہ پر دینا ----- ۴۲۳
- قبرستان کا کرایہ نامہ مسجد کے نام کر دینے کے بعد مسجد میں اُس کا کرایہ استعمال کرنا؟ -- ۴۲۳
- مسجد کی موقوفہ زمین مؤذن کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اجرت پر دینا؟ ----- ۴۲۴
- مسجد کے مکان کو خالی کرانا ظلم نہیں؟ ----- ۴۲۸
- طویل مدتی کرایہ دار سے مسجد کی دوکان خالی کرانا؟ ----- ۴۲۸

## ۴۳۰ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر اور اُس کا استعمال

- مانگ چیک کرتے وقت ”الحمد للہ“ ”سبحان اللہ“ وغیرہ کہنا؟ ----- ۴۳۰
- حدودِ مسجد میں مانگ سے اذان دینا؟ ----- ۴۳۱
- مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا؟ ----- ۴۳۲
- دوسری منزل کے مصلیوں کو آواز پہنچانے کیلئے لاؤڈ اسپیکر لگانا؟ ----- ۴۳۳
- سحر و افطار کے وقت مسجد میں سائرن بجانا؟ ----- ۴۳۳
- سحری میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر عورتوں کی نعت چلانا؟ ----- ۴۳۴
- سحر میں اعلان کیلئے مسجد میں نعت اور تقریر کی کیسٹ بجانا؟ ----- ۴۳۵
- نماز جنازہ کی وجہ سے سب مسجدوں میں ایک وقت نماز کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۳۶
- مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تیجہ اور چالیسواں کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۳۸
- مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر میت کی تدفین کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۳۹
- مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر دنیوی اعلانات کرنا؟ ----- ۴۳۹
- مسجد کے مانگ سے اجرت لے کر دنیاوی ضرورتوں کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۴۰
- مسجد کے مانگ سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۴۱
- مسجد کے مانگ سے بچہ گم ہو جانے کا اعلان کرنا؟ ----- ۴۴۲

- مسجد کے مانگ سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا؟ ..... ۲۴۳
- مسجد کے پیسہ سے خرید کردہ مانگ سے خرید و فروخت کا اعلان کرنا؟ ..... ۲۴۳
- مسجد کے مانگ سے جانوروں کا اعلان کرنا؟ ..... ۲۴۴

## ۲۴۵ مسجد کی چیزیں ذاتی استعمال میں لانا

- مسجد کی اشیاء ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا؟ ..... ۲۴۵
- مسجد کا پرانا سامان ذاتی استعمال میں لانا؟ ..... ۲۴۶
- مسجد کی چھت کا ٹین اپنے ذاتی استعمال میں لانا؟ ..... ۲۴۷
- مسجد کی صندوقی کا بغیر اجرت کے ذاتی استعمال میں لانا؟ ..... ۲۴۸
- مسجد کی ٹینکی کا پانی گھر لے جانا؟ ..... ۲۴۹
- مسجد کی ٹینکی سے غسل کرنا؟ ..... ۲۵۰
- مسجد کے جزیئر اور ٹینکی کا پانی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا؟ ..... ۲۵۱
- مسجد کے پانی اور استنجاء خانے کو بے جا استعمال سے بچانے کیلئے دروازہ بند کرنا؟ ..... ۲۵۲
- مسجد کے چراغ کو درست کرتے وقت اُنکی پر لگے تیل کو استعمال کرنا؟ ..... ۲۵۳
- شہید کی ہوئی مسجد کے ملبہ کا بلا معاوضہ استعمال کرنا؟ ..... ۲۵۴
- مسجد کی چیزیں محلہ والوں کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ..... ۲۵۵
- مسجد کے حجرے میں تجارت کا سامان رکھنا؟ ..... ۲۵۶
- غیر ضروری سامان بیچ کر مسجد کی ضروریات میں لگانا؟ ..... ۲۵۷
- مسجد کی زمین کا کوئی حصہ کسی کے ذاتی مفاد کے لئے چھوڑنا؟ ..... ۲۵۸

## ۲۶۰ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

- ایک مسجد کا غیر ضروری سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا؟ ..... ۲۶۰
- ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں بغیر اجازت استعمال کرنا؟ ..... ۲۶۱

- ایک مسجد کی زائد درمی دوسری مسجد میں لے جانا؟ ----- ۴۶۲
- ضرورت سے زائد موقوفہ قرآنوں کا فروخت کرنا؟ ----- ۴۶۳
- مسجد کا سامان اجتماعات میں لے جانا؟ ----- ۴۶۴
- مسجد کی صفوف اور لوٹے عید گاہ میں استعمال کرنا؟ ----- ۴۶۵
- مسجدوں کے موقوفہ تالاب کی آمدنی عید گاہ پر خرچ کرنا؟ ----- ۴۶۶
- ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں استعمال کرنا؟ ----- ۴۶۷
- ایک مسجد کیلئے جمع شدہ روپیہ دوسری مسجد میں صرف کرنا؟ ----- ۴۶۸

## ۴۷۰ مسجد میں خارجی تصرف کرنا

- مسجد کے منبر و محراب اور صفِ اول کو منہدم کر کے دوکان بنانا؟ ----- ۴۷۰
- مسجد کی سطح زمین کھود کر دوکان بنانا؟ ----- ۴۷۱
- مسجد شرعی میں سے دو صفیں کم کر کے وضو خانہ بنانا؟ ----- ۴۷۱
- حدودِ مسجد کے ایک حصہ کو مصلیٰ الجناز قرار دینا؟ ----- ۴۷۳
- مسجد کے قبلہ کی جانب سوئمنگ پل بنانا؟ ----- ۴۷۴
- ضرورت کے وقت مسجد کا کچھ حصہ سڑک میں شامل کرنا؟ ----- ۴۷۵
- مسجد کے طاق کے اوپر سے اپنے زینہ کی چھت نکالنا؟ ----- ۴۷۶
- مسجد کی موقوفہ زمین پر ذاتی مکان بنانا؟ ----- ۴۷۷
- مسجد کے موقوفہ مکان پر قبضہ کر کے ذاتی استعمال میں لانا؟ ----- ۴۷۸
- مسجد کی خالی زمین میں نرسری کھولنا؟ ----- ۴۷۹
- مسجد کی زمین میں قبرستان بنانا؟ ----- ۴۷۹
- مسجد کے تہ خانہ کو پارکنگ میں استعمال کرنا؟ ----- ۴۸۰
- مسجد کی موقوفہ زمین کو ہڑپ کرنے والے کی سزا؟ ----- ۴۸۱



- مسجد پر غیر مسلموں کا غاصبانہ قبضہ کرنا؟ ..... ۲۸۲
- مسجد کی دوکان پر کرایہ دار کا غاصبانہ قبضہ کرنا؟ ..... ۲۸۴
- افسران کا مسجد کا حصہ سڑک کی توسیع میں شامل کرنا؟ ..... ۲۸۵

## آداب مساجد

### مسجد کو گزرگاہ بنانا

۲۸۸

- مسجد میں دوڑ لگانا؟ ..... ۲۸۸
- وضو خانے کے اُوپر جوتے چپل کے ساتھ جانا؟ ..... ۲۸۸
- صحن مسجد کے ایک حصہ کو طلبہ و مدرسین کی مخصوص گزرگاہ بنانا؟ ..... ۲۹۰
- مسجد کے متولی کا مسجد کے ایک حصہ کو گزرگاہ بنانا؟ ..... ۲۹۱
- مسجد کی دیوار کے متصل مسجد کی زمین میں گزرگاہ کو بند کرنا؟ ..... ۲۹۱
- چھوٹی قدیم مسجد کی آخری صف کو ختم کر کے گزرگاہ بنانا؟ ..... ۲۹۳
- گزرگاہ بننے کے خوف سے نماز کے علاوہ اوقات میں مسجد کے دروازوں کو بند کرنا؟ -- ۲۹۴

### مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا

۲۹۵

- مسجد کے آداب اور امام و مقتدی کے اخلاق ..... ۲۹۵
- مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا؟ ..... ۲۹۷
- مسجد میں ہنسی مذاق کرنا؟ ..... ۲۹۸
- حلقہ لگا کر مسجد میں سیاسی و غیر سیاسی باتیں کرنا؟ ..... ۲۹۹
- مسجد کے محراب اور وضو خانہ میں موبائل پر گفتگو کرنا؟ ..... ۵۰۰
- مسجد میں گالی دینا؟ ..... ۵۰۱
- مسجد کے چندہ میں ریزگاری کا نوٹ سے تبادلہ کرنا؟ ..... ۵۰۱
- مسجد میں خرید و فروخت اور لین دین کا حکم؟ ..... ۵۰۳
- مسجد میں تفسیر قرآن کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا؟ ..... ۵۰۴

## مسجد میں سونا اور رہائش اختیار کرنا

- ۵۰۷ ----- مسجد میں کس کے لئے سونا جائز ہے؟
- ۵۰۸ ----- مقیم کا مسجد میں سونا؟
- ۵۰۹ ----- مسافر کا مسجد میں سونا؟
- ۵۰۹ ----- امام کا مسجد کی چھت پر یا اندر سونا؟
- ۵۱۰ ----- امام کا مسجد میں چھوٹی بچی کو لے کر سونا؟
- ۵۱۱ ----- اہل محلہ کا گھروں سے آ کر مسجد میں آرام کرنا؟
- ۵۱۱ ----- مسجد میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو مسجد سے کس طرح نکلے؟
- ۵۱۲ ----- ناپاکی کی حالت میں مسجدِ شرعی کے خارجی حصہ میں جانا؟
- ۵۱۳ ----- مسجد کی چھت پر رہائش اختیار کرنا؟
- ۵۱۵ ----- بیتِ اعتکاف مسجد میں قیام؟
- ۵۱۶ ----- مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت اور دعا کس جگہ پڑھی جائے گی؟
- ۵۱۶ ----- مسجد میں اجتماعی طور پر روزہ افطار کرنا؟
- ۵۱۷ ----- مسجد کے بالائی حصہ پر کرایہ دے کر رہنا؟

## مسجد کے قریب طہارت خانہ بنانا

- ۵۱۹ ----- مسجد کے محراب کے پاس استنجاء خانہ بنانا؟
- ۵۲۰ ----- صف کے قریب پاخانہ اور پیشاب گھر؟
- ۵۲۱ ----- مسجد کے صحن میں لیٹرین کا کنواں بنوانا؟
- ۵۲۲ ----- مسجد کے نچلے حصہ میں لیٹرین و استنجاء خانہ بنانا؟
- ۵۲۳ ----- مسجد کے نام پر لی گئی زمین میں وضو خانہ پیشاب خانہ وغیرہ بنانا؟
- ۵۲۴ ----- مسجد کی زمین میں بیت الخلاء بنانا؟

- مسجد کے خارجی حصہ میں بیت الخلاء بنانا؟ ۵۲۵-----
- مسجد کی زمین پر تبلیغی اجتماع کے لئے عارضی بیت الخلاء بنانا؟ ۵۲۶-----

## ۵۲۸ مسجد میں بدبودار چیز داخل کرنا

- پیاز کھا کر مسجد میں جانا؟ ۵۲۸-----
- مسجد میں گیس سلنڈر جلانا؟ ۵۲۸-----
- مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا؟ ۵۳۰-----
- مسجد میں مٹی کے تیل کی لائٹن جلانا؟ ۵۳۱-----
- مسجد میں ماچس کی تیلی جلا کر چراغ جلانا؟ ۵۳۳-----
- مسجد میں اگر بتی جلانا؟ ۵۳۳-----
- مسجد کے صحن میں کھانا پکانا؟ ۵۳۴-----

## ۵۳۶ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا

- جماعت کھڑی ہوتے وقت رومال سے صفوں کو جھاڑنا؟ ۵۳۶-----
- خنزیر کے بالوں سے تیار شدہ برش سے مسجد کی پتائی کرنا؟ ۵۳۶-----
- سور کے بالوں سے بنے برش سے مسجد میں رنگ کرنا؟ ۵۳۸-----
- خنزیر کے بالوں والے برش سے پوتی گئی مسجد کا حکم؟ ۵۳۹-----

## ۵۴۰ مسجد میں زیب و زینت کرنا

- مسجد اور مدرسہ کی تزئین میں رقم خرچ کرنا؟ ۵۴۰-----
- مسجد کی زیبائش کیلئے اپنا ذاتی پیسہ سے شیشہ لگانا؟ ۵۴۱-----
- مسجد میں ایسا پتھر لگانا جس میں تصویر نظر آجائے؟ ۵۴۲-----
- مسجد پر کون سا رنگ لگانا چاہئے؟ ۵۴۳-----

- مسجد کی دیواروں پر آیات قرآنیہ کے کتبائے نقش کرنا؟ ..... ۵۴۴
- مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات کے طغریے اور یا محمد لکھ کر لٹکانا؟ ..... ۵۴۵
- اوقات نماز کے نقشہ کو فریم کرا کے مسجد میں لٹکانا؟ ..... ۵۴۶
- اوقات صلوٰۃ کا فریم کس دیوار پر لٹکانیں؟ ..... ۵۴۷

## مسجد میں تعلیم و تعلم

- ۵۴۸
- مسجد میں طلبہ کا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور قیام کرنا؟ ..... ۵۴۸
- مسجد کو آباد رکھنے کے لئے اس میں مدرسہ قائم کرنا؟ ..... ۵۴۹
- مسجد میں مکتب قائم کرنا اور بچوں سے بلند آواز سے دعاء ماثورہ پڑھوانا؟ ..... ۵۵۰
- مکتب میں جگہ کی قلت کے باعث طلبہ کو مسجد میں پڑھانا؟ ..... ۵۵۱
- مسجد کے بالائی حصہ پر بچوں کو تعلیم دینا؟ ..... ۵۵۳
- مسجد میں فیس لے کر بچوں کو قرآن پڑھانا؟ ..... ۵۵۴
- مسجد کی حد سے متصل امام کے حجرہ کے سامنے دینی درس گاہ بنانا؟ ..... ۵۵۵
- مسجد میں دینی و عصری مخلوط تعلیم دینا؟ ..... ۵۵۶
- بالغ لڑکیوں اور بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دینا؟ ..... ۵۵۷
- مسجد سے متصل مکتب میں عورت کا بچوں کو دینی تعلیم دینا؟ ..... ۵۵۸
- مسجد کے اندر طلبہ کا پروگرام کرنا اور ڈراما اور مکالمہ دکھانا؟ ..... ۵۶۰
- مسجد میں فیس لے کر دینی تعلیم دینا؟ ..... ۵۶۰
- مسجد کی زمین میں مسجد کی آمدنی سے مکتب کی تعمیر کرانا؟ ..... ۵۶۲
- مسجد کی موقوفہ زمین میں سرکاری اسکول قائم کرنا؟ ..... ۵۶۳

## متفرقات احکام مساجد

- ۵۶۵
- گنے کی کھوئی سے مسجد کا پانی گرم کرنا؟ ..... ۵۶۵

- مسجد میں اگر بتی جلانے پر جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا عقیدہ؟ --- ۵۶۵
- مسجد کیلئے زمین دینے والے کا مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا؟ ----- ۵۶۶
- مسجد کی دیواروں میں کبوتر پالنے کے لئے سوراخ کھولنا؟ ----- ۵۶۷
- مساجد اور دینی اداروں کے تحفظ کا شرعی حکم؟ ----- ۵۶۸
- کسی شخص کو بلا عذر محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا؟ ----- ۵۶۹
- محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ ----- ۵۷۱
- مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرنا اور مسجد کی بجلی استعمال کرنا؟ ----- ۵۷۱
- جمعہ کی نماز سے قبل گولک گھما کر چندہ کرنا؟ ----- ۵۷۲

## احکام عید گاہ

- ۵۷۵
- عید گاہ کی تعریف اور مسجد میں تبدیل شدہ عید گاہ کا حکم؟ ----- ۵۷۵
- موقوفہ زمین میں عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۷۶
- مسجد پنج گانہ کے نام وقف کردہ زمین میں عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۷۷
- گرام سماج کی زمین پر عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۷۸
- عید گاہ چھوٹی پڑنے پر اگر دوسری بنائیں تو پہلی عید گاہ کا کیا کریں؟ ----- ۵۷۹
- ایک کلومیٹر کی دوری پر دوسری عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۸۰
- بلا ضرورت ضد بندی سے ایک قصبہ میں دو عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۸۰
- غیر مقلدین کا اپنی عید گاہ الگ بنانا؟ ----- ۵۸۱
- تین گاؤں والوں کا اپنی الگ عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۸۲
- آبادی سے دو کلومیٹر دور گاؤں کی پلاننگ کی جگہ عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۸۲
- مسجد کی زمین پر تبادلہ کر کے عید گاہ بنانا؟ ----- ۵۸۳
- جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں کی عید گاہ کو مدرسہ میں تبدیل کرنا؟ ----- ۵۸۶

- عید گاہ کو آبادی میں آجانے کی وجہ سے جامع مسجد میں تبدیل کرنا؟ ----- ۵۸۷
- پرانی عید گاہ میں مدرسہ بنانا؟ ----- ۵۸۸
- عید گاہ کے لئے خالی پڑی ہوئی زمین پر مدرسہ بنانا؟ ----- ۵۸۹
- عید گاہ کی زمین میں مکتب قائم کرنا اور عید گاہ کو کرایہ دینا؟ ----- ۵۹۰
- عید گاہ کے احاطہ میں دوکان لگا کر کرایہ وصول کرنا؟ ----- ۵۹۲
- پرانی عید گاہ میں شادی ہال اور دوکانیں بنا کر آمدنی حاصل کرنا؟ ----- ۵۹۳
- عید گاہ کے لئے موقوفہ زمین میں شادی ہال بنانا ----- ۵۹۴
- عید گاہ کی چہار دیواری میں کھیلنا؟ ----- ۵۹۶
- عید گاہ کی پیداوار سے عید گاہ کے خادم کو اجرت دینا؟ ----- ۵۹۷
- عید گاہ کے خود ساختہ مجاور کے خلاف قانونی کارروائی کرنا؟ ----- ۵۹۸
- عید گاہ کی مسجد میں ”بلاک پرکھ“ کے کوٹے سے بھرا ڈلوانا؟ ----- ۵۹۹
- عید گاہ سے متصل بسنے والوں کا عید گاہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا؟ ----- ۶۰۰
- کیا مملو کہ عید گاہ میں نماز پنج گانہ پڑھ سکتے ہیں؟ ----- ۶۰۰
- عید گاہ میں غیر مسلم کی طرف سے بچھائی گئی صفوں پر نماز پڑھنا؟ ----- ۶۰۱
- نماز عید سے پہلے سیاسی بے ریش آدمی کا دین کی بات کرنا؟ ----- ۶۰۲
- عورتوں کا عید گاہ میں جانا؟ ----- ۶۰۳
- عورتوں کا مردوں کے ساتھ عیدین کی نماز میں شریک ہونا یا علیحدہ جماعت کرنا؟ ----- ۶۰۴
- M.P یا M.L.A فنڈ کاروپنہ عید گاہ کی باؤنڈری میں لگانا؟ ----- ۶۰۶
- ایک عید گاہ کا سامان دوسری عید گاہ میں لگانا؟ ----- ۶۰۶
- عید گاہ کی زمین غیر مسلم آبادی میں آجانے کی وجہ سے اُسے بیچ کر پیسہ قبرستان میں لگانا؟ ----- ۶۰۷



---

---

# كتابُ الوقف

---

---

# وقف کے مسائل

## صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے؟

**سوال (۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

صدقہ جاریہ کے واسطے بہتر اور اعلیٰ کیا صورت اختیار کرنی چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صدقہ جاریہ کی ایک بہترین شکل وقف فی سبیل اللہ بھی

ہے، یعنی کوئی جائیداد مسجد یا مدرسہ یا عامۃ المسلمین کے نفع کے لئے وقف کر دی جائے، وغیرہ۔ اس طرح کے اوقاف کا ثواب تادیر جاری اور باقی رہتا ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ أخا بنی ساعدۃ توفیت أمہ وهو غائب عنها فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ! إن أمی توفیت وأنا غائبٌ عنها، فهل یبفعها شیء إن تصدقتُ بہ عنها؟ قال نعم! قال: فإنی أشهدک أن حائطي المخرف صدقةً علیہا. (صحیح

البخاری، کتاب الوصایا / باب الإیثار فی الوقف والصدقة ۳۸۷/۱ رقم: ۲۷۶۲ دار الفکر بیروت)

عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عملہ، إلا من ثلاثۃ: إلا من صدقة جاریہ، أو علم ینتفع بہ، أو ولد صالح یدعو لہ. (صحیح مسلم، کتاب الوصیة / باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد

وفاته ۴۱۲ رقم: ۱۶۳۱ بیت الأفكار الدولیة) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۵/۸/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## مسجد کے لئے زمین وقف کرنا؟

**سوال (۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج سے تقریباً ۱۵-۱۶ سال قبل زید نے ایک زمین مسجد عائشہ حفاظت نگر، انگلیشور گجرات کو یہ کہہ کر دی تھی کہ مسجد کا مکتب یہاں منتقل کر دیا جائے، اور تعلیمی سلسلہ یہاں شروع کیا جائے۔ واضح رہے کہ زید نے مکتب کے لئے وہ جگہ دیتے وقت کوئی شرط نہیں لگائی تھی، اُس وقت زید وہ زمین مسجد کے مکتب کے نام کرنا بھی چاہتا تھا؛ لیکن مسجد کا ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داروں نے وہ زمین مسجد کے مکتب کے نام رجسٹرڈ نہیں کرائی، چنانچہ زید نے وہ زمین اپنے ایک رشتہ دار ابو بکر کے نام لکھ دی کہ ضرورت کے وقت جب مسجد کا ٹرسٹ قائم ہو جائے گا تو وہ زمین ابو بکر مسجد کے مکتب کے نام کر دے گا۔

صورت حال یہ ہے کہ وہ زمین ۱۵-۱۶ سال سے مسجد ہی کی تحویل میں ہے اور اس پر قبضہ بھی مسجد کا ہی ہے، مسجد نے اپنے خرچہ سے زمین کے ایک حصہ میں چند کمرے زید کی اجازت سے بنوائے ہیں، جن کا کرایہ امام و مؤذن کی تنخواہ اور دیگر ضروریات مسجد مثلاً مرمت، تعمیر وغیرہ میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک حصہ یوں ہی مکتب کے نام پر خالی پڑا تھا؛ البتہ مسجد نے دیوار قائم کر کے اُس کا احاطہ بنا دیا تھا، اور ابھی چند سال قبل مسجد کے استنجاء خانے خراب ہونے کی وجہ سے اسی جگہ میں عارضی طور پر استنجاء خانے اور غسل خانے بھی بنوائے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زید کی دی ہوئی وہ زمین اب تک ہر اعتبار سے مسجد ہی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔

اب سے چند سال قبل کوشش بسیار کے بعد الحمد للہ مسجد کا ٹرسٹ قائم ہو گیا ہے، جس میں ایک ٹرسٹی خود ابو بکر بھی ہے، جس کے نام فی الحال وہ زمین ہے، جب ٹرسٹ کے لوگ ابو بکر کو وہ زمین مسجد کے مکتب کے نام کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو لہاں کہتا ہے؛ لیکن عملاً انکار کی صورت ہوتی ہے، بہر حال ٹرسٹ کے چند افراد اس زمین پر ٹین شیڈ ڈال کر فرش وغیرہ پلا سٹر کر کے مکتب وہاں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں مدرسہ کے نام کا بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے، بورڈ لگاتے

وقت ابو بکر کے رشتہ داروں نے ہنگامہ کیا اور یہ کہا کہ چوں کہ مکتب کی یہ جگہ فی الحال ابو بکر ٹرسٹی کے نام ہے؛ اس لئے اُس کی اجازت کے بغیر یہاں مکتب شروع کرنا حرام اور ناجائز ہے، جب کہ زید (اصل مالک زمین) نے مسجد کا ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اُس جگہ کو ابو بکر ٹرسٹی کے نام کیا تھا، جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں تحریر کیا جا چکا ہے، ہنگامہ کے موقع پر زید (اصل مالک زمین) بھی آیا تھا اور اُس نے کہا کہ بلڈنگ پلان کے ساتھ کام کرو اور مکتب چلاؤ، ابھی فی الحال مسجد کے مکتب کے فنڈ میں اتنی رقم نہیں ہے کہ مکتب کے لئے بلڈنگ تعمیر کی جاسکے، اب دریافت یہ کرنا ہے کہ:

(۱) زید کا مسجد کے مکتب کو زمین دینا اور مسجد کے مکتب کا اُس پر اتنے عرصے سے قابض

رہنا وقف کہلائے گا یا نہیں؟

(۲) اگر یہ وقف ہے تو زید کا یا اس کے رشتہ دار ابو بکر ٹرسٹی کا وہ زمین مسجد کے مکتب کے

نام نہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

(۳) اب اتنی مدت کے بعد زید خود یا اُس کے رشتہ دار ابو بکر ٹرسٹی وہ زمین دینے سے

انکار کریں یا اپنی بات بدلیں، تو کیا اُس کے حصول کے ذرائع استعمال کئے جاسکتے ہیں؟

(۴) اگر زید یا اُس کے رشتہ دار ابو بکر ٹرسٹی وغیرہ اب وہ جگہ (مسجدِ عائشہ، حفاظت نگر کو

مکتب کے لئے دے چکے ہیں) کسی دوسری جگہ مسجد یا مدرسہ کے نام وقف کرنا چاہیں، تو شرعاً اس کا

کیا حکم ہے؟

(۵) اگر اُس جگہ کا وقف صحیح ہو اور شرعاً وہ جگہ مسجد کے مکتب کی ہے، تو ٹرسٹیوں کو اُس کے

حصول کی کوشش کرنی چاہئے، یا خوف نزاع سے خاموشی اختیار کرنی چاہئے؟ اور ٹرسٹیوں کی یہ

خاموشی (زمین کی عدم حصول یابی) شرعاً کیسی ہے؟

(۶) نیز ہنگامہ کے وقت زید کا یہ کہنا کہ بلڈنگ پلان کے ساتھ کام کرو، تو کیا بغیر بلڈنگ

کے نہیں چل سکتا؟ مدلل و مفصل جواب تحریر فرمائیں۔

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱-۲-۳) بر تقدیر صحت واقعہ حسب تحریر سوال زید

نے اپنی زمین مسجد عائشہ حفاظت نگر انکلیشور میں چلنے والے دینی مکتب کے لئے خاص کی تھی، اور مسجد کا ٹرسٹ رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے مصلحہ اپنے رشتہ دار ابو بکر کے نام رجسٹری کر دی تھی؛ لیکن عملاً یہ جگہ مسجد ہی کے قبضہ و تصرف میں تھی، اسی بنا پر وہاں ضرورت پڑنے پر مسجد کے لئے طہارت خانے بھی بنوائے گئے، اور کرایہ کے لئے کمروں کی بھی تعمیر ہوئی، جن سے حاصل شدہ آمدنی مسجد کی ضروریات میں خرچ ہوتی رہی، اور اس درمیان زید نے کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زید نے یہ جگہ مسجد کی ملکیت میں دے کر مسجد ہی کو قابض و ذخیل بنا دیا تھا، اور قانونی مصلحت سے یہ جگہ ابو بکر کے نام کر دی گئی تھی، پس اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرعاً اس جگہ پر مسجد عائشہ کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے اور زید یا ابو بکر کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں رہا ہے، اور چونکہ مسجد کا ٹرسٹ قائم ہو چکا ہے، اس لئے ابو بکر پر لازم ہے کہ وہ یہ جگہ مسجد عائشہ کے ماتحت چلنے والے مکتب کے نام منتقل کر دے، کیوں کہ اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں رہی۔

الہبة تصح بالایجاب والقبول والقبض ..... وتنعقد بقوله: وهبت

ونحلت، وأعطيت. (الهدایة ۲۸۳/۳ الامین کتابستان دیوبند، ۲۳۷/۶-۲۳۹-۲۳۷/۶ کراچی)

وتتم بالقبض الكامل ويمنع الرجوع فيها الزيادة المتصلة كبناء وغرس

وسمن. (الدرالمختار مع الرد المحتار / کتاب الہبة ۴۹۳/۸-۴-۵۰ زکریا)

لا يتم التبرع إلا بالقبض. (قواعد الفقہ رقم القاعدة: ۲۶۲ المکتبة الأشرفیة دیوبند)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (البحر الرائق،

کتاب الحدود / باب حد القذف ۶۸/۵، الفتاویٰ الہندیة ۱۶۸/۲ زکریا، مستفاد: امداد المفتیین ۸۹۰/۲)

(۴) یہ جگہ چونکہ مسجد عائشہ کو دی جا چکی ہے، اس لئے اب یہ کسی دوسری مسجد یا مدرسہ

کی طرف منتقل نہیں کی جاسکتی۔

وقدمنا عنه قريمان أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثاً، ولا يجوز

نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (الرد المحتار على الدرالمختار، کتاب الوقف / مطلب فيما لو

حرب المسجد أو غيره ۵۴۹/۶ زکریا)

الذی تحصل من کلامه أنه إذا وقف كتباً وعین موضعها، فإن وقف علی أهل ذلك الموضوع لم یجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم. (الرد المحتار، کتاب الوقف /

مطلب فی نقل کتب الوقف من محلها ۵۵۹/۶ زکریا، فتاویٰ دارالعلوم ۱۸۸/۱۳)

من سعی فی نقض ماتم من جهة فسعیه مردود. (قواعد لفقہ ۱۲۹ رقم لقاعدة: ۳۵۳۵)  
 (۵) یہ جگہ مسجد عائشہ کی ملکیت میں ہے، اور مسجد کی مملوکہ جائیدادوں کا تحفظ اور اُس کے حصول کی کوشش انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس لئے حتی الامکان اُس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔

قال فی الإسعاف: ولا یولی إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه. (الرد المحتار، کتاب

الوقف / مطلب فی شروط المتولی ۵۷۸/۶ زکریا)

(۶) زید کا یہ کہنا کہ بلڈنگ پلان کے ساتھ کام کرو، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ زمین واپس لینا چاہتا ہے؛ بلکہ یہ ایک اچھا مشورہ ہے، مسجد والے اگر اس مشورہ کو قبول کر کے پلاننگ کے ساتھ مکتب کے لئے بلڈنگ بنائیں، تو بہتر رہے گا، اور جب ہمت سے کام شروع کریں گے، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران، جزء آیت: ۱۵۹]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدين النصيحة. (سنن الترمذي، أبواب البر والصلة / باب ما جاء في النصيحة ۱۴۱۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۱۱/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اپنے گھر کی زمین مسجد میں دینا؟

سوال (۳): کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید ایک وقف شدہ مکان میں رہتا ہے اس کے گھر کے بالکل بغل میں ایک مسجد ہے، اُس کی دیواریں اُس کے گھر میں ہیں، آیا گھر کی کچھ زمین مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں، اگر دے چکا ہے، تو اُس کو کیا کرنا چاہئے؟ اور وقف شدہ مکان میں میراث جاری ہوگی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اپنے گھر کی زمین مسجد میں دینا شرعاً درست ہے، اور جو زمین مسجد میں دے دی جائے، وہ خود بخود وقف ہو جاتی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔  
ورکنہ الألفاظ الخاصة كأرضي هذه صدقة، قال الشامي: أو ما يدل عليه  
كلفظ صدقة، أو لفظ المساكين، ونحوه كالمسجد الخ. (الدر المختار مع الشامي /  
كتاب الوقف ۲۳۱۶ ہ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۱۰/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لئے زمین دینا؟

**سوال (۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے پاس کچھ زمین خالی پڑی ہے اور اُس کے ۳۰-۴۰ رگزر کے بعد ایک بازار قائم ہونے کا احتمال ہے؛ اس لئے اُس کے گاؤں کے چند آدمی نے اُس سے کہا کہ تمہاری زمین جو خالی پڑی ہے وہ زمین کچھ دنوں کے لئے ہمیں دے دو، ہم وہاں کچھ دنوں تک نماز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر حجرہ بنائیں گے، اُس کے بعد اگر وہ بازار قائم ہو گیا، تو اُس حجرہ کو منتقل کر کے بازار میں لے جائیں گے، اور اگر وہ بازار قائم نہیں ہوا تو حجرہ کو توڑ ڈالیں گے، اور تمہاری زمین خالی ہو جائے گی، تو اس طرح زید کو حجرہ بنانے کے لئے زمین دینا اور اس طرح نماز پڑھنے کے لئے حجرہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے؟ تو پھر اُس حجرہ کو توڑنے یا اُس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد اس جگہ کا کیا حکم ہوگا؟ اُس میں مکان یا بیت الخلاء وغیرہ بنانا یا زراعت کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** زید کا عارضی طور پر اپنی زمین نماز پڑھنے کے لئے دینا شرعاً جائز ہے، قریب میں بازار قائم ہونے کے بعد یا بازار قائم نہ ہونے کی صورت میں جب زمین زید کو واپس کر دی جائے، تو زید اپنی زمین کا بدستور سابق مالک رہے گا، اور تمام مالکانہ تصرفات زراعت و تعمیر وغیرہ کی مکمل اجازت ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ عارضی طور پر کچھ دنوں کے لئے زمین نماز پڑھنے کے واسطے دینے سے وہ شرعی مسجد نہیں بنتی۔

رجل له ساحة لابتاء فيها امر قومًا أن يصلوا فيها بجماعة، فهذا على ثلاثة أوجه - إلى قوله - وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة، ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدًا، لو مات يورث عنه. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ٤٥٥/٢ زكريا)

ولو أمر القوم أن يصلوا فيه بجماعة صلاة أو صلوات يومًا أو شهرًا لا يكون مسجدًا. (الفتاوى التاتارخانية / الفصل الحادي والعشرون في المساجد ١٥٧/٨ رقم: ١١٤٩٩ زكريا)

فلو أذن لقوم أو للناس شهرًا أو سنةً مثلاً لا يزول ملكه. (مجمع الأنهر ٥٩/٢ بيروت، ٥٩٣/٢ مكتبة فقيه الأمة ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۲/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام رجسٹری کے بغیر صرف زبانی وقف کرنا؟

**سوال (۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محمد حنیف ایک زمین دار آدمی ہے، اُس نے اپنی زمین کو مسجد بنوانے کے لئے وقف کیا؛ لیکن کسی کاغذ میں لکھوا کر یا رجسٹری کر کے مسجد کے نام سے نہیں دیا، صرف گاؤں کے لوگوں کی موجودگی میں زبانی وقف ہوا تھا، اور اس وقف شدہ زمین میں مسجد بھی ایک پھونس کی بنوائی گئی تھی، اور کافی

دنوں تک اسی پھونس کی مسجد میں پورے گاؤں والے نماز پینچ گانہ ادا کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ اسی گاؤں میں ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کی گئی، اور محمد حنیف نے پرانی زمین جس میں پھونس کی مسجد ہے اُس کے بدلہ میں دوسری زمین جامع مسجد بنوانے کے لئے وقف کیا ہے، اور پرانی زمین کو محمد مسلم کے پاس فروخت کر دیا تھا، اور محمد مسلم کو آدھی زمین رجسٹری کرا کے دیا تھا، اور آدھی باقی رہی تھی، پھر محمد مسلم اسی زمین کو فروخت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور محمد مسلم سے اس زمین کو ضدین مشتریٰ کی بناء پر گاؤں والوں نے بنا سود و لودایا، اور بنا سود پوری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس پر محمد حنیف نے امین پٹواری لاکر کے زمین کو ناپا اور کاغذ دیکھے تو پوری زمین رجسٹری کر کے نہیں دیا ہے، کچھ باقی ہے، اس پر ضد ہو کر گاؤں والوں نے یہ کہا کہ یہ زمین تو مسجد کے نام سے وقف کیا تھا، یہ مسجد کی ہے، اور زبردستی گاؤں والوں نے اس زمین کے چاروں طرف سے اینٹ کی دیوار دے کر گھیر دیا ہے، اور اندر پھول وغیرہ لگوائے ہیں۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا وہ زمین جو بغیر کسی کاغذ یا رجسٹری کے محمد حنیف نے وقف کیا تھا، مسجد کے نام سے وہ مسجد کی ہے یا محمد حنیف کی ہے، اور جن لوگوں نے زبردستی اس کو مسجد کی زمین کہہ کر گھیر دیا ہے، ان پر کیا گناہ ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** محمد حنیف کے وقف کرنے کے بعد جب وہ جگہ مسجد بن

گئی اور اُس میں نماز بھی ہوتی رہی، تو یہ وقف تام ہو گیا، اُس کی رجسٹری ضروری نہیں، اور اب اُس کا فروخت کرنا ہبہ کرنا وغیرہ کچھ بھی جائز نہیں ہے، اور محمد حنیف نے جو تصرف کیا ہے، وہ شرعاً غیر معتبر ہے۔

ولو قال وهبت داري للمسجد وأعطيتها له صح ويكون تملكاً. قالوا إن

أمرهم بالصلاة أبداً أو أمرهم بالصلاة فيها بجماعة ولم يذكر الأبد؛ لأنه أراد بها

الأبد، ثم مات لا يكون ميراثاً. (طحطاوي على الدر ۵۳۶/۲، الفتاوى الهندية، كتاب الوقف /

وہ زمین ہمیشہ کے لئے مسجد ہوگئی ہے، اس لئے دیگر مساجد کی طرح اس کی حفاظت ضروری ہے، جن لوگوں نے اینٹ وغیرہ سے گھیر کر اس کو محفوظ کر دیا ہے، اُن کا فعل شرعاً درست ہے۔

وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: فيما لو حرم المسجد أو غيره ٥٤٩١٦ زكريا، البحر الرائق / كتاب الوقف ٢٥١١٥ كراچی، كذا في خلاصة الفتاوى / الفصل الرابع في المسجد ٤٢٤١٤ لاہور) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ ۱۴۲۰/۳/۱۵

## زبانی وقف کرنے کے بعد رجسٹری کرانا ضروری نہیں

**سوال (۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے مسجد کے لئے پلاٹ خرید کر اُس میں مسجد تعمیر کرا دی ہے اور زبانی اعلان سے وقف کر دیا ہے، مگر کاغذات میں وقف اس لئے نہیں لکھوایا کہ لوگ مداخلت بے جا کر کے اُس میں دینی تعلیمی کام بھی نہیں ہونے دیں گے، تو کیا اس صورت میں وہ مسجد نہیں کہلائے گی؟ اور اُس میں ثواب مسجد کا نہیں ملے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** زبانی اعلان سے بھی وقف صحیح اور نافذ ہو جاتا ہے، رجسٹری لازم نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ مسجد شرعی کہلائے گی، اور اُس میں نماز پڑھنے سے بلاشبہ مسجد کا ثواب ملے گا۔  
وبقوله وقفته في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً ..... ولا يتم حتى يقبض

ويفوز. (تنوير الأبصار، كتاب الوقف / مطلب في وقف المريض ٥٣٣١٦-٥٣٤) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۲/۱/۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## وارثین کو نہ دے کر مکان مدرسہ کے نام وقف کرنا؟

**سوال (۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر جس مکان میں رہتا ہے یہ والد صاحب نے خریدا تھا، والدہ کے نام بیع تھی، یہ کچا مکان تھا، احقر نے کما کر اس کی پختہ تعمیر کرائی، احقر کی تین بہنیں اور ہم دو بھائی ہیں، والد صاحب نے میرے بڑے بھائی کو زندگی میں حصہ دے دیا تھا، کچھ میرے نام تعمیری کام کرنے کے عوض میں میرے نام کر دیا تھا، اور بقیہ حصہ قبل وفات میرے بڑے لڑکے کے نام وصیت کر دیا تھا کہ بعد میرے انتقال میرا پوتا مالک ہے، اور انتقال فرما گئے۔ والد صاحب کے انتقال سے قبل والدہ صاحبہ نے انتقال فرمایا تھا، میرے والد کے انتقال کے بعد میرے بڑے لڑکے نے مکان کا وہ حصہ جو اس کے نام وصیت تھا، بذریعہ سرکاری عدالت میرے نام کر دیا، اب میں اس مکان میں تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اولادیں سب علیحدہ دور ہیں، یہ میری تیسری بیوی ہے، بیوی کی مدد حاصل کرتے ہوئے گھر میں دینی مدرسہ قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے مدرسہ کو ترقی عطا فرمائی، آج یہ مدرسہ بنام ”جامعہ اصلاح البنات“ میں درجہ پنجم تک لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں، درجہ ششم سے صرف لڑکیاں درجہ ہشتم تک صرف دینی تعلیم جو پانچ مضامین مع قرأت و دستکاری، کپڑا اسلامی اور کپڑے پر کڑھائی و اون کی بُنائی، گویا خالص دینی تعلیم مع دستکاری جاری ہے، بجز اللہ عمارت میں قدرے توسیع بھی ہو چکی ہے، دوسری منزل میں نے تیار کی، خود اور میری بیوی اور دو معلمہ درس دیتی ہیں، مدرسہ ماہانہ معاوضہ فیس پر چلتا ہے، میری موجودہ بیوی کے علاوہ اور کسی اولاد کو مدرسہ سے دلچسپی و محبت نہیں ہے، احقر بجز اللہ مستند حافظ و قاری ہے، عربی و فارسی جماعت سوم تک کافیہ، شرح جامی تک تعلیم حاصل کی ہے، احقر نے اپنی بڑی بیوی مرحومہ کے بڑے لڑکے اور بیوی بچوں سے مدرسہ سنبھالنے کی امید کر رکھی تھی، جو صاف انکار کر دیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ بعد میری وفات جاری رہے، اس فکر کو رکھ کر چاہتا ہوں کہ اس مکان بنام ”رحمانی منزل“ میں مدرسہ ”جامعہ اصلاح البنات“ کے نام سے عمارت رحمانی منزل کو مدرسہ کے نام وقف کر کے ترتیب وار خاندان والوں کو

متولی بنا دوں؛ تاکہ یہ مدرسہ جاری رہے، ورنہ زبردست اندیشہ ہے کہ بعد میری وفات فساد و خون خرابہ ہوگا، تقسیم جائیداد پر، کیوں کہ ایک بیوی موجودہ اور پہلی بیوی مرحومہ کی اولاد اور دوسری بیوی مطلقہ بیوی کی اولاد میں تنازع ہے، بعد انتقال اور بڑھ سکتا ہے؛ لہذا کیا میں یہ بنام ”رحمانی منزل“ مکان مدرسہ کے نام وقف کر سکتا ہوں، اور کس طرح اور کیا مدرسہ کی آمدنی سے اخراجات مدرسہ و اخراجات متولی وقف جائیداد کے بعد کل ورثہ کے حقوق دینے ہوں گے؟ اس میں شرعی طور پر کس طرح ہوں گے، اور بہتر طریقہ کیا ہوگا، بتلایا جائے؟ میری پہلی بیوی سے سات اولادیں موجود ہیں، بقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، صرف ایک لڑکی دوسرا لڑکا، دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکا علیحدہ ہے، کوئی مدد نہیں کرتا ہے، دوسری بیوی مطلقہ سے چھ اولادیں ہیں، ۵ لڑکیاں ایک لڑکا، سب کے سب مطلقہ کے ساتھ ہیں، باوجود کوشش و نوٹس کے بھی میری تحویل میں نہیں آتے ہیں، مگر بعد انتقال ان سے زبردست خطرہ ہے، تیسری بیوی بیوہ موجودہ بوقت نکاح دوڑ کے نابالغ میری تحویل میں برائے پرورش آئے، وہ بالغ ہو کر شادی شدہ اب اپنے والد مرحوم کی جائیداد میں رہتے ہیں، مجھ سے اب علیحدہ ہیں، کیا میں اپنی عمارت مدرسہ کے نام وقف کر سکتا ہوں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر آپ چاہیں تو اپنا مکان اپنی زندگی میں باقاعدہ مذکورہ مدرسہ کے نام وقف کر سکتے ہیں، وقف تام ہونے کے بعد اس کی آمدنی اور منافع میں دیگر وارثین کا حق نہ ہوگا۔

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم يكن مخالف الشرع وهو مالک فله أن يجعل

ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (شامی، کتاب الوقف / مطلب شرائط الوقف معتبرة ۵۲۷/۶ زکریا)

لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي

في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني:

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل

به. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۱۰۶/۲، إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۵/۱۳۱۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ورثہ کی موجودگی میں پوری زمین مسجد کے نام وقف کرنا؟

**سوال (۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید وبکر وغیرہ چار حقیقی بھائی صاحب اولاد ہیں، اور اپنی ذاتی صحرائی آراضی میں ہمیشہ زراعت سے گذر بسر کرتے ہیں، اب ان چاروں میں بڑا بھائی گردش تقدیر سے ضعیف العمر ہونے تک اپنی تمام اولاد سپرد خاک کر دیتا ہے، اور زید مع اہلیہ بے یار و مددگار لاولد رہ جاتے ہیں، لاولد ہونے کے قریب ۵-۶ سال بعد زید کے دل میں کچھ بات آتی ہے، جس کا زید اظہار خیال اپنے محلہ کے زمین دار افراد سے اس طرح کرتا ہے کہ اب میرا اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، میری جو کاشت کی کل آراضی ہے، وہ میں اب اپنے محلہ کی مسجد کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر محلہ کے ذمہ دار لوگوں نے زید کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، تمہارے حقیقی بھائی بھتیجے آخری وقت کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، زید کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور اپنے ارادہ سے باز آ گیا، پھر یہ بات دوسرے لوگوں کو معلوم ہوئی، تو پھر زید کو سمجھایا بہرکایا، اور زید کو مسجد کے لئے وقف کرنے پر آمادہ کر لیا، اور وہ شخص زید کو جنگل ہی سے اپنے ساتھ لے کر اور ساتھ میں دو آدمیوں کو لے کر دفتر رجسٹرار کے یہاں پہنچ کر دو گواہوں کے روبرو کل آراضی کاشت کی جو کہ قریب ۱۶ ہیکٹہ خام ہوتی ہے وصیت کرائی، اور وصیت ان الفاظ میں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کی مالک

میری بیوی رہے گی، اور اہلیہ کے مرنے کے بعد مسجد مالک وقابض ہوگی۔ وصیت کے بعد یہ بات صرف چار آدمیوں: زید اور ذمہ دار شخص اور دو گواہوں یا ایک دو اور لوگوں تک بطور راز رہی، رفتہ رفتہ وقت گذرتا چلا گیا، اب زید کے انتقال کے بعد یہ بات طشت از بام ہوتی ہے کہ وصیت کے مطابق زید کی جائیداد کی مالک مسجد ہے، زید کے ایک بھائی کو اعتراض ہے کہ زید کو بہرہ کراہی کیا گیا، اور ہمیں آج تک اس کا علم نہ ہو سکا، اور کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ بھی کبھی نہیں رہا، تو یہ جائیداد بھائی یا بھتیجوں یا مسجد کو ملے گی، شرعی حکم کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں میتِ موصی کی آراضی کا ایک تہائی

حصہ مسجد میں دیا جائے گا، اور باقی حصہ شرعی ورثہ کا حق ہوگا، جن میں اہلیہ اور بھائی شامل ہیں، بھائیوں کی موجودگی میں بھتیجوں کو کچھ نہ ملے گا۔

عن عبد اللہ بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية

فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. (السنن الكبرى للبيهقي ۳۶۹/۹

رقم: ۱۲۸۳۹، ۵۱۳۱۶ رقم: ۱۲۵۷۲ دار الحديث القاهرة)

وإن أوصى بأن تجعل داره مسجدًا ولم تخرج من الثلث ولم تجز الورثة

تقسم ويجعل ثلاثة مسجدًا. (كنا في الفتاوى التاتارخانية ۶۹۸/۵ إدارة القرآن كراچی)

وإذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية جائزة، ولا يحتاج فيها إلى إجازة

الورثة..... وإذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية فيما زاد على

الثلث لا تجوز إلا بإجازة الوارث. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوصايا / الفصل الثالث في

بيان ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز ۳۸۱/۱۹ رقم: ۳۱۸۵۸-۳۱۸۵۹ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۳/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## جائیداد میں اولاد کو حصہ نہ دے کر مسجد میں وقف کرنا؟

**سوال (۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں عبدالستار ضلع قنوج کے قصبہ سمہن کی ایک مسجد کا متولی ہوں، ہمارے قصبہ میں ایک حاجی محمد اسلام صاحب تقریباً ۷۵ برس کے ہیں، کافی دنوں سے اُن کی اپنے بیٹوں سے نہیں بنتی ہے، اپنے بیٹوں کو کچھ دیا بھی نہیں ہے، ۳۰ یا ۳۵ بیگھہ زمین کے مالک ہیں، زمین کو اُگا، ہی یعنی کرایہ پر دے کر وہ سب اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، لڑکے شادی شدہ ہیں، اور حاجی صاحب کے اس رویہ سے ناخوش ہیں، حاجی صاحب نے اپنی مذکورہ زمین میں سے پانچ بیگھہ زمین جو کہ ٹکٹ یعنی تہائی سے کم ہے، مسجد میں وقف کرنے کے لئے کہا، میں نے انکار کر دیا، اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اگر مسجد کے لئے قبول کر لوں، تو اُن کے لڑکوں کے لئے یہ ناراضگی کا سبب ہوگا، دراصل حالے کہ لڑکوں نے اُن کو عدالت میں پاگل بھی لکھوا دیا ہے؛ تاکہ وہ تصرف نہ کر سکیں، ایسے حالات میں حاجی صاحب کے اصرار پر مذکورہ مسجد کے لئے اُن کی زمین کو برائے وقف قبول کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر اُن کے اصرار پر میں مسجد کے لئے لکھوالوں تو کتہہ گارتو نہیں ہوں گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جو شخص اپنی خوشی سے بلا کسی دباؤ کے اپنے تہائی مال کے اندر اندر کوئی جائیداد کا رخیر کے لئے وقف کرنا چاہتا ہے، تو اُس پر اُس کی اولاد کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ شخص اپنے مال کا زندگی میں مالک و مختار ہے؛ لہذا آپ اگر مسئلہ صورت میں اُس کی خواہش کے مطابق پانچ بیگھہ زمین مسجد پر وقف کرادیں، تو آپ قطعاً گنہگار نہ ہوں گے؛ بلکہ ایک کارخیر میں معاون بننے کے سبب ثواب کی امید ہے۔

وشرطه شرط سائر التبرعات، كحريه وتكليف، وأن يكون قربة في ذاته معلوماً، منجزاً لا معلقاً (الدر المختار) أفاد الوقف لا بد أن يكون مالكة وقت الوقف ملكاً باتاً، ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجوراً عن التصرف. (شامي /

مطلب قد یثبت الوقف بالضرورة ۴۱۰/۲ بیروت، ۲۳/۶ ۵۲۳/۶ زکریا)

وإذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية جائزة، ولا يحتاج فيها إلى إجازة الورثة..... وإذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لأجنبي فهذه الوصية فيما زاد على الثلث لا تجوز إلا بإجازة الوارث. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوصايا / الفصل الثالث في بيان ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز ۳۸۱/۱۹ رقم: ۳۱۸۵۸-۳۱۸۵۹ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۱۱/۱۴۲۹ھ  
 الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف علی الاولاد کرنے کے بعد جائیداد کو مسجد مدرسہ میں ہبہ کرنا؟

**سوال (۱۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نیاز محمد خان نے ایک جائیداد وقف علی الاولاد کی اور وقف نامہ میں لکھا کہ: ”اب آئندہ مجھ کو یا میرے ورثہ یا قائم مقام یا جانشینوں کو جائیداد مذکورہ یا اُس کے کسی خیر خواہ کو اُس کے منافع کے سالانہ کے بیج و رہن و کفالت یا اور کسی طور پر منتقل کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا“، اب اگر اس جائیداد کو اُس کا متولی کسی مسجد یا مدرسہ کے نام بیج یا ہبہ کر دے، تو اُس کا یہ تصرف شرعاً نافذ ہوگا یا نہیں؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف تام ہونے کے بعد موقوفہ جائیداد کو بیچنا اور ملکیت منتقل کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اور متولی کا ایسا تصرف شرعاً نافذ نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب

مہم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۵۲/۴ دار الفکر بیروت، ۵۳۹/۶ زکریا)

قوله: لم يجز بيعه ولا تملكه هو يجمع الفقهاء..... أما امتناع

التملك، فلما بينا من قوله عليه السلام: تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا

يوهب. (فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۶ دار الفکر بیروت، كذا في البحر الرائق / كتاب الوقف

۳۴۲۱۵ زکریا، کذا فی الہندیۃ / اول کتاب الوقف ۳۵۰۱۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۶/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وارثین میں اگر صرف بھتیجے اور بھانجے ہوں تو کل مال مسجد کے لئے وقف کرنا کیسا ہے؟

**سوال (۱۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے چچا با بوعرف ہر و غیر شادی شدہ شخص ہیں، اُن کے ورثہ میں اُن کے سگے حقیقی بھتیجے اور حقیقی بھانجے موجود ہیں، با بوعرف ہر و اپنے والد کو ملی ملکیت کا کل حصہ میں سے بھتیجے اور بھانجوں کو چھوڑ کر اپنا سب ملکیت کا حصہ اپنی زندگی میں مسجد کو وقف کر سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں با بوعرف ہر و صاحب زندگی میں اپنی ملکیت کے خود مالک ہیں، پس اگر وہ صحت کی حالت میں اپنی کل زمین مسجد کے لئے وقف کر کے خود اُس سے بے دخل ہو جائیں، تو یہ وقف تام اور نافذ ہو جائے گا، اور اس میں با بوعرف ہر و کے بھتیجوں وغیرہ کا کوئی حق نہ رہے گا، اور اگر مذکورہ شخص نے باقاعدہ وقف نہیں کیا؛ بلکہ صرف وقف کی وصیت کی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ زندگی میں میں مالک ہوں، اور مرنے کے بعد فلاں مسجد کو ملے گا، تو یہ وصیت صرف ایک تہائی حصہ میں نافذ ہوگی اور بقیہ دو تہائی حصے با بوعرف ہر و کے ورثہ میں تقسیم ہوں گے، اور حسب تحریر سوال اُن کے وارث صرف اُن کے بھتیجوں کے رہتے ہوئے بھانجے اور بھانجیوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي ۷/۱)

فيبدأ بذوي الفروض ثم بالعصبات النسبية ..... ثم ذوي الأرحام أي يبدأ

بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات. (الدر المختار مع الشامی / کتاب

متی صح الوقف بأن قال: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة؛ فإنه يصح حتى لا يملك بيعه ولا يورث عنه. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الأول ۳۵۲/۲)  
 إذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه. (الهداية / كتاب الوقف ۶۴۰/۲ إدارة المعارف ديوبند، ۶۱۹/۲ مکتبه بلال ديوبند)

الوقف في الصحة يعتبر مقدار الثلث لا زائدا عليه، وهو ليس بسديد على إطلاقه؛ فإن الموصى إذا ترك ورثه فإنما لا تصح وصيته بما زاد على الثلث. (البحر الرائق / أول كتاب الوصايا ۴۰۳/۸ كونه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۲۲/۷/۱۴۳۳ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اپنی ذاتی زمین میں قومی مدرسہ کی تعمیر؟

**سوال (۱۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عالم صاحب نے اپنے روپے سے زمین لے کر مدرسہ عوام کے چندہ سے تعمیر کرایا ہے، اور ایک ہی سال میں کافی ترقی کر لی ہے، درجہ حفظ کے ساتھ ساتھ درجہ عربی، فارسی، قرأت کا درجہ بھی قائم کر لیا ہے؛ لیکن زمین کا بیع نامہ ان عالم صاحب کے نام ہے، اور زمین کو وقف نہیں کیا ہے، صرف اس لئے کہ دوسروں کا عمل دخل ہو جائے گا، اور عوام پھر ٹانگ کھینچیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، اور زمین اپنے ذاتی روپیوں سے خریدی ہے، یہ فعل عالم صاحب کا درست ہے؟ اور اس مدرسہ میں چندہ دینا درست ہے؟ ضرورتاً تحریر فرمائیں، ان عالم صاحب سے جب وقف کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے مدرسہ ایسے ہیں جو وقف نہیں ہیں، وقف کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عوام اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کام مدرسہ میں اچھا چل رہا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اپنی ذاتی زمین میں قومی مدرسہ عوام کے تعاون سے



تعمیر کرنے اور چلانے میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے؛ لیکن اس کا انتظام ضرور ہونا چاہئے کہ اُن عالم صاحب کے وارثین بعد میں مدرسہ کی عمارت پر ملکیت کا دعویٰ نہ کرنے لگیں۔

و من بنی سقایۃ للمسلمین أو خاناً یسکنہ بنو السبیل أو رباطاً أو جعل أرضه مقبرۃ لم یزل ملکہ عن ذلک حتی یحکم بہ الحاکم عند أبی حنیفۃ.  
(الهدایۃ مع فتح القدیر، کتاب الوقف / فصل: وإذا بنی مسجداً الخ ۲۲۱/۶ زکریا، کذا فی الفتاوی الثاتارخانیۃ ۱۸۳/۸ رقم: ۱۱۵۸۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۲۶/۱۵ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## گاؤں سبھا کا کسی کی شخصی زمین کو اپنی ملک میں لے کر اُس پر مدرسہ بنانے کے لئے دینا؟

**سوال (۱۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک زمین کا مالک تھا، وہ زمین اُس کے قبضہ میں تھی، آزادی ملنے کے بعد کسی وجہ سے وہ زمین اُس کے نام سے خارج ہوگئی، اور اُس کی ملکیت سے نکل کر سرکار اور گاؤں سبھا کی ملکیت میں چلی گئی، گاؤں پر دھان نے اُس زمین کو اپنی کمیٹی سے منظور کر کر سرکاری قانون کے مطابق مدرسہ والوں کو دے دی؛ تاکہ بعد میں کوئی قانونی پریشانی نہ ہو، مدرسہ والوں نے زید سے بھی اجازت لے لی کہ وہ زمین آپ کی تھی، آپ ہم لوگوں کو مدرسہ اور مسجد بنانے کی اجازت دے دیں، زید نے بخوشی و رضامندی مسجد اور مدرسہ بنانے کی اجازت دے دی کہ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، آپ حضرات مسجد اور مدرسہ بنائیں۔ مزید قانونی پختگی کے لئے چک بندی سے بھی اُس زمین کو مدرسہ کے لئے مضبوط کرادی گئی؛ تاکہ آئندہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، آج سے تقریباً چالیس سال پہلے یہ ساری کارروائی مکمل کرتے ہوئے مدرسہ کی تعمیر ہوگئی، اور ایک مسجد کی بھی تعمیر ہوگئی، مدرسہ میں تعلیم اور مسجد میں نماز برابر جاری ہے، جن لوگوں نے مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اُن میں سے

بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے، چند لوگ زندہ ہیں، تو کیا اُن لوگوں نے مسجد اور مدرسہ بنا کر دین کا کام نہیں کیا؟ کیا اُن لوگوں کا یہ کام عبث اور بے کار ہوا؟ صدقہ جاریہ نہیں ہوا؟ کیا ایسی زمین پر مسجد اور مدرسہ بنانا جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسئلہ صورت میں چونکہ سرکار کی اجازت اور زید کی

رضامندی سے مسجد اور مدرسہ کی تعمیر ہوئی ہے؛ لہذا یہ شرعاً درست ہے، اور جن حضرات نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، وہ صدقہ جاریہ کے ثواب کے مستحق ہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۶۹۲۳)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (شامي، كتاب الوقف / مطلب شرائط الواقف معتبرة ۵۲۷/۶ زكريا)  
لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني: الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن كراچی)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶/۲، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۴/۱۴۳۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مطلق کار خیر کیلئے وقف کردہ زمین میں مسجد مدرسہ وغیرہ بنانا؟**

**سوال (۱۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک زمین ہے جس میں عرصہ دراز سے عملاً ایک قبرستان، ایک جامع مسجد اور مسجد کی آمدنی کے

لئے لب سڑک متعدد دکانیں ہیں، مسجد میں امام و مؤذن کے لئے دو حجرے اور مصلیان کے لئے استنجاء خانے و غسل خانے بھی تعمیر ہیں۔ خیال رہے کہ اس زمین کے وقف میں واقف کی کوئی ہدایت درج نہیں ہے، لوگوں نے اس زمین کے سلسلہ میں مالک زمین (جو بڑے زمین دار تھے) اُن سے کہہ دیا تھا کہ آپ اس زمین کو عوام کے لئے چھوڑ دیں، اُنہوں نے کچھ نہ کہا اور زمین کو چھوڑ دیا، پھر علاقہ کے معزز لوگوں نے ایک کمیٹی بنا کر متولی چن لیا، جس میں مالک زمین کا کوئی دخل نہیں رہا، اب وہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس زمین میں شروع ہی سے قبرستان کے علاوہ مسجد کی تعمیر ہوئی، لب سڑک مسجد کے لئے متعدد دکانیں تعمیر کی گئیں، کئی مرتبہ مسجد کی توسیع بھی کی گئی۔ غرض تینوں چیزیں قبرستان، مسجد مع حجرے و استنجاء خانے اور دکانیں روز اول سے منصوبہ کے تحت تعمیر ہوئیں، والد محترم حضرت مولانا محمد مین الحق صاحب قاسمی سابق ناظم تعلیمات و شیخ الحدیث مدرسہ جامع العلوم کانپور نے فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی کے حکم پر یہاں امامت قبول کی اور تقریباً چالیس سال اس ذمہ داری کو انجام دیا، اب سے ڈھائی سال قبل ماہ رمضان المبارک میں انتقال فرمایا اور یہیں مدفون ہوئے، اب بندہ اس جگہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔

سال گذشتہ بعض اساتذہ صاحب نسبت بزرگوں، معاصر علماء اور علاقہ کے اہم ذمہ داروں کے مشورہ؛ بلکہ اصرار کے بعد یہاں ولی اللہی فکر اور منہج اہل سنت والجماعت جو برصغیر میں منہج دیوبند سے بھی موسوم ہے، اس فکر کا ایک دینی ادارہ حضرت فقیہ الامت کی یاد میں بنام جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کا قیام عمل میں آیا، جس کی ابتداء جامع مسجد اشرف آباد جاج منو سے ہوئی؛ چونکہ سر دست زمین دستیاب نہیں تھی اور لب سڑک مسجد کے لئے تعمیر شدہ دوکانوں کی دوسری منزل میں بھی دوکانیں تعمیر ہونے جا رہی تھیں، بندہ نے بتوسط متولی صاحب انتظامیہ کمیٹی سے درخواست کی کہ آپ کی ضرورت کے بقدر دوکانیں تعمیر ہو چکی ہیں؛ لہذا اوپر دوسری منزل میں دوکانوں کے بجائے ہمیں مدرسہ بنانے کی اجازت دے دیں، انتظامیہ کمیٹی نے اجازت دے دی، اس طرح ان دوکانوں

کے اوپر کچھ کمرے طلبہ کے لئے تعمیر کرائے گئے، نیز نیچے دوکانوں کی جگہ پر مطبخ کی تعمیر عمل میں آگئی، نہ کسی قبر کو مسما کر کیا گیا، نہ کسی قبر کو آگے پیچھے کیا گیا؛ بلکہ قبروں سے مدرسہ کا کوئی مطلب ہی نہیں، دیوبند، دہلی، مراد آباد، لکھنؤ، بنارس، باندہ، میرٹھ، بستی، اعظم گڑھ اور موسمیات ملک کے متعدد جامعات کے مشائخ عظام اور جدید مفتیان کرام کی یہاں تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اور سب پچشم خود موقع کا معائنہ فرما چکے ہیں، اس لئے مذکورہ بالا صورت حال میں درج ذیل سوالوں کے جوابات بلا اگر مگر کے عنایت فرمائیں نوازش ہوگی؟

(۱) مسجد کے لئے پہلے سے تعمیر شدہ دوکانوں کے اوپر متولی یا انتظامیہ کمیٹی کی اجازت سے

مدرسہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) کیا صرف قبرستان کے لئے وقف کی گئی زمین اور اس مذکورہ زمین کا مسئلہ ایک جیسا ہوگا؟

(۳) کیا اس جگہ جہاں آج تک کبھی قبریں بنی ہی نہیں، بالکل لب سڑک جہاں گنداپانی اور

کوڑا پھینکا جاتا تھا، بجائے دوکان کے مطبخ کی تعمیر کی گئی، اس سے قبروں کی توہین کا پہلو نکل سکتا ہے؟

(۴) اس زمین میں ایک جگہ نماز جنازہ کے لئے مختص کی گئی ہے، جس پر دھوپ، گرمی اور

برسات سے حفاظت کے لئے ٹین شیڈ پڑا ہوا ہے، اگر اس میں مضبوط پلر دے کر سلیپ ڈال دی

جائے، جس سے جنازہ گاہ محفوظ ہو جائے اور اوپر ہال اور کمرے تعمیر کر دیئے جائیں، تو شرعاً اس

میں کوئی حرج تو نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال نامہ میں ذکر کردہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ

مذکورہ زمین واقف نے مطلقاً کار خیر اور نفع عوام کے لئے وقف کی تھی؛ لہذا اس کار خیر میں قبرستان،

مسجد اور مدرسہ سب شامل ہیں؛ اس لئے اس زمین کے متولی اور انتظامیہ کمیٹی کی اجازت سے

حسب ضرورت مسجد یا مدرسہ کے لئے تعمیرات کی مطلقاً اجازت ہے، بالخصوص جن جگہوں پر قبریں

بنی ہوئی نہیں ہیں، وہاں ضروری تعمیرات کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے قبروں کی

کوئی توہین لازم نہیں آتی، اسی طرح نماز جنازہ کے لئے خالی چھوڑی ہوئی جگہ کے اوپر کمرے اور ہال کی تعمیر بھی مطلقاً جائز ہے۔ (مستفاد: کفایۃ المفتی ۷/۲۷۵، فتاویٰ محمودیہ ۶/۱۳۰ زکریا قدیم)

شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالک، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم یکن معصیة. (شامی، کتاب الوقف / مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۵۲۷/۶ زکریا)

إنما یحل للمتولی الإذن فیما یزید الوقف به خیراً. (شامی ۶۷۸/۶ زکریا)  
 شرائط الواقف کنص الشارح فی وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص: ۸۵، کذا فی الأشباه والنظائر / کتاب الوقف ۱۰۶/۲، إدارة القرآن کراچی و زکریا دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۷/۱۴۲۶ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حج و قربانی کیلئے وقف کی گئی آمدنی کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا؟

**سوال (۱۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پردادا نے اب سے ۵۰-۶۰ سال قبل ایک جائیداد خریدی، اور اس کی سال بھر کی کرایہ کی آمدنی سے وہ مکہ مکرمہ میں قربانی و حج کرواتا تھا، اُس زمانہ میں یہ تینوں کام آسانی سے ہو جایا کرتے تھے، اور اُس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں غربت بھی تھی، اس کام کو کروانے میں کوئی دشواری بھی نہ تھی، جب کہ آج کے دور حکومت میں پریشانی بھی ہے، اور گرانی کے سبب موجودہ آمدنی سے سال بھر میں صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے، کیا ہم اس کرایہ کی آمدنی سے حج اور قربانی کے بجائے اس آمدنی کو اپنے شہر کے کسی مدرسہ یا مسجد وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جہاں تک ممکن ہو سکے، وقف کی شرط اور غرض کی رعایت

رکھنی ضروری ہے۔ بریں بناء صورتِ مسؤلوہ ميں اگر مذکورہ جائيداد كى آمدنى سے تينوں كام نهيں هوسكتے، تو كم از كم ايك دو تو كروائے جائیں، وه رقم علاقہ كى مساجد ياد رسہ ميں نهيں لگائى جاسكتى۔

شرط الواقف كنص الشارع اي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم

المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچى، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني،

الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن كراچى، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكبة الميمية مصر)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامى، كتاب الوقف /

مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۴۴۵/۴ كراچى، ۶۶۵/۶ زكريا)

فيان لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ، وفي القياس لا يحج

عنه؛ لأنه أمر بالحجة على صفة عدمها فيه غير أنا جوزناه؛ لأننا نعلم أن الموصي

قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن، والممكن فيه ما ذكرناه وهو أولى من

إبطالها رأساً. (الهداية / كتاب لوصايا ۶۶۲/۴ إطرة المعارف ديوبند) فقط واللّه تعالى علم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ زمین پر مدرسہ تعمیر کر کے متولی کا بیٹے کے نام کا کتبہ لگانا؟

**سوال (۱۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک شخص نے مدرسہ کے لئے زمین وقف کردی، عام مسلمانان باشندگان کے نام جو متصل مسجد

ہی ہے، ناظم مسجد نے بغیر عام مسلمانان باشندگان کورائے میں لیتے ہوئے اپنے فرزند کو ایصال

ثواب کی نیت سے اس زمین پر اپنے خرچہ سے مدرسہ تعمیر کرا دیا اور باشندگان مسلمانان کو وقف

کردیا، پڑھائی بھی شروع ہوگئی، اور جب مرحوم فرزند کے نام کا کتبہ لگانا چاہا، تو واقف زمین کے

خاندان والوں نے روک دیا کہ کتبہ نہیں لگے گا، زمین آپ کی نہیں ہے اور کتبہ نہیں لگا، اب اس کا صحیح

حل کیا ہوگا کہ آپس میں نفاق نہ پڑے؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** بہتر شکل یہ ہے کہ نام کسی کا بھی نہ لکھیں، ثواب تو دونوں کو ملے گا، زمین دینے والے کو بھی اور عمارت بنانے والے کو بھی۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي الخ رقم: ۱ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الإمارة / باب قوله إنما الأعمال بالنية الخ رقم: ۱۹۰۷ بيت الأفكار الدولية)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (صحيح مسلم، كتاب الوصية / باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۴۱۲ رقم: ۱۶۳۱ بيت الأفكار الدولية)

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يُحلف الرجل من بعده ثلاث: ..... وصدقة تجري يبلغه أجرها الخ. (سنن ابن ماجه، كتاب السنة / باب ثواب معلم الناس الخير ۲۱ رقم: ۲۴۱ دار الفكر بيروت، وكذا في الترغيب والترهيب مكمل ص: ۵۲ رقم: ۱۸۸ بيت الأفكار الدولية)

لا ثواب إلا بالنية. (الأشباه والنظائر / القاعدة الأول ۶۳/۱ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۱/۱۹۱۹ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

**پنجاب وقف بورڈ کے زیر قبضہ زمینوں کو مدارس، مساجد اور**

**رفاہی کاموں میں استعمال کرنا؟**

**سوال (۱۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: سانحہ سینتالیس کے بعد سے پنجاب وقف بورڈ کے ماتحت وزیر نگرانی تقریباً ۲۵ ہزار بیگھ سے زائد آراضی ہے، یہ آراضی وہ ہے جس پر متولیان و ملازمین بورڈ اپنا قبضہ و تصرف تلاتے ہیں، اور بہت سی آراضی ایسی بھی ہیں جس کا خود ارکان بورڈ کو بھی علم نہیں ہے، تو ایسی صورت حال میں جب کہ بورڈ کے پاس کافی وسیع ترین آراضی ہے، اور بظاہر طویل عرصہ تک اتنی کثیر آراضی کو نہ مساجد بنایا جاسکتا ہے، نہ مقابر کے استعمال میں لایا جاسکتا ہے، اور لوگ عید گاہ بھی بنائیں گے، تو آخر کتنی آراضی میں بنا سکیں گے، اور بورڈ کو اتنی آراضی کا تحفظ بھی مشکل اور دشوار ہے، اور بورڈ کا پیسہ بہت سی بینکوں میں پڑا ہوا سڑ رہا ہے، بینکوں کے سود ہی سود کو لیا جائے تو وہ بھی اراکین بورڈ استعمال میں خرچ کرنے سے عاجز قاصر ہے، ادھر صورت حال اور ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ کہیں بورڈ کی آراضی پر سکھوں نے ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر کے گردوارے بنا رکھے ہیں، اور ہندوؤں نے مندر بنا رکھے ہیں، اور خانقاہوں پر غیروں کا قبضہ ہے، اور ہم مسلم برادری اپنی اقلیت اور طاقت کی کمی اور حالات کی ناہمواری اور روپیہ پیسہ کی ناداری، اور برسر اقتدار حکومت اپنی مخالف، اگر بورڈ کی آراضی کا کوئی مقدمہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہاں سا لہا سال کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کی بات کی طرف دھیان دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے، اور گاؤں دیہات کا ماحول اتنا نازک ہے کہ اذان اور نماز پڑھنے پر مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ان سوروں کو ہم نے سینتالیس میں نکال دیا تھا، پھر یہاں آگئے، اور مساجد کا آزاد کرنا تو کجا بعض جگہوں پر آزادی کا نام لینا بھی جرم ہے، تو ایسے نازک ماحول میں وقف بورڈ کے اراکین مساجد بنانے کے لئے اور جہاں دو چار گھر مسلمانوں کے ہیں، ان کو قبرستان کی حاجت ہے، اور کہیں دینی تعلیم گاہ مدرسہ کی ضرورت ہے، اور کہیں اسلامیہ اسکول کی ضرورت ہے، اور کہیں مخصوص عصری تعلیم شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل اسلام اور مسلمانوں کے گھر بسانے کی ضرورت ہے؛ تاکہ ویران مساجد کچھ نہ کچھ آباد ہوں، اور ان میں پھر سے اللہ اللہ کی صدائیں آنی شروع ہو جائیں، اور اللہ کے یہ بے آبا د گھر آباد ہو جائیں، اراکین بورڈ کی یہ کوشش رہی ہے، اور رہے گی



جس طرح سے بھی مساجد مقابر عید گاہیں خانقاہیں اور دینی درس گاہیں اہل اسلام کے ذریعہ آباد ہو سکیں، اس کی حتی الامکان کوشش جاری رکھی جائے، تو کیا ایسی صورت حال میں بعض جگہوں پر آراضی میں سے معمولی قطعہ آراضی مذکورہ بالا مدات میں دینی پڑ جاتی ہے، تو ایسے نازک ترین حالات میں کیا ارکین بورڈ کو شرعی اعتبار سے اجازت ہے کہ وہ رفاہ عام کے لئے کچھ آراضی بورڈ میں سے دے دیا کریں؛ تاکہ اہل اسلام کسی طرح پر بھی آباد ہوں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اوقاف کی زمینوں کو مسلمانوں کے مفاد کے مطابق

حسب ضرورت مساجد، مدارس، عید گاہ، اور قبرستان وغیرہ کے لئے استعمال کرنا بلاشبہ درست ہے، اور حسب تحریر سوال پنجاب وقف بورڈ ضرورت اور حالات کا جائزہ لے کر اپنے زیر قبضہ زمینوں کو مسلم رفاہی مقاصد میں استعمال کے لئے دے سکتا ہے؛ لیکن یہ خیال رہے کہ کوئی بھی موقوفہ زمین فروخت کرنی یا ہبہ کرنی جائز نہیں؛ البتہ موقوفہ رہ کر اس سے عمومی انتفاع کی اجازت ہے۔

فیقول ملک الواقف عنہ الى الله تعالى على وجه تعود منفعتہ الى العباد،

فیلزم ولا یباع ولا یوہب ولا یورث. (الهدایة / کتاب الوقف ۶۴۰/۲ إدارة المعارف دیوبند،

کذا فی الفتاوی التاتاریخانیة ۳/۸ رقم: ۱۱۰۵۹ زکریا، کذا فی الفتاوی الہندیة، کتاب الوقف / الباب

الأول ۳۵۰/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۷/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مدرسہ کے چندہ سے خریدی گئی زمین پر وقف کا حکم کب لگے گا؟**

**سوال (۱۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کوئی قطعہ زمین مدرسہ کے احاطہ سے متصل چندہ عمومی یا خصوصی سے خریدنے کے بعد کب سے موقوفہ شمار ہوگی؟ جب کہ الفاظ مخصوصہ میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہو، آیا بیدت وقف یا

بیتِ تابید خریدنے سے موقوفہ ہو جائے گی؟ یا کوئی عمارت تعمیر کر دینے سے وقف تام ہو جائے گی؟  
حالاں کہ رکن وقف (الفاظِ مخصوصہ) نہیں پایا گیا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مدرسہ کی طرف سے جو زمین چندہ سے خریدی جاتی ہے، وہ محض خریدنے سے وقف نہیں ہو جاتی ہے؛ بلکہ مدرسہ کی ملکیت شمار ہوتی ہے، پھر اگر اہل مدرسہ اُسے باقاعدہ وقف کر دیں یا مسجد بنا دیں، اُس کے بعد ہی اُس پر وقف کا حکم جاری ہوگا۔

المتولیٰ إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً، أو داراً أو مستغلاً آخر جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجد. (الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الحوالۃ / الباب الأول فی تعریفها الخ ۲۹۷/۳ زکریا، کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیۃ ۱۸۰/۸ رقم: ۱۱۵۶۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۱۲/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## جائیداد کو اس طرح وقف کرنا کہ زندگی میں واقف استعمال

### کرے اور مرنے کے بعد ادارہ؟

**سوال (۱۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طاہرہ اپنی نجی جائیداد سے کچھ حصہ اس شرط کے ساتھ کسی دینی مدرسہ، مسجد، یتیم خانہ میں وقف کرنا چاہتی ہے کہ جب تک طاہرہ بقید حیات ہے، وہ جائیداد اور اُس کی آمدنی اُس کے تصرف میں رہے گی، طاہرہ کے انتقال کے بعد ہی وہ جائیداد ادارہ کے تصرف میں آئے گی، جس میں وقف کی گئی ہے، کیا اس شرط کے ساتھ وقف کیا جاسکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس شرط کے ساتھ بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے؛ لیکن اس طرح سے وقف کرنا کہ زندگی تک میں مالک اور مرنے کے بعد ادارہ مالک، یہ فی الحال وقف نہ ہوگا؛

بلکہ یہ وقف کی وصیت ہے، اور وصیت تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے؛ لہذا اگر اس طرح وقف کر دیا گیا، تو طاہرہ کے مرنے کے بعد اُس کے تمام ترکہ کا حساب لگایا جائے گا، اگر یہ جائیداد کل مال کے ایک تہائی یا اُس سے کم ہے، تو تمام جائیداد وقف ہو جائے گی، اور اگر کل مال کے تہائی سے زائد ہے، تو صرف تہائی وقف ہوگی، بقیہ میں وراثت جاری ہوگی۔ (فتاویٰ رحمیہ ۲۲۲/۳، فتاویٰ محمودیہ ۱۶/۱۶، زکریا قدیم)

عن عمر رضی اللہ عنہ أنه قال: هذا ما أوصی به عبد اللہ عمر أمير

المؤمنين إن حدث به حدث أن تمغماً صدقة، والعبد الذي فيه والسهم الذي بخبير ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تسليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه أن يأكل أو يشتري رقيقاً. رواه أبو داؤد بنحو من هذا. (المغني ۲/۶، إعلاء السنن، كتاب الوقف /

باب جواز تعليق الوقف بالموت الخ ۲۰/۱۳ رقم: ۴۵۴۲ دار الكتب العلمية بيروت)

تجاوز (أي الوصية) بالثلث لا الزيادة عليه. (شامی / کتاب الوصایا ۳۳۹/۱۰

زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۳۲۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تاحیات مدرسہ کارکن شوریٰ رہنے کی شرط پر مدرسہ کے لئے زمین وقف کرنا؟

**سوال (۲۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: میں نے کچھ حصہ آراضی مدرسہ بنانے کے ارادہ سے وقف کی ہے، اور شروع کی ساری تعمیرات و اخراجات اپنے ذاتی اموال سے کرتا رہا، بہر حال اس وقف کی شرائط میں سے بنیادی شرط یہ تھی کہ میں تا آخر عمر اس مدرسہ کی شوریٰ کارکن رہوں گا (اس کمیٹی کا خزانچی مقرر کیا گیا) جو بالآخر میں نے ہی تعمیر کیا تھا، میرا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے، جس میں معاشی مشکلات کی بنا پر میں

دیوالیہ ہو گیا تھا، بہر حال میرے ذاتی کاروبار نے مدرسہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ میں نے وقف کے معاملہ میں کوئی مداخلت کی، اس دوران میں چند سالوں کے لئے ملک سے باہر رہا، اور اپنے بھتیجے کو ذمہ دار اپنی جگہ چھوڑ کیا الحمد للہ، بالآخر میں قانونی طور پر بحال قرار پایا، اور فی الحال میں اپنے تمام کاروباری معاملات پہلے کی طرح چلاتا ہوں، میری عدم موجودگی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ شوریٰ سے مجھے خارج کر دیا گیا ہے، میرے دیوالیہ کی وجہ سے (شوریٰ کے آئین میں ہنوز میرا نام موجود ہے) اب سوال یہ ہے کہ:

(۱) واقف کے کیا حقوق ہیں؟ دوسرے واقف نے جو وقف میں اپنے معاون نگران کے طور پر متعین کیا ہے، اور شوریٰ کی تشکیل دی گئی ہے، کیا وہ لوگ واقف کو اپنے منصب سے بغیر کسی التفات کے ہٹا سکتے ہیں؟

(۲) اگر کسی معاون نگران نے وقف کو غیر قانونی طور پر تبدیل کر لیا بغیر واقف کی اجازت اور مشورے کے، اور نہ ہی باقی شوریٰ کے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) واقف اپنی جائیداد وقف کرتے وقت مناسب شرطیں لگا سکتا ہے، اور ان کا شریعت میں اعتبار ہوگا۔ اور حسبِ تحریر سوال جب کہ واقف نے مذکورہ وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ میں تا عمر مدرسہ کی شوریٰ کارکن رہوں گا، تو اس شرط کا لحاظ رکھنا اہل مدرسہ پر لازم ہے، اور مدرسہ کے ذمہ داران کسی بھی حالت میں واقف کو مدرسہ کی رکنیت سے بے دخل نہیں کر سکتے۔

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴-۴۳۵/۶ زکریا، وکذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني،

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة والعرف يصلح مخصصًا ۴/۵۱۴ کراچی، ۶۶۵/۶ زکریا)

فی البحر: قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها.

(شامی، کتاب الوقف / مطلب: ولاية نصب القيم إلى الوقف ثم لولیه ثم للقاضي ۶۳۳/۶-۶۳۴ زکریا)

(۲) وقف میں کس طرح کی تبدیلی کی گئی ہے، اس کی وضاحت کی جائے، اُس کے بعد

ہی حکم واضح ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۷/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام مکان وقف کر کے تاحیات اُس میں رہنے کی شرط لگانا؟

**سوال (۲۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: محمد ابراہیم ولد محمد اسماعیل مرحوم نے اپنا رہائشی مکان جو اُس نے اپنے پیسے سے خریدا تھا، اور

اپنے پیسے سے بنایا تھا، محمد ابراہیم نے بڑی مسجد اندرا نگر ہلدوانی ضلع نبی تال کے نام وقف کر دیا تھا،

محمد ابراہیم نے وصیت ۱۵ جون ۱۹۹۴ء میں تحریر کرادی تھی، وصیت کے مطابق محمد ابراہیم اور اُس کی

زوجہ زینب بیگم تازست اس مکان میں مقیم رہیں گے، اور دونوں کا انتقال ہونے کے بعد یہ مکان

بڑی مسجد اندرا کالونی ہلدوانی کی ملکیت ہوگا؛ کیوں کہ محمد ابراہیم لا ولد تھے، ۱۹۹۸ء میں محمد ابراہیم

اور اُن کی بیوی زینب بیگم کا انتقال ہو گیا، دونوں کے انتقال کے بعد ۱۹۹۸ء میں محمد ابراہیم کے

چھوٹے بھائی شفیق احمد نے اس مکان پر قبضہ کر کے اس مکان کو کرایہ پر دے دیا ہے، اور جب سے

براہر شفیق احمد کرایہ وصول کر رہا ہے، شفیق احمد نے اب تک جو کرایہ کی رقم وصول کی ہے، کیا شرع کے

مطابق وہ رقم اس کے لئے جائز ہے؟ جب کہ کرایہ کی وہ رقم بڑی مسجد کو ملنا چاہئے تھی؛ کیوں کہ اس

مکان کا وقف بورڈ میں اندراج ہو چکا ہے، اس کے خلاف شفیق احمد نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا

ہے، وصیت کی نقل وقف بورڈ میں درج ہے، یہ ملک موروثی نہیں تھا؛ بلکہ محمد ابراہیم کی ذاتی ملک تھا،

ایسی صورت حال میں ابراہیم کے اس مکان پر اس کے چھوٹے بھائی شفیق احمد کا حق شرعی ہوگا؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** وقف نامہ کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ واقف محمد ابراہیم نے مذکورہ مکان اپنی زندگی ہی میں بڑی مسجد اندرا نگر ہلدوانی کے نام وقف کر دیا تھا، اور خود تاحیات اپنی اور اپنی بیوی کے لئے رہائش کی شرط لگا دی تھی، تو اس شرط کے ساتھ یہ وقف شرعاً معتبر اور نافذ ہو چکا ہے؛ لہذا محمد ابراہیم اور ان کی بیوی کے انتقال کے بعد یہ مکان بڑی مسجد اندرا نگر کے قبضہ میں آنا چاہئے، مسجد خود فائدہ اٹھائے یا کرایہ پردے کر کرایہ وصول کرے وغیرہ، اس مکان پر مرحوم کے بھائی کا قبضہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۳۳/۱۴-۲۳۳-۶۱۳ ڈائجیل، فتاویٰ رحیمیہ ۲۳۶/۹ کراچی)

في الذخير ة: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حياً وبعده للفقراء، قال أبو يوسف: الوقف صحيح، ومشاخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف وعليه الفتوى. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الرابع ۳۹۷/۲، مجمع الأنهر / كتاب الوقف ۵۷۴/۲ دیوبند)

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح، أي لو شرط عند الإيقاف ذلك، اعتبر شرطه، أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف..... فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكاً لله تعالى لنفسه..... وهذا جائز..... والفتوى على قول أبي يوسف. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۲۰/۵ كوئٹہ، تبیین الحقائق / كتاب الوقف ۲۶۸/۴ زکریا)

الواقف إذا شرط لنفسه شيئاً ما دام حياً..... صح هذا الشرط. (الفتاوى السراجية ۴۰۱ دار العلوم أفريقيا)

إنما يملك الإجارة المتولي أو القاضي، ونقل عن الفقيه أبي جعفر إن

كان الأجر كله للموقوف عليه. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۹/۵، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۴/۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۴/۱۴۳۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## چک بندی کے وقت مسجد کے لئے چھوڑی گئی زمین وقف شرعی ہے یا مسجد کی ملکیت؟

**سوال (۲۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ انوار القرآن نعمت پور ضلع سہارن پور کے احاطہ کی دیوار سے ملحق تقریباً تین بیگھے خام اراضی کاشت کی ہے، جو کم و بیش ۴۰ سال قبل جب یو پی میں سرکاری طور پر عام چک بندی آراضی ہوئی تھی، تو اس وقت اس بستی کے کاشت کاروں کی طرف سے گاؤں کی قدیم مسجد کے لئے چھڑوائی گئی تھی، جیسا کہ قبرستان، مدرسہ، کھاد کے گڈھے، پنچایت گھر وغیرہ کے لئے چھڑوائی گئی۔ کسی ایک شخص کی طرف سے نہ مسجد کو دی گئی نہ ہی وقف کی گئی، محض اس لئے چھڑوائی گئی تھی کہ اس کی آمدنی مسجد کی ضروریات میں کام آتی رہے اور اب تک ہو بھی ایسا ہی رہا ہے۔

اب روئے شرع دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ آراضی مدرسہ مذکور کو گئی، اہم ضروریات کے لئے مدرسہ کو درکار ہے، چوں کہ مدرسہ کی حدود اربعہ میں کوئی اور ایسی زمین نہیں ہے جو مدرسہ کی ضروریات میں کام آسکے، چوں کہ مدرسہ کی مشرقی سمت میں پختہ سڑک شمال میں عوام الناس اور قبرستان کا راستہ ہے، مغرب میں اہل بستی کا قبرستان ہے، یہ تینوں سمتیں مدرسہ کی تعمیرات سے بالکل ملحق ہیں، ایسی صورت میں کیا اس زمین کے عوض مدرسہ کی کاشت کی ہی زمین جو مسجد کی دوسری زمین سے بالکل متصل یعنی قطع ملی ہوئی ہے، اور پیداوار میں بھی مسجد کی زمین سے کافی اچھی ہے، مدرسہ اور مسجد کی ان زمینوں کا کیا آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو بھی صورت اس تبادلہ کی شرعی اعتبار سے ہو سکتی ہو، تحریر فرمائیں؟

**الجواب وبالله التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں چک بندی کے وقت مسجد کے لئے چھوڑی گئی زمین وقف شرعی نہیں ہے؛ بلکہ مسجد کی ملکیت ہے؛ لہذا حسبِ ضرورت اس ملکیت والے زمین کے تبادلہ کی اجازت ہے، بشرطیکہ اس سے مسجد کا کوئی نقصان نہ ہو، اور تبادلہ میں زمین کی پیمائش کا نہیں؛ بلکہ قیمت کا لحاظ رکھا جائے؛ کیوں کہ محل وقوع کے اعتبار سے زمین کی قیمتوں میں کافی فرق ہو جاتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۳۰۹، عزیز الفتاویٰ ۱/۵۹۳)

وفي القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيراً من المحلة الموقوفة، وعلى عكسه لا يجوز. (مجمع الأنهر/ كتاب الوقف ۱/۷۳۶)

وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه (الدر المختار) وفي شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي، كتاب الوقف / فيما لو حرب المسجد أو غيره ۶/۴۹۷ زكريا)

سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشترى بثلثها أخرى، قال: نعم. (البحر الرائق ۱۵/۲۵۲، الفتاوى الهندية ۲/۴۷۸ زكريا)

يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي ۶/۴۹۷ زكريا) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۲۲ھ

رشتہ داروں کی طرف سے تیمارداری کی شرط پر مسجد کے نام  
مکان وقف کرنا؟

**سوال (۲۳):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں



کہ: عبدالحی عرف ننٹھا کے کوئی اولاد نہیں تھی، جب وہ ضعیف العمر ہو گئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو قریب ہی رہتے ہیں، بلایا، اور مسجد کے کچھ لوگوں نے جوان کی ہی برادری کے تھے، یہ کہا کہ ہم ننٹھا صاحب کی خدمت اور تیمارداری اس شرط پر کریں گے کہ وہ اپنا مکان و جائیداد مسجد کے نام لکھ دیں، انہوں نے اپنی جائیداد اور مکان مسجد میں لکھ دی، مگر کچھ عرصہ بعد جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو کسی نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ انہوں نے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم لوگ ہماری خدمت نہیں کرو گے، تو ہم مسجد کو یا تم کو کوئی بھی حصہ اپنی جائیداد میں سے نہیں دیں گے۔ برادری کے لوگ اور رشتہ داروں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، مجبوراً انہوں نے پڑوس کے ایک دوسرے برادری ہی کے ایک شخص کی اہلیہ جو قریب ہی ملے ہوئے مکان میں رہتی تھی، اُس نے ان کی خدمت کا ذمہ لیا، اور وہ ان کی خدمت دل و جان سے بخوبی دوا علاج کرتی رہی، پھر انہوں نے مکان کا ایک کمرہ اس شخص کی اہلیہ کے نام باقاعدہ کورٹ میں دے کر رجسٹری بھی کر دی، جب مسجد و وارثان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ننٹھا صاحب کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خاتون جس نے خدمت کی ہے اُس نے ۱۲ ہزار روپے مسجد کو دئے، اس پر ننٹھا صاحب نے کہا کہ بیٹا تم ایک پیسہ نہ دینا، مگر خاتون نے زور زبردستی کی وجہ سے ۱۲ ہزار روپے دے دئے، اور ننٹھا صاحب متعدد لوگوں کے سامنے برابر کہتے رہے کہ اب ہم سب خدمت کرنے والے کو دیں گے، وارثان و مسجد کو کچھ نہ دیں گے، بیٹا تم میری ڈیگ اور دوسرا سامان بیچ کر ہمارا علاج کرو، مگر خاتون نے کہا کہ بیچا آپ میرے باپ کے برابر ہیں، میرا شوہر جو سعودی عرب میں کام کرتا ہے، وہ آپ کی ہر ممکن خدمت جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے، وہ برابر خدمت کرتی رہی، اور پھر ننٹھا کا انتقال ہو گیا، اب وارثان و مسجد والے گھر میں آئے اور کہتے ہیں کہ مکان خالی کرو، جب کہ مکان وہ دے گئے ہیں۔ نیز ڈیگ، پنکھا، گھڑی، دریاں، برتن تانبہ وغیرہ سب اٹھا کر لے گئے ہیں، اور مکان زبردستی خالی کرانے پر آمادہ ہیں، ننٹھا کی اہلیہ کے پوتے ہوتے ہیں، منیر صاحب انہوں نے خاتون پر پانچ سو روپے قرض نکالا اور وصول کیا، اس وقت بھی انہوں نے

کہا کہ اب ہم صرف خاتون کو جو ہماری خدمت کر رہی ہیں، سب اُسی کو دیں گے، یوں وارثان خاتون کو رہنے دینے پر آمادہ نہیں ہیں، آپ بتائیں کہ ۷-۸ برس سے خدمت اور تیمارداری کرنے والی اس خاتون کا کوئی حق شرعی بنتا ہے یا نہیں کہ جس نے اپنی اُنٹھک کوششوں اور ہزاروں روپے دوا علاج پر لگا کر اُن کی خدمت کی ہے، میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ فتویٰ تحریر فرما کر مسئلہ کو حل ہونے میں تعاون فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں عبدالحئی صاحب نے اپنی برادری کے بعض لوگوں کی طرف سے اُن کی تیمارداری کی یقین دہانی کرائے جانے پر اپنی جائیداد مع مکان اس شرط کے ساتھ مسجد کے لئے وقف کی تھی کہ برادری کے لوگ اُن کی خدمت کریں گے، یہ وقف اُن لوگوں کی خدمت پر موقوف تھا، اور جب اُنہوں نے بروقت خدمت اور تیمارداری کی شرط پوری نہیں کی، تو عبدالحئی کا مسجد کو وقف کر دینا شرعاً باطل ہو گیا، اور اُن کی جائیداد مکان میں مسجد کا کوئی حق نہ رہا؛ لہذا بعد میں اُنہوں نے اپنی تیمارداری کرنے پر مجملہ کی جس خاتون کے نام اپنے مکان کا ایک کمرہ رجسٹری کر دیا ہے، وہ شرعاً نافذ ہو گیا؛ کیوں کہ اُنہوں نے اپنی ملکیت میں سے ہبہ کیا ہے، اس کمرہ کے بدلہ میں ذمہ دارانِ مسجد کا مذکورہ خاتون سے ۱۲ ہزار روپے لینا شرعاً ناجائز ہے، اور یہ رقم اسے واپس کرنا لازم ہے، اس کمرہ کے علاوہ بقیہ جتنی چیزیں عبدالحئی صاحب نے چھوڑی ہیں، خواہ جائیداد ہوں یا دیگر اشیاء، وہ سب اُن کے شرعی وارثوں کا حق ہے، جو حسبِ حصص شرعیہ تقسیم ہونا چاہئے، مسجد والوں کا اس میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۵/۳۲۰ زکریا قدیم، امداد المقتنین ۲/۸۸۸، امداد الفتاویٰ ۳/۲۷۱)

وشرطه - أي شرط الوقف - شرط سائر التبرعات، وأن يكون منجزاً لا معلقاً (الدر المختار) كقوله: إذا جاء غداً أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا كلمت فلاناً فأرضى هذه صدقة موقوفة أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف باطلاً؛ لأن

الوقف لا یمتثل التعلیق بالخطر. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: قد یثبت الوقف بالضرورة

۵۲۳/۶ زکریہ، ۳۴۰/۱۴-۳۴۱-۱ دار الفکر بیروت)

ولو نحل بعضاً و حرم بعضاً جاز من طریق الحکم؛ لأنه تصرف فی خالص

ملکہ لاحق لأحد فیہ. (بدائع الصنائع، کتاب الهبة / قبیل فصل وأما حکم الهبة الخ ۱۸۲/۵،

الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الهبة / الباب الثانی ۳۹۱/۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۲/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ختم تراویح پر آمدنی صرف کرنے کی شرط پر زمین مسجد کے نام وقف کرنا؟

**سوال (۲۴):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کسی مسجد میں اس شرط پر زمین وقف کرنا کہ اُس زمین کی پیداوار رمضان میں ختم تراویح پر صرف کی جائے، تو اس طرح وقف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایسی صورت میں اُس کا مصرف کیا ہوگا؟ تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو اُس زمین کی آمدنی سے رقم دینا اور اُن کے لئے لیما درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ختم تراویح پر آمدنی صرف کرنے کی شرط، مفسد و وقف

ہے؛ لہذا اس آمدنی سے حافظ تراویح کو اجرت اور نذرانہ وغیرہ دینا سب ناجائز ہے۔

ولو وقف علی قراء القرآن والفقراء فالوقف باطل. (البحر الرائق / کتاب

الوقف ۳۳۲/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۵/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نابالغ بہن کی طرف سے بھائی بہنوں کے نام وقف کرنا؟

**سوال (۲۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: بسکینہ بیگم نے اپنی جائیداد ۱۹۳۳ء میں وارثان کے نام وقف کر دی تھی، اس جائیداد میں بلقیس نابالغ تھی، اُن کا حصہ بھی اُن کے بھائی بہنوں نے وقف کر دیا تھا، اس جائیداد کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وقف صحیح ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** نابالغ کی طرف سے وقف صحیح نہیں ہے؛ لہذا بلقیس کی

طرف سے اُن کے بھائی بہنوں نے جو وقف کی کاروائی کی ہے وہ درست نہیں ہوئی، اب اُس کی تلافی کی شکل یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بلقیس بانو اس وقف کی تائید کر دے، یا اُس کے بھائی بہن بلقیس کے حصے کی قیمت اُسے ادا کر دیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۰۳/۱۵، ۳۳۱/۱۵ جیل)

قولہ: وشرطه شرط سائر التبرعات، أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالکة وقت الوقف ملکًا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورًا عن التصرف.

(شامی، کتاب الوقف / مطلب قد ثبت الوقف بالضرورة ۵۲۳/۶ زکریا)

قولہ: من أهلها، وهو المسلم العاقل، وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية

والتواب بها؛ بل هو شرط هنا لصحة التبرع. (الرد المحتار / کتاب الوقف ۳۳۹/۴ کراچی)

وأما الذي يرجع إلى الواقف فأناواع: منها: العقل، ومنها: البلوغ، فلا

يصح الوقف من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة، لكونه

إذالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة،

ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك. (بدائع الصنائع / کتاب

الوقف والصدقة ۳۹۵/۱۸ دار الکتب العلمیة بیروت، ۳۲۷/۵ زکریا)

أما شرائطه، فمنها: العقل والبلوغ، فلا يصح لوقف من الصبي

والمجنون، كذا في البدائع. (الفتاویٰ الہندیة، کتاب الوقف / الباب الأول فی تعریفہ وركنه

ورشرائطه ۳۵۲/۲ زکریا)

شرائطہ اہلیۃ الواقف للتبرع من كونه حراً عاقلاً بالغاً ..... ومن شرائطه

الملك وقت الوقف. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۱۸۸/۵)

قال ابن الهمام: وأما شرطه فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه حراً

بالغاً عاقلاً. (فتح القدير / كتاب الوقف ۲۰۰/۶ مصطفى الباني الحلبي مصر) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۱/۲۳ھ

## موجودہ زمانے میں مکانات اور جائیداد کو اولاد پر وقف کرنا؟

**سوال (۲۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: (۱) کیا مکانات اور جائیداد کا وقف علی الاولاد کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

(۲) وقف جائیداد کا انتظام وقف نامہ میں لکھی گئی ہدایات اور قانون کو ماننے ہوئے کرنا

ہے، یا واقف کی اولاد اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے چلے گی؟

(۳) اگر وقف جائیداد آبادی میں آگئی ہو اور کسی دوسرے کا قبضہ ہو، اور اُس کے قبضہ

میں ہونے کی وجہ سے انتظام میں مشکل آرہی ہو، تو کیا کریں فروخت کر دیں یا غیر آدمی کا قبضہ

رہنے دیں؟

(۴) کیا وقف جائیداد کو واقف کی اولاد بغیر بیع نامہ کے کسی سے پہلے لے کر دے سکتی

ہے، یا فروخت کر سکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** (۱) مکانات اور جائیداد کا وقف علی الاولاد اگرچہ جائز

ہے؛ لیکن موجودہ دور میں اوقاف کا تحفظ ایک سنگین مسئلہ ہے، اور وقف علی الاولاد جائیدادوں میں

مستقبل میں سخت دشواریاں، اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لئے نفس جواز کے باوجود اس

عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاسکتی۔

عن ابن طاؤس عن أبيه أن رجلاً تصدق بأرض له على بنيه وبني بنيه، وجعل للمساكين فيها شيئاً، وكان والي القضاء معاذ بن جبل فأجازته. (إعلاء السنن، كتاب الوقف / باب جواز لوقف على النفس وعلى الأولاد الخ ۱۹۲/۱۳ رقم: ۵۳۳ دار الكتب العلمية بيروت) ولو قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى والخثنى. (الفتاوى

الهندية، الباب الثالث في المصارف / الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده ۳۷۱/۲)

(۲) جائیداد موقوفہ کے انتظام میں واقف کی شرائط کا لحاظ رکھنا لازم ہے، موقوف علیہم اس میں اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۶۱۲ / إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمية مصر)

(۳) وقف شدہ جائیداد کی بیع جائز نہیں، اگر اُس پر کسی کا ناجائز قبضہ ہو تو اُس سے چھڑانے کے لئے قانونی کارروائی کرنی چاہئے۔

عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إنني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قطُّ أنفَسَ عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها منها بالمعروف ويُطعم غير متمول، قال: فحدَّثتُ به ابن سيرين فقال: غير متائل مالا. (صحيح البخاري، كتاب الشروط / باب الشروط في الوقف رقم: ۲۷۳۷ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم ۴۱/۲ رقم: ۱۶۳۲،

سنن أبي داود رقم: ۲۸۷۸، سنن الترمذي ۲۵۶۱/۱ رقم: ۱۳۷۵، إعلاء السنن، كتاب الوقف / باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ۱۳۷/۱۳ رقم: ۴۴۹۳ دار الكتب العلمية بيروت

وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه وتمليكه. (الهداية ۶۴۰/۳)

(۴) وقف جائیداد کو واقف کی اولاد یا کوئی دوسرا شخص فروخت نہیں کر سکتا۔

عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه جعل دوره على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزواج فليس لها حق. (إعلاء السنن، كتاب لوقف / باب جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد الخ ۱۹۴/۱۳ رقم: ۴۵۳۵ دار الكتب العلمية بيروت)

متولى الوقف باع شيئاً منه أو رهن فهو خيانة، فيعزل، أو يضم إليه ثقة.

(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس في ولاية الوقف الخ ۱۳۷/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۲۷/۸/۸

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اولاد در اولاد پر وقف شدہ جائیداد میں واقف کی حیات میں مرنے والوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟

**سوال (۲۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک جائیداد مکان محمد ظہیر الدین کی طرف سے وقف علی الاولاد ہے، اس کے وقف نامہ میں وارثین میں ایک بیوی حمد السجان اور دو بڑے لڑکے (۱) اختیار الدین (۲) مختار الدین، دو لڑکیاں: (۱) جمیلہ (۲) شکیلہ کا ذکر ہے؛ ان ورثہ میں سے ایک لڑکا اختیار الدین اور لڑکی جمیلہ کا محمد ظہیر الدین واقف کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا، محمد ظہیر الدین کے انتقال کے وقت صرف ایک بیوی حمد السجان ایک لڑکا مختار الدین اور ایک لڑکی شکیلہ موجود تھی۔

اب دریافت یہ کرنا ہے کہ واقف کے ترکہ وقف شدہ مکان میں سبھی حق دار ہوں گے یا

صرف جو ورثہ موجود تھے، انہیں ترکہ میں سے ملے گا، شرعی حکم سے مطلع فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف نامہ میں واقف نے پہلی شرط کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے، کہ وہ خود تاحیات اس موقوفہ جائیداد کا منتظم و متولی رہے گا، اور اُس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا رہے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اُس نے اپنی زندگی میں کسی بھی اولاد کو آمدنی میں سے کوئی حق متعین طور پر نہیں دیا، پھر تیسری شرط میں یہ لکھا ہے کہ جائیداد موقوفہ کی آمدنی حصص شرعیہ کے بموجب تقسیم کی جائے گی؟ اور چوتھی شرط میں یہ تحریر ہے کہ استحقاق کا یہ سلسلہ اولاد در اولاد نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطن جاری رہے گا، ان تمام شرائط کی روشنی میں آپ کے سوال نامہ کا جواب یہ ہے کہ واقف ظہیر الدین کی حیات میں اُن کے جس لڑکے اور لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، اُن کی اولادوں کو واقف کی وفات کے بعد اُس وقت تک مذکورہ موقوفہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جب تک واقف کی صلیبی اولاد یعنی مختار الدین اور شکیلہ باحیات رہیں گی، ان دونوں کی وفات ہو جانے کے بعد میت کے تمام پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں خواہ وہ واقف کی وفات کے وقت موجود لڑکے لڑکی کی اولاد ہوں، یا اُس کی زندگی میں فوت شدہ لڑکے لڑکی کی نسل سے ہوں، ان سب کو ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کے حساب سے وقف کی آمدنی میں حصہ دیا جائے گا، اور اس وقف پر کسی ایک وارث کا تنہا قابض رہ کر دوسرے حصہ داروں کو منافع سے محروم کرنا قطعاً درست نہیں ہے؛ بلکہ سب حق داروں کو اُن کا حق پہنچانا لازم ہے۔

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

[النساء، جزء آیت: ۵۸]

عن أبي جعفر عن أبيه رضي الله عنه في حديث ..... فأعط كل ذي حق

حقه . (صحيح البخاري، كتاب الصوم / باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاءً إذا

كان أوفق له ٢٦٤١ رقم: ١٩٦٨ دار الفكر بيروت)



وقف علی اولادہ و اولاد اولادہ و ذریئہ علی أن يبدأ بالبطن الأعلى، ثم  
 و ثم قلنا: لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى. (الأشباه والنظائر ۳۶۸/۱ زكريا)  
 وإذا قال في وقفه على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم، ثم بالبطن  
 الذي يليهم، فإن قال على هذه الصفة، فمات البطن الأعلى إلا واحد كانت الغلة  
 كلها لهذا الباقي وحده دون البطن الذي يليه. (الفتاوى الثنائرخانية / كتاب الوقف  
 ۷۷۲/۵ إدارة القرآن كراچی)

إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب بأن يقول: الأقرب فالأقرب، أو يقول:  
 على ولدي، ثم على ولد ولدي، أو يقول: بطناً بعد بطن، فحينئذ يبدأ بما بدأ به  
 الواقف. (شامي / فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد ۶۹۷/۶ زكريا)

ولو قال: على أولادي وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الإبن  
 وولد البنت، والصحيح ما قال هلال رحمه الله تعالى: أن اسم ولد الولد كما  
 يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات. (فتاوى قاضي خان على هامش الهندية، كتاب  
 الوقف / فصل في الوقف على الأولاد الخ ۳۲۴/۳ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱/۷/۱۴۳۰ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## واقف کی زندگی میں مرنے والی لڑکی کا وقف علی الاولاد میں حصہ؟

**سوال (۲۸):**— کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: زید نے اپنی جائیداد کی بابت ایک وقف علی الاولاد کا وقف نامہ تحریر کیا، جس میں جائیداد موقوفہ  
 کی آمدنی کی تقسیم کے بارے میں تحریر کیا کہ جو کچھ آمدنی ہو وہ شرعی میں اُن کے شرعی حصص کے  
 بموجب تقسیم ہوگی، بروقت تحریر وقف نامہ واقف کے دو پسر اور ایک دختر حیات تھیں؛ لیکن بعد میں  
 دختر کا انتقال واقف کی حیات میں ہو گیا اور واقف نے وقف کی آمدنی کی تقسیم کے سلسلہ میں وقف

نامہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور فوت ہو گئے، کیا ایسی صورت میں مرحومہ دختر کی اولاد میں محجوب ہو جانے کی وجہ سے جائیداد موقوفہ کی آمدنی میں سے کوئی حصہ پانے کی حق دار ہیں؟

یہ کہ اسی وقف نامہ میں واقف نے تولیت کی بابت یہ شرط تحریر کی کہ واقف کے بعد واقف کے وارثان شرعی اپنے اپنے حصے شرعی کے متولی ہوں گے، مزید وقف نامہ کی دفعہ ۳ اس طرح تحریر کی:

”اگر خدا نخواستہ پسران و دختر واقف مذکورین میں کوئی اولاد فوت ہو جاوے، تو جائیداد متولی کی بابت حق تولیت بہ مناسبت حصص شرعی پسر یا پسران یا دختر مذکور یا پسر و دختر مذکور باقی فائدہ کو حسب صورت ہو حاصل ہوگا۔“

چوں کہ واقف کی دختر کا انتقال واقف کی حیات میں ہو چکا تھا؛ لہذا واقف کے بعد جائیداد موقوفہ واقف کے دو پسران میں برابر برابر تقسیم ہو گئی اور ان دونوں پسران کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد ان کے ورثہ میں چلی گئی، حق پر وہ لوگ بحیثیت متولی قابض ہو گئے، کیا ایسی صورت میں واقف کی مرحومہ دختر کی اولاد کو جائیداد موقوفہ کے کسی حصہ کا متولی بننے کا حق ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** واقف نے چوں کہ حصص شرعیہ کے بموجب آمدنی اپنے وارثین میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے، اور وقف علی الاولاد کا حکم واقف کے انتقال کے بعد جاری ہوتا ہے؛ لہذا اس آمدنی اور تولیت میں صرف زید کے لڑکوں اور لڑکوں کے بعد ان کی اولادوں ہی کا حق ہوگا، لڑکی چوں کہ زید کی زندگی میں وفات پا چکی ہے، اس لئے اُس کی اولاد آمدنی اور تولیت میں کسی حصہ کی حق دار نہیں ہے۔

بناء علی أن المتوفی فی حیة والده لا یسمی موقوفاً علیہ، ولا من أهل الوقف. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی مسئلة السبکی الواقعة فی الأشباه فی نقض القسمة والدرجة المعلیة ۶۹۲/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۳/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف کا مسجد تعمیر کر کے وقف ہونے کا اعلان کرنا، اور بیوی کا اُس کے وقف ہونے کی تردید کرنا؟

**سوال (۲۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر کھرگون میں ۴-۵ سال قبل مسجد شکور تعمیر کی گئی تھی، تعمیر شدہ مسجد کو حاجی عبدالشکور صاحب نے تنہا اپنی رقم سے تعمیر کرائی تھی، پچھلے وقتوں میں حاجی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم کی ۲ بیویاں حیات ہیں، مرحوم کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرحوم نے اپنی ورثہ املاک کروڑوں روپے کی قیمتی زراعت و مکانات چھوڑے ہیں۔

مرحومہ کے ذریعہ قائم شدہ مسجد کی زمین سرکاری نیلامی کے ذریعہ حاصل کی تھی، نیلامی کے موقع پر مرحوم نے دیگر مسلم ضرورت مند حضرات کو نیلامی میں حصہ لینے سے یہ کہہ کر روکا تھا کہ نیلامی والی زمین پر مسجد تعمیر کرنا مقصود ہے، اس وجہ سے مسلم حضرات نے نیلامی میں حصہ لیا تھا، اس کے برعکس نیلام شدہ زمین بیش قیمتی تھی۔

مسجد شکور کی تعمیر مکمل ہونے پر مرحوم حاجی صاحب نے نماز جمعہ میں مفتی رفیق صاحب قاسمی کو بیان کے لئے مدعو کیا تھا، بعد بیان کے مرحوم نے مجلس عام میں یہ واضح کر دیا تھا کہ مسجد کا انتظام عوام کے سپرد ہے، اور دیگر موقع پر بھی اس اعلان کو دوہرایا گیا تھا، نظام مسجد عوام اور مرحوم کے فرد مخصوص کے ذریعہ انجام دیا جا رہا تھا، اور جمعہ پیٹی اور مقامی افراد کے گھروں سے ماہانہ ۱۰۰ روپے وصول یابی کی جارہی تھی، یہ سلسلہ ۴ سالہ مدت تک چلتا رہا ہے۔

ماہ رمضان میں پیش امام صاحب کے علاوہ دیگر خادم حافظ صاحب کو برطرف فرد مخصوص نے کر دیا، عوامی افراد نے ناراضگی کی بنیاد پر استغفیٰ دے دیا؛ کیوں کہ فرد مخصوص کا مزاج حاکمانہ نمونے کا ہے، فرد مخصوص نے یہ بات واضح کر دی کہ انتظام مسجد کے مکمل اختیارات صرف فرد مخصوص ہی انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ۔

یہ واقعہ کے بعد تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۱۲ء نماز جمعہ عوام کے ذریعہ طے شدہ ناموں کا اعلان

سراے نئی انتظامیہ کی شکل میں پیش کئے گئے، جس کے رد عمل میں مرحوم حاجی صاحب کی بیوی جانی محترمہ نے اُسی وقت مسجد میں داخل ہو کر ممبر کے پاس اعلان کیا کہ مسجد شکور کے مالکانہ دستاویزات جانی کو حاصل ہیں، مسجد وقف نہیں کی گئی، نماز ادا کرنے کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے، مسجد میں نمازی آئیں یا نہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں، عوامی تعاون چندہ وغیرہ بند کیا جاتا ہے، اخراجات جانی کے ذریعہ نامزد فرد انجام دے گا، اور بھی اسی طرح سے وضاحت کی گئی تھی، جانی کے خاندان کے افراد نے عوامی طے شدہ ناموں پر یہ تنقید کی کہ عوام مرحوم حاجی صاحب کی دولت پر نظر رکھ رہی ہے، اور آئندہ مرحوم کی وراثت کی مانگ کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔

اس کے رد عمل تنقید کے متعلق طے شدہ ناموں میں ملی فردانوں نے یہ کہا کہ عوام کو صرف انتظام مسجد سے مقصد ہے، اخراجات کی تکمیل عوامی تعاون سے پورے کئے جائیں گے، رہا مرحوم حاجی صاحب کی دولت کا ”عوام کی نگاہ میں اس قسم کی دولت صرف نجس پیشاب سے زیادہ کی اہمیت نہیں ہے“، جانی کے اعلان سے عوام بے قابو ہو گئی خدا خیر فرمائے، بڑا حادثہ کو دفعہ کیا گیا، ورنہ آنجہانی واقعہ غیر متوقعہ عوام کے ذریعہ جانی محترمہ کے ہمواؤں کے درمیان پیش آ جاتا ہے۔

دریافت طلب امر یہ کہ مرحوم حاجی صاحب نے سرکاری نیلامی سے عوام کو یہ کہہ کر روکا کہ زمین پر مسجد بنانی ہے، مرحوم نے مسجد شکور کے نام کو عوام کے ذریعہ انتخاب کرنے کا رد پیش نہیں کیا، مرحوم نے مسجد کے افتتاح کے موقع پر قابل قدر مفتی رفیق احمد صاحب قاسمی کے خطاب کے بعد فوراً یہ اعلان کیا کہ مسجد کا انتظام عوام کے ذریعہ کیا جائے گا، مرحوم کی حیات میں عوامی چندہ کے ذریعہ وضو خانہ، جانمازیں، جمعہ پیٹی، مقامی باشندوں سے ماہانہ فی گھر ۱۰۰ روپے دستیاب کرنا، ۴ رسالہ مدت تک، مرحوم کے فرد مخصوص کے شامل میں عوامی افراد کا انتظامیہ میں موجود رہنا، مرحوم کے اعلان کے ذریعہ انتظام عوام کے سپرد یہ سلسلہ ۴ رسالہ مدت تک قائم رہا، ان وجوہات کے باوجود جانی نے مرحوم کی حیات میں مالکانہ حق کا اعلان نہیں کیا، اس لئے مرحوم نے اول تا آخر حیات میں جو اعلان کیا تھا، اس میں تبدیل و ترمیم نہیں فرمائی، اول موقف پر مرحوم قائم و دائم رہے، ان بنیادوں

پر مرحوم کے اعلان کی تائید میں مسجد شکور کو وقف کی شرعی حیثیت حاصل ہے یا نہیں؟

فی الوقت مرحوم لا اولاد ہیں اور وفات بعد مرحوم کی بیوی حجابی کا جدید ممبر کے پاس یہ دوبارہ اعلان کرنا کہ مسجد وقف نہیں ہے، عوامی چندہ و تعاون بند کرنا، تنہا اخراجات کی تکمیل نامزد کے ذریعہ انجام دیئے جانے کا اعلان کرنے کی وجہ سے مرحوم شوہر حاجی صاحب کے ذریعہ کئے گئے اعلان وقف کا شرعی حکم منسوخ ہو جائے گا؟ شریعتِ مطہرہ کے ذریعہ مرحوم شوہر حاجی عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول و فعل مانا جائے گا، یا بعد وفات کہ جانی محترمہ کے ذریعہ مرحوم شوہر کے رد عمل میں جدید اعلان کے رد کی شکل میں مانا جائے گا؟

**نوٹ :-** مسئلہ نازک ہے، اولیت میں جواب عنایت فرمائیں، خدشہ ممکن ہے اُمت میں یہ معاملہ نازک شکل اختیار ہونے سے قبل جلد از جلد عنایت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال جب کہ بانی مسجد و وقف عبد الشکور

مرحوم نے مسجد کی تعمیر کر کے اس میں نماز شروع کروائی، اور اُس کے وقف ہونے کا اعلان کر دیا، تو اب بعد میں اُن کی اہلیہ محترمہ کی طرف سے وقف کے انکار کر دینے سے وقف کی اصل شرعی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مسجد بدستور وقف رہے گی، اور اس پر کسی بھی شخص کو مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں گے۔ اب رہ گیا مسجد کے انتظام کا معاملہ تو اگر وقف نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو یا بعض اشخاص کو انتظامی ذمہ داری دے دی تھی، جیسا کہ سوال سے واضح ہے، تو ان افراد متعینہ کو متولی قرار دیا جائے گا، اور ان کی مرضی کے بغیر دوسرے افراد کو مسجد کے انتظامی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کا کوئی حق نہ ہوگا؛ لہذا جو لوگ وقف کی زندگی سے مسجد کا انتظام کرتے آئے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی دخل اندازی ہرگز نہ کی جائے۔

أخبرني غير واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات،

وجعلها بعده إلي حفصة، وولي علي صدقته حتى مات، ووليها بعده الحسن بن

علي، ذكره الإمام الشافعي في الأم. (٢٨١/٣) معلقاً. (إعلاء السنن، كتاب الوقف / باب لا يجعل المتولي من الأجانب ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرًا كان أو أنثى ٢١٢/١٣ رقم: ٤٥٤٨ دار الكتب العلمية بيروت)

وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجدًا. (شامي / مطلب في أحكام المسجد ٥٤٥/٦ زكريا، الفتاوى التارخانية ١٥٦/٨ زكريا، الهداية / كتاب الوقف ٦٤٤/٢، فتح القدير / كتاب الوقف ٢٣٣/٦ دار الفكر بيروت)

جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني ..... ثم لو وصيه إن كان. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في اشتراط الولاية لنفسه ٥٧٧/٦ زكريا)

وفي الخلاصة: إذا شرط الواقف أن يكون هو المتولي فعند أبي يوسف الوقف والشرط كلاهما صحيحان. (البحر الرائق / كتاب الوقف ٢٧٧/٥ دار الكتب العلمية بيروت، الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس الخ ٤٠٨/٢ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۴/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

”اسلامک دعوت اکيڈمی“ کو مکان وقف کر کے ضرورت پر

فروخت کرنے کا اختیار دینا؟

**سوال (۳۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک صاحب نے چند سال پہلے اپنی حیات میں ایک مکان ایک ادارے کو وقف کر دیا، اس وقف کے گواہ ادارے کے ذمہ دار اور ایک دوسرے صاحب ہے۔ واقف نے وقف کرتے وقت استبدال کی گنجائش ہونے نہ ہونے کے سلسلہ میں کوئی تصریح نہیں کی تھی؛ البتہ قرآن سے معلوم ہوتا

ہے کہ یہ بات اُن کے ذہن میں ضرور تھی کہ اس مکان سے ادارہ جس طرح چاہے فائدہ اٹھائے، اور ادارے کے مصالح کے پیش نظر ادارہ اگر مکان کو بدلنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے کے ذمہ دار اور جو صاحب دوسرے گواہ تھے، اُن کے واقف سے پرانے تعلقات تھے، وہ اُن کے عزائم کو جانتے تھے، ادارے سے اُن کا بھی قلبی تعلق تھا، وہ ادارے کا اپنی حیات میں بھی تعاون کرتے رہتے تھے، اور اس مکان کو وقف کرنے سے بھی اُن کا منشاء ادارے کو فائدہ پہنچانا ہی تھا، اور اپنے لئے ثواب جاریہ حاصل کرنے کا تھا، انہوں نے خود وقف ہو جانے کے بعد جو صاحب دوسرے گواہ تھے، اُن کے سامنے ان الفاظ میں اپنے عندیہ کا اظہار بھی کیا تھا کہ ادارہ اس گھر کو باقی رکھ کر کیا کرے گا؟ وہ تو اس مکان کو بیچ کر کوئی اور مکان خرید لیں گے؛ لیکن واقف چوں کہ شرعی مسائل سے واقف نہیں تھے، اور ادارے کے ذمہ دار کے ذہن میں بھی عین وقت پر یہ بات نہیں آئی کہ استبدال کی اجازت تحریراً یا قولاً لے لے؛ لہذا اس بات کی وقف کے وقت تصریح نہ ہو سکی، ادارے کے ذمہ دار اور دوسرے گواہ دونوں کو سو فیصد یقین ہے کہ اگر اُس وقت اُن کو استبدال کے مسئلہ کی طرف متوجہ کیا جاتا، تو وہ ضرور اُس وقت وقف کی شرائط میں اس کو شامل کر لیتے۔

اب واقف کا انتقال ہو چکا ہے، ورثہ میں اولاد نہیں ہے، بیوی اور بھتیجے مرحوم کے مال کے وارث بن رہے ہیں، اُن حضرات کو ادارے سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا مرحوم کو تھا، مرحوم کے وقف کرنے کا علم اُن ورثہ میں سے کسی کو بھی نہیں تھا، اب اُن حضرات کی قلبی خواہش یہ ہے کہ مکان انہیں کے پاس رہے اور ادارہ اس کا بدل قبول کر لے۔ ادارہ الگ شہر میں ہے اور مکان الگ شہر میں، اور اس صورت میں مرحوم کے موجودہ ورثہ کی ناراضگی سے بھی حفاظت ہوگی اور بدل نہ قبول کرنے کی صورت میں اُن کی ناراضگی کا قوی اندیشہ بھی ہے۔

ان مذکورہ احوال کے پیش نظر واقف کا عندیہ یہ سامنے رکھتے ہوئے موجودہ وقف مکان کو بیچ کر متبادل مکان خریدنے کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ اگر گنجائش ہو تو اس کی قیمت طے کرنے میں کیا ہدایات ہیں؟ بینوا تو جروا، والسلام علیکم۔

**التنقیح:** (۱) کیا یہ مکان مدرسہ کو دیتے وقت مذکورہ شخص نے کوئی تحریر لکھی ہے، اگر لکھی ہو تو اُسے پیش کیا جائے۔

(۲) مدرسہ کو دینے کی دو شکلیں ہوتی ہیں: ایک ملکیت میں دینا، دوسرے وقف کر دینا۔ مذکورہ شخص نے وقف کیا ہے یا مدرسہ کی ملکیت میں دیا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہئے، اُس کے بعد ہی اصل حکم واضح ہو پائے گا۔

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۱/۱۱ھ

**جواب التنقیح:** جی ہاں مذکورہ شخص نے تحریر لکھی ہے، تحریر میں وقف کی صراحت موجود ہے، اصل تحریر گجراتی زبان میں ہے، ذیل میں اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ پیش خدمت ہے:

تاریخ ۱۱/۵/۱۹۹۷ء میں احمد آکوجی کرولیا اور میری بیوی فاطمہ احمد کرولیا، ہمارا مکان جس کا پتہ حسب ذیل ہے: ۱۲۵/نورمن ایونیو واروکشائر پو کے، آج کے روز مذکورہ ذیل میں دستخط کرنے والے گواہ کی حاضری میں نیچے لکھی ہوئی شرطوں کے مطابق ’اسلامک دعوت اکیڈمی‘ ۱۲۰/ملبورن روڈ لیسٹریو کے کو اپنی خوشی سے کسی دباؤ کے بغیر تندرستی اور ہوش و حواس کی حالت میں وقف کر رہا ہوں:

(۱) جب تک ہم دونوں یا ہم میں سے کوئی ایک زندہ رہیں، وہاں تک اس مکان میں رہنے اور اُس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل رہے گا۔

(۲) کسی بھی وجہ سے ہم دونوں یا کسی ایک کی حیات میں ہمیں کسی اور جگہ جا کر رہنے کا اتفاق ہو، تو اس مکان کے کرائے کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل رہے گا۔

(۳) ہم دونوں میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد جو پیچھے رہ جائے، وہ اگر دوسرا نکاح کرے تو اُس کو (اس دوسرے شوہر یا بیوی کو بھی) اس مکان میں اُس کی آخری زندگی تک رہنے کا حق حاصل رہے گا۔

(۴) اوپر کی تحریر کے مطابق جو بھی اس مکان سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس گھر کے نباہ کے



خریج کا ذمہ دار ہوگا۔

**نوٹ:-** وقف کیا ہوا گھر دراصل بھائی احمد آکوجی صاحب ہی کا تھا، قانونی کارروائی کے لئے میاں بیوی دونوں کے نام لکھ دئے گئے تھے؛ تاہم وقف کے وقت دونوں نے متفق ہو کر اس کو وقف کیا تھا۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں احمد آکوجی کو جی کرولیا صاحب اور ان کی اہلیہ کی طرف سے مذکورہ مکان ”اسلامک دعوتہ اکیڈمی“ کے لئے وقف ہو چکا ہے، اور حسب تحریر سوال چوں کہ خود واقف نے اپنے عندیہ کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ ”ادارہ اس گھر کو باقی رکھ کر کیا کرے گا؟ وہ تو اس مکان کو بیچ کر کوئی اور مکان خرید لیں گے“ یہ جملہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ واقف کی طرف سے استبدال کی اجازت پہلے ہی سے پیش نظر تھی، اور خاص کر اس لئے بھی کہ ”اسلامک دعوتہ اکیڈمی“ اور موقوفہ مکان دونوں الگ الگ شہر میں واقع ہیں، تو واقف کے پیش نظر یقیناً وہی بات ہوگی جس کا ذکر اوپر کیا گیا کہ ادارہ حسب منشاء اسے بدل بھی سکتا ہے۔ بریں بناء ”اسلامک دعوتہ اکیڈمی“ کو یہ حق ہوگا کہ وہ موقوفہ مکان کو مناسب قیمت میں فروخت کر کے اس کے بدلے میں ادارہ کے لئے کوئی اور جگہ خرید لے۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۱۳۵/۴، فتاویٰ محمودیہ ۵۳/۲۱ میرٹھ)

إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر و شرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيّاً وبعده للفقراء، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الوقف صحيح، ومشاخ بلخ رحمهم الله تعالى، أخذوا بقول أبي يوسف، وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف، وهكذا في الصغرى والنصاب، كذا في المضممرات. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف ۳۹۷/۲-۳۹۸ زکریا)

وفي القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيراً من المحلة الموقوفة، وعليه عكسه لا

يجوز. (مجمع الأنهر/ كتاب الوقف ۷۳۶/۱)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم

المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶/۶/۶۴۹ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني،

الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

وجاز جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه عند الثاني وعليه الفتوى، وجاز

شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في

اشترط الغلة لنفسه ۵۸۲/۶ زكريا، كذا في الهداية / كتاب الوقف ۶۲۰/۲ مكتبة بلال ديوبند)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب لوقف / مطلب

مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۴۴۵/۴ كراچی، ۶/۶/۶۶۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۲/۱۲۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام موقوفہ زمین میں والدین کی وصیت کے مطابق اُن کی تدفین کرنا؟

**سوال (۳۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: واقف یا مالک زمین وقف شدہ زمین میں باپ کی وصیت کے مطابق باپ کی پھرماں کی تدفین

کر سکتا ہے یا نہیں؟ شرعاً کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی وقف شدہ زمین میں قبر بنانے کی وصیت باطل

ہے؛ لہذا اُس جگہ میں واقفین یا کسی بھی شخص کو اپنی اموات کی قبریں بنانے کی قطعاً اجازت نہیں؛

بلکہ یہ جگہ مصالح مسجد ہی میں صرف کی جائے گی، اور جو قبر مسجد کی موجودہ جگہ میں بن چکی ہے، تو

جب مسجد کو اُس کی ضرورت ہوگی تو اُس پر پرانی قبر کو برابر کر کے اس جگہ کو مسجد کی ضرورت میں استعمال کر لیا جائے گا، اس پر صاحبِ قبر کے وارثین کو کسی اعتراض کا حق حاصل نہ ہوگا۔

أوصى بأن يدفن في داره فوصيته باطلة إلا أن يوصي أن يجعل داره مقبرة للمسلمين. (الفتاوى الهندية، كتاب الوصية / الباب الثاني في بيان الألفاظ التي تكون وصية الخ ۹۵/۶ زكريا)

ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي كأن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة، ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار تراباً. (تنوير الأبصار مع الدر المختار / باب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت ۱۴۵/۳ زكريا)

ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة، فيخرج لحق صاحب إن شاء، وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به ذراعة أو غيرها. (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة / باب الجنائز ۵۸۸/۱ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۶/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عوامی کنویں کی جگہ مسجد میں دینا؟

**سوال (۳۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بستی کے اندر ایک پانی کا کنواں رفاہ عام کے لئے تھا، وہ کنواں خراب ہو گیا، اور اٹ گیا، تقریباً بستی کے کئی کنویں خراب ہو گئے ہیں، اور ختم ہو گئے ہیں، اب اس کنویں کی زمین کو محلہ کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ محلہ کی مسجد کو دے دیا جائے؛ تاکہ مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، تو اس رفاہ عام کنویں کی جگہ مسجد میں دے دینا کیسا ہے؟ جو اس زمین کے قریب ہیں وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟

**الجواب وبالله التوفیق:** مذکورہ بالا زمین اگر کسی کی مملوک نہیں ہے؛ بلکہ رفاہ عام

کے لئے ہے، تو لوگوں کے باہمی مشورے سے مسجد میں دینا درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۳۸/۲۱  
میرٹھ، کفایۃ المفتی ۷/۳۵)

وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط  
والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه (الدر المختار)  
وفي شرح الملتقى: يصرّف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامی، کتاب الوقف / فيما لو  
حرب المسجد أو غيره ۵۴۹/۶ زکریا)

ولا سيما في زماننا المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ  
أنقاضه للصوص والمتغلبون. (شامی، کتاب الوقف / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴  
دار الفکر بیروت، کذا في المحيط البرهاني، کتاب الوقف / الفصل الرابع والعشرون الخ ۱۵۱۷ / رشیدیہ)  
رباط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو  
الشجاع: يصرّف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل  
القرية، فرفع ذلك إلى القاضي، فباع الخشب وصرّف الثمن إلى مسجد آخر،  
جاز. (فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / فصل في المقابر والرباطات  
۳۱۳/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۲۱/۶/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**زید نے مسجد کیلئے رقم دی؛ لیکن تعمیر سے قبل زید کا انتقال ہو گیا؟**

**سوال (۳۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید نے اپنی زندگی میں کچھ رقم اپنی یا اہل خیر سے لے کر ایک متعینہ مسجد کی تعمیر کے لئے

مالکان اینٹ کے پاس جمع کر دی کہ بوقتِ ضرورت اُس رقم سے خرید کردہ اینٹیں تعمیر مسجد میں صرف کی جائیں گی، مگر ابھی مسجد کی تعمیر شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ زید کا انتقال ہو گیا۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ قریبی یا بعیدی وارثین میں سے کوئی اس اینٹ کو اس متعین مسجد کے علاوہ دوسری مسجد یا کسی اور جگہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** زید نے جس متعین مسجد کی تعمیر میں اینٹیں لگانے کے لئے جو رقم جمع کرائی ہے، یہ وصیت کے درجہ میں ہے؛ لہذا زید کے انتقال کے بعد اس رقم کو اسی متعین مسجد میں صرف کرنا ضروری ہے، دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

المستفاد: لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۲۰۱۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۱/۲۸ھ

**سرکاری اسٹامپ پر وقف نامہ لکھوا کر حق وراثت کا دعویٰ کرنا؟**

**سوال (۳۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: وقف نامہ سرکاری اسٹامپ پر لکھوا کر رجسٹری کرانے کے بعد واقف کے لڑکے اس جگہ پر حق وراثت کا دعویٰ کرنے کے حق دار ہوں گے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** وقف نامہ سرکاری اسٹامپ پر لکھوا کر رجسٹری کرانے کے بعد کوئی شخص اس وقف شدہ زمین میں حق وراثت کا دعویٰ کرنے کا حق دار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو وراثت دی جائے گی۔

فیروز ملک الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعتہ إلى العباد،

فیلزم، ولا یباع ولا یوہب ولا یورث. (الہدایۃ / کتاب الوقف ۶۱۵/۲ المکتبۃ النعمیۃ دیوبند)  
 فیذا تم ولنزم لایملک ولا یملک ولا یعار ولا یرهن. (الدر المختار)  
 قولہ: لا یملک ہی لا یكون مملوگًا لصاحبہ، ولا یملک: ہی لا یقبل  
 التملیک لغيرہ بالبیع ونحوہ، لاستحالة تملیک الخراج عن ملکہ، ولا یعار  
 ولا یرهن لاقتضائہما الملک. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب مهم: فرق  
 أبو یوسف بین قولہ موقوفۃ الخ ۵۳۹/۶ زکریا، ۳۵۲/۴ کراچی، کذا فی الفتاویٰ الہندیۃ / الباب الأول  
 من کتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح القدیر / کتاب الوقف ۲۱۸/۶ زکریا، الہدایۃ / کتاب الوقف ۶۵۱/۲  
 مکتبہ بلال دیوبند، ۶۲۲/۲ المکتبۃ النعمیۃ دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ”مجلس دعوة الحق“ سے ملحق ہونے کے زمانے میں خریدی گئی زمین مجلس کی ہے یا مدرسہ کی؟

**سوال (۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: زید اور علاقہ کے دیگر لوگوں نے ”مجلس دعوة الحق“ سے اپنے مکتب کے الحاق کی درخواست  
 دی، اس پر دستور دعوة الحق کی دفعہ ۲۸ کے تحت اجراء الحاق ”مجلس دعوة الحق“ کا فارم دیا گیا، جس کو  
 پڑھ کر اُس کی تمام باتوں کو قبول کر کے سب لوگوں نے دستخط ثبت کئے، اس کا عکس بغرض ملاحظہ  
 ہمراہ (استفتاء) ہذا بھی ہے، ناظم صاحب ”مجلس دعوة الحق“ نے اس کی منظوری عنایت فرمادی،  
 مکتب کا کام زیر نگرانی دعوة الحق چلتا رہا اور ایک طویل زمانہ تک چلا، چندہ وغیرہ رسیدات ”مجلس  
 دعوة الحق“ پر کیا گیا، مکتب کے لئے زمین بھی خریدی گئی جو کہ ”مجلس دعوة الحق“ کے نام ہے، مکتب  
 کے مدرس و معاونین نے کچھ اصولیاں کرنا شروع کر دیا کہ اجتماع ماہانہ کے موقع پر مرکز نہ آنا باوجود  
 اطلاع کے، نیز مرکز سے تعلق نہ رکھنا اجراء الحاق از ”مجلس دعوة الحق“ کی دفعات کی پابندی نہ کرنا،

ان بے اُصولیوں کے پیش نظر مکتب کا الحاق دعوت الحق سے موجودہ ناظم صاحب نے ختم کر دیا، جس کا عکس بغرض ملاحظہ ہمراہ (استفتاء) ہذا مرسل ہے۔ تو اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ موجودہ زمین جو کہ دعوت الحق کے نام ہے، جس کا عکس بھی ہمراہ ہذا مرسل ہے، اس پر موجودہ مکتب والوں کا تعمیرات کرانا شرعاً کیسا ہے؟ مرکز دعوت الحق کو اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہئے؟

بِسْمِ سُبْحَانَ تَعَالَى

**الجواب وباللہ التوفیق:** دفعات برائے اجراء الحاق مدارس ”مجلس دعوت الحق“ کے مطالعہ سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ملحقہ مدارس کا ”مجلس دعوت الحق“ سے تعلق ملکیت کا نہیں ہے؛ بلکہ صرف انتظام کا ہے، اسی وجہ سے ”مجلس دعوت الحق“ کی وصولی کی رسید میں ملحقہ مدرسہ کا نام ضرور درج رہتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ملحقہ مدرسہ کی اپنی حیثیت جداگانہ برقرار رہتی ہے، اور جس مدرسہ کے لئے جو رقم وصول ہوتی ہے وہ اسی پر خرچ کی جاتی ہے، نیز وقتی عطایا کا کچھ فیصد حصہ مرکز میں داخل کرنے کے بعد بقیہ رقم اسی مدرسہ میں صرف کرنے کا اُصول ہے، جیسا کہ دفعہ ۳ سے واضح ہے، اور دفعہ ۵ کے اعتبار سے صرف ناقابلِ تحمل مصارف ہونے کی صورت میں مدرسہ کو بند کرنے یا منتقل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جو اسی وقت تک ہے جب تک کہ الحاق باقی ہو۔ اسی طرح الحاق باقی رہنے کی شکل میں معاونین میں تبدیلی کا حق بھی مرکز کو رہتا ہے؛ لیکن الحاق ختم ہو جانے کے بعد خود بخود مجلس کے انتظامی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسے مدرسہ کی مملوکہ اشیاء میں ”مجلس دعوت الحق“ کو تصرف کا حق باقی نہیں رہتا؛ لہذا مسؤلہ صورت میں جو زمین زمانہ الحاق میں مدرسہ مذکورہ کے لئے خریدی گئی، وہ اس مدرسہ کی ملک ہے، اور اس میں ”مجلس دعوت الحق“ یا حضرت ناظم صاحب کا جو نام درج ہے وہ بحیثیت مالک نہیں؛ بلکہ بحیثیت منتظم ہے، اور جب الحاق ختم کر دیا گیا تو انتظامی تعلق بھی خود بخود ختم ہو گیا، اب موجودہ انتظامیہ یا علاقہ کے معزز حضرات جن لوگوں کو بحیثیت منتظم متعین کریں، وہ مذکورہ مدرسہ کو چلانے اور اس میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، الحاق ختم ہونے کے بعد ”مجلس دعوت الحق“ کو اس مدرسہ کے

کام کاج میں دخل نہیں دینا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۱۵۷-۲۱۷۱ ج ۱ ص ۱۵۷)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامی،

کتاب الغصب / مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير ۲۹۱/۹ زکریا)

متولي وقف عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في أمور الوقف.

(الفتاویٰ التاتاریخانیہ ۶۶/۸ رقم: ۱۱۲۲۱ زکریا)

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (تنوير الأبصار) وفي الشامي:

قوله لا يملك: أي لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك

لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (شامي، كتاب الوقف / قبيل

مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن ۵۳۹/۶ زکریا، ۳۵۲/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۵/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ





# متولی اوقاف؛ شرائط و احکام

## موقوفہ زمین میں واقف کا حق تولیت؟

**سوال (۳۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کیا وقف کردہ چیز میں واقف کا حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف کرنے کے بعد موقوفہ زمین پر سے واقف کا حق

ملکیت ختم ہو جاتا ہے؛ البتہ حق تولیت حاصل رہتا ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار، کتاب

الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۵۲/۴ دار الفكر بيروت، ۵۳۹/۶ زکریا)

جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالجماع. (الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب

في اشتراط الواقف الولاية لنفسه ۳۷۹/۴ دار الفكر بيروت، ۵۷۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۹/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ مکان میں اولاد در اولاد کو تولیت کی وصیت کرنا؟

**سوال (۳۷):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک عمارت جو آٹھ مکانات پر مشتمل ہے، والدین صاحبان نے وقف علی الاولاد کرایا تھا، اور

اُس میں مندرجہ ذیل شرطیں لگائی تھیں، شرائط یہ ہیں: ہر ایک اپنے مکان کا متولی رہے گا، اگر وہ

چاہیں تو خود اس میں قیام کریں یا اس کو کرایہ پر دے دیں؛ لیکن مکان کرایہ پانچ سال سے زائد

ایڈوانس نہیں لے گا، دوکان کو کسی بھی طرح منتقل نہیں کر سکتا ہے، مکان کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ مکان کو رہن پر رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اُس پر قرض لیا جا سکتا ہے، نہ ٹھیکہ پر دیا جا سکتا ہے، اگر کسی پر قرض ہے، تو اُس مکان کے ذریعہ وصول نہیں کیا جا سکتا، ہر متولی کے انتقال کے بعد اس کی بڑی اولاد متولی بننے کا حق دار رہے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، مکان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر کسی بھی مکان میں کوئی جدید تعمیر ہوتی ہے، تو وہ بھی وقف میں شامل ہو جائے گی۔ کافی عرصہ سے اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اُن کی اولادیں رہائش پذیر ہیں، آٹھ بھائی بہنوں میں سے ایک بھائی اور دو بہن اب بھی بقید حیات ہیں، ان آٹھوں اولاد میں سے ایک لڑکی سردار جہاں کے نام سے بھی مکان تھا، اُن کی شادی ہو گئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے مکان میں رہتی تھی، انہوں نے اپنے میکہ کا مکان خورشید نامی ایک شخص کو کرایہ پر دے رکھا تھا، سردار جہاں بعد میں بیوہ ہو گئیں اور اُن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، ضروریاتِ زندگی اور بیماری وغیرہ تنگ آ کر انہوں نے کرایہ دار خورشید ہی سے گاہ بگاہ کچھ روپے ایڈوانس کے طور پر لئے، جو اُلٹے سیدھے طریقہ سے ایک بڑی رقم ہو گئی، کرایہ دار خورشید نے اپنی رقم نکالنے کے لئے دوسرے شخص شکیل احمد سے بڑی رقم لے کر مکان دے دیا، اسی دوران سردار جہاں کا انتقال ہو گیا، شکیل احمد اپنی رقم نکالنے کے لئے وہ مکان فروخت کرنے کی کوشش میں تھے، مکان کو بچانے کی نیت سے صدر متولیہ گوہر جہاں نے اپنے بھائی کی اولادوں سے (جو اس مکان کے بالکل نیچے والے مکان کے متولی ہیں) مبلغ ستر ہزار روپے لے کر شکیل احمد کو دے کر مکان آزاد کرالیا، اور مبلغ تین سو روپے ماہوار کرایہ نامہ لکھ کر اُن کی سپردگی میں دے دیا، جب کہ اس مکان کی مالیت تقریباً پندرہ سو روپے ماہوار کی ہے، یہ بڑی رقم لینا اور دینا اور کرایہ دار کا مکان میں زبردست تبدیلی کر لینا، بلکہ مکان کا نقشہ ہی بدل دینا، بہر حال یہ سب باتیں وقف نامہ کے شرائط کے خلاف ہیں، مندرجہ بالا تحریر کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ مندرجہ مکان کا وارث کون ہوگا، جب کہ اس وقت ایک بھائی اور دو بہنیں حیات ہیں؟

**نوٹ:** - تین سو روپے ماہوار کرایہ دینے کا سلسلہ صرف سردار جہاں کی حیات تک رہا،

اُس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر شرائط وقف نامہ مسؤلہ صورت میں ہر مستحق

اولاد کی سب سے بڑی اولاد اپنے حصہ کی تولیت کی مستحق ہوگی، اور اگر اولاد نہ ہو تو وقف کی بڑی اولاد کی سب سے بڑی اولاد مستحق تولیت ہوگی، اور کسی بھی متولی کو شرائط وقف کے خلاف کسی سے عقد و معاہدہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا معاہدہ کسی بھی حصہ کے بارے میں کیا ہے، تو وہ قابل عمل اور نافذ نہیں ہے، اسے جلد از جلد منسوخ کر کے شرائط کے مطابق معاملات طے کرنا لازم ہے۔

وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حکم لا دلیل علیہ، سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، وهذا مواقف لقول مشايخنا كغيرهم:

شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه الخ. (شامی، کتاب الوقف / مطلب ما مخالف

شرط الواقف فهو مخالف للنص الخ ۷۳۵/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۱/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## نسلاً بعد نسلِ اولادِ ذکور کو تولیت کی وصیت کرنا؟

**سوال (۳۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: میرے دادا منشی محمد جان صاحب مرحوم نے اپنی جائیداد وقف علی الاولاد کیا تھا، جس میں آٹھ قطعہ مکان بھی شامل ہے، جو انہوں نے اپنی آٹھ اولادوں کی سکونت کے واسطے ایک تا آٹھ وقف نامہ درج کیا، جس کی تفصیل وقف نامہ کے دفعہ نمبر دس و گیارہ میں درج ہے، اور اس میں ہر اولاد کی فوت ہونے پر اُس کی بڑی اولاد کو متولی مقرر کیا ہے کہ ہر متولی کے فوت ہونے پر اُس کی بڑی اولاد اس مکان کا متولی مقرر ہوگی، اور اُس کو اس میں سکونت رکھنے یا کرایہ پر اٹھا کر اس کی آمدنی کو اپنے صرفہ میں کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی طرح نسل بعد نسل بطن بعد بطن چلتا رہے گا، مزید ہدایت وقف نامہ کی دفعہ ۹-۱۱-۲۶ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

اس میں میرے بھائی حصہ مانگ رہے ہیں، جب کہ وقف نامہ میں بڑی اولاد کو متولی مقرر کیا ہے، اور اس سلسلہ نسل بعد نسل و بطن بعد بطن چلنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو کیا اس رو سے بھائی کو مکان میں حصہ دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب تحریر فرما کر ممنون فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ہم رشتہ وقف نامہ کی شرط نمبر ۱۱ میں یہ عبارت درج ہے کہ ”ہمیشہ اولاد اکبر کو اولاد اصغر پر ترجیح ہوگی“ اور دفعہ ۱۱ میں یہ عبارت ہے کہ ”ہر متولی کے فوت ہونے پر اُس کی اولاد ذکور الی آخرہ متولی کی تولیت والے مکان پر نسلاً بعد نسل، بطناً بطناً متولی مقرر ہوگی، اور اُس متولی کو اس مکان میں سکونت رکھنے یا اُس کو کرایہ پر اٹھا کر اُس کی آمدنی اپنے مصرف میں کرنے کا اختیار ہوگا“۔ ان درج بالا عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقع کی منشاء ہر بطن میں اولاد اکبر کو متولی بنا کر اسے مستقل بلا شرکت غیر تصرف کا اختیار دینے کی رہی ہے۔ بریں بناء مذکورہ وقف نامہ کی دفعات کے مطابق آپ اپنے حصہ وقف کے با اختیار متولی ہیں، آپ کے دیگر بھائیوں کا اس میں حق نہیں ہے؛ البتہ آپ اپنی مرضی سے انہیں کچھ عطاء کر دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۳/۳۵۹، ۱۳/۳۵۹، ۱۳/۳۵۹)

شرط الواقف کنص الشارع (الدر المختار) علی أنهم صرحو بأن مراعاة الواقفین واجبة. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب فی قولهم شرط الواقف کنص الشارع ۴۴۵/۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم یکن معصية. (شامی، کتاب الوقف / مطلب شرائط الوقف معتبرة ۵۲۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۵/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**تولیت وقف کی وصیت بڑے بیٹے کے نام کرنا؟**

**سوال (۳۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک شخص محمد مستقیم خاں نے ایک قطعہ آراضی اُمور خیر کے لئے وقف کیا، اور یہ شرط لگائی کہ جیتے جی میں اُس کا متولی رہوں گا، میرے انتقال کے بعد میرے دو لڑکے: ابراہیم خاں اور عبد الرحیم خاں متولی ہوں گے، اور اُن کے انتقال کے بعد اُن دونوں کی اولاد میں بڑے لڑکے متولی ہوں گے۔

اب صورتِ حال یہ ہے کہ عبد الرحیم خاں کے تین لڑکے ہوئے، سب سے بڑے عبد الحکیم خاں، منجملے عبد القیوم خاں اور چھوٹے عبد السلام خاں۔ عبد الحکیم خاں کا انتقال عبد الرحیم کی زندگی میں ہو گیا تھا، عبد الحکیم خاں کے ایک لڑکے محبوبِ الہی خاں ہیں، عبد الحکیم خاں کے انتقال کے بعد اُن کی اہلیہ نے عبد القیوم سے شادی کر لی تھی، اب عبد القیوم خاں کا بھی انتقال ہو گیا، اُن کے بڑے لڑکے عزیز الہی خاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں حقِ تولیت محبوبِ الہی خاں کو پہنچتا ہے یا عزیز الہی خاں کو؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ہم رشتہ سوال وقف نامہ بغور پڑھا، اس میں مکتوب واقف کے یہ الفاظ: ”بعد اُن ہر دو متولیان کے ہمیشہ زمانہ آئندہ کو بڑا بیٹا ہر ایک متولی کا مستحقِ تولیت اس جائیداد کا ہوگا“، اس امر پر دال ہیں کہ ہر دو متولی کے بڑے بیٹے پھر اُس کے بڑے بیٹے الی آخرہ موقوفہ جائیداد کے متولی ہوتے رہیں گے۔ بریں بناء واقف کی اس شرط کی ہر ممکن حد تک رعایت رکھی جائے گی، اور موجودہ حالت میں حقِ تولیت عبد الحکیم خاں کے بڑے لڑکے محبوبِ الہی خاں کو ملے گا۔

شرط الواقف کنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف کنص الشارع، و مطلب: بیان مفهوم

المخالفة ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ کراچی، ۶/۶/۱۹۶۶ زکریا، و کذا في الأشباه والنظائر، کتاب الوقف / الفن الثاني،

الفوائد: ۶/۲، ۱۰ | إدارة القرآن کراچی، تنقیح الفتاویٰ الحامدية ۱۲۶/۱ | المكتبة الميمنية (مصر)

وفي الشامی: علی أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی،

کتاب الوقف / مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۴۴۵/۴ کراچی، ۶۶۵/۶  
 زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ۱۴۱۲/۲۱

## متولی کی طرف سے اگر زندگی میں انتقالِ تولیت کا ثبوت نہ ملے تو متولی کی اولاد کو تولیت کا حق ہوگا؟

**سوال (۴۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: وقف نامہ شرط ۶ کے بموجب متولی دوم مکان وقف علی الاولاد کو حق انتقالِ تولیت تو حاصل تھا؛  
 البتہ انتقالِ تولیت وقف کا پوری بازیابی کا کوئی ثبوت فراہم نہیں ہے، اس صورتِ حال میں وقف  
 نامہ کی شرط ۶ کی افادیت تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** وقف نامہ کی شرط نمبر ۶ بالکل واضح ہے کہ متولی کو اپنی  
 زندگی میں بھی حسبِ شرائط وقف دوسرے کو متولی نامزد کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ زندگی  
 میں مقرر نہ کر سکے، تو اُس کی اولاد اکبر ذکور، اور وہ موجود نہ ہو تو اولادِ اناث کو متولی بنایا جائے گا،  
 اس شرط کی روشنی میں صورتِ مسئلہ میں اگر اسی متولی کی طرف سے ان کی زندگی میں انتقالِ تولیت  
 کا ثبوت فراہم نہ ہو، تو مذکورہ دفعہ کے موافق متولی کی اولاد ذکور یا اولادِ اناث کو مذکورہ جائیداد موقوفہ  
 کی تولیت کا حق حاصل ہوگا۔

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی

قولہم شرط الوقف کنص الشارع ۴۴۵/۴ کراچی، ۶۶۹/۶ زکریا)

لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي  
 في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة؛ لأن مخالفته كمخالفة النص.

(الأشباه والنظائر، الفن الثاني / كتاب الوقف ۱۰۶۲ زکریا، ۱۹۲ قديم) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۰/۲۶ھ

## کیا واقف کی وصیت کے بغیر اولاد کو وراثہ متولی بنایا جاسکتا ہے؟

**سوال (۴۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: وقف نامہ میں تولیت کی تصریح نہ ہونے کی صورت میں سابق متولی مرحوم کی جگہ اُس کی اولاد وراثہ متولی ہو سکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب کہ واقف مرحوم نے خود کسی شخص یا اولاد کی تولیت

کی صراحت نہیں کی ہے، تو اب اُس کی اولاد کو محض وراثہ متولی قرار نہیں دیا جاسکتا؛ بلکہ متولی مقرر کرنے کا حق قاضی کو حاصل ہے، قاضی نہ ہو تو دین دار صاحب رائے معتبر حضرات متولی مقرر کریں۔

فإن كان الواقف ميتاً فوصيه أولى من القاضي، فإن لم يكن أوصى إلى

أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي . (الفتاوى الهندية، كتاب القسمة / الباب الثالث عشر في

المشروعات ۲۳۲/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۰/۶/۱۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اولاد کی عدم موجودگی میں عصبہ کیلئے تولیت کی وصیت کرنا؟

**سوال (۴۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: اسحاق بیگ نے اپنی تمام جائیداد وقف کی، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ میری اولاد

ذکور یا اناث نہ ہونے کی صورت میں میرے عصبات میں سے جو اولاد ذکور یا اناث رکھتا ہو، اُس کو

بھی یہی حقوق حاصل ہوں گے، اب اسحاق بیگ واقف کے بعد اُن کے چچا زاد بھائی مرزا حسین یار

بیگ کے دو بیٹے مرزا احسان یار بیگ بڑے بیٹے سلیم یار بیگ چھوٹے بیٹے نواسی رضیہ بیگم نواسی

حبیبہ بیگم موجود ہیں، حق تولیت کس کو ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف نامہ بغور پڑھا گیا، اُس میں یہ الفاظ موجود ہیں: ”اور بحالت نہ ہونے اولاد ذکور یا اناث پسر من مقرر مرزا اسحاق بیگ کے جو لوگ کہ پسر من مقرر کے عصابات میں سے اولاد ذکور یا اناث رکھتا ہو، اُس کو بھی یہی حقوق حاصل ہوں گے، اور اُن میں ذکور و اکبر کو ترجیح ہوگی۔“

اس وضاحت سے ثابت ہوا کہ مذکورہ نقشہ کے مطابق مرزا اسحاق بیگ کے عصابات میں سے اُن کے چچا زاد بھائی مرزا حسین یار بیگ کے بڑے بیٹے احسان یار بیگ جو زندہ موجود ہیں، مرزا اسحاق بیگ کے بعد حسب شرط واقف انہیں اس وقف کی تولیت کا حق پہنچتا ہے۔

شرط الواقف كنص الشارح (الدر المختار) لأنهم صرحوا بأن مراعاة الواقفين واجبة. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارح ۴۴۵/۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۱ھ

## اولاد در اولاد کی عدم موجودگی میں صحیح العقیدہ عالم کو متولی بنانے کی وصیت کرنا؟

**سوال (۴۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مرزا خسرو بیگ نے ایک قطعہ مکان واقع مغل پورہ کو وقف علی الاولاد فی سبیل اللہ کر دیا، اور اپنی حیات میں خود متولی رہے، اور اپنے بعد تولیت کے سلسلہ میں وقف نام میں لکھا کہ: ”بعد من مقرر زوجہ من مقرر مسماة بگا بیگم متولیه مکان مذکورہ ہوگی“ آگے لکھا کہ ”بعد مسماة مذکورہ کے مرزا اسحاق بیگ پسر من مقرر متولی ہوگا“ اور بعدہ مرزا اسحاق اگر اولاد ذکور میں جو اکبر ہوگا، وہ متولی ہوا کرے گا۔“



آگے لکھا کہ ”اگر خدا نخواستہ اسحق بیگ کی نسل میں اولاد ذکر نہ ہو تو اولاد اناث پسر من مقرر کی طرح سے حق تولیت حاصل ہوگا اور بحالت نہ ہونے اولاد ذکر و اناث پسر من مقرر مرزا اسحق بیگ کے جو لوگ کہ پس من مقرر کی حیات میں سے اولاد ذکر یا اناث رکھتا ہو، اُس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، اور اُن میں ذکر و اکبر کو ترجیح ہو، اور اگر کسی وقت میں کوئی حق تولیت نہ رہے، تو حاکم وقت کسی عالم ہم عقیدہ علماء دیوبند کو اُس کا متولی کر دے۔ تو اب دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ وقف نامہ تحریر کی رو سے شرعاً اس موقعہ مکان کی تولیت کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ اب اسحق بیگ کی نسل میں کوئی اولاد نہیں ہے، وہ لا ولد فوت ہو گئے، اس وقت مرزا خسرو بیگ کے بھائی اسفندیار کے پوتے مؤمن یار نے وقف بورڈ سے تولیت حاصل کر لی ہے، جو وقف نامہ کی شرائط کے خلاف ہے، تو شرعاً اسفندیار کے پوتے مؤمن یار کا تولیت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو وقف نامہ کی تحریر کے مطابق کسی عالم متقی ہم عقیدہ علماء دیوبند کو متولی بنانا جائز ہوگا یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔ کیا ایسے حالات میں مرزا اسحاق بیگ کی بیوی حسنی بیگم جو کہ حیات میں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس مکان موقعہ کو مدرسہ شاہی مراد آباد یا دارالعلوم دیوبند کی تولیت میں دے دیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف نامہ کی تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقف مرزا خسرو بیگ نے اپنے پڑ کے اسحق بیگ کے علاوہ کسی اور کی اولاد کو تولیت کا مستحق قرار نہیں دیا ہے؛ لہذا جب کہ اسحق بیگ لا ولد فوت ہو گئے ہیں، تو اب مرزا خسرو بیگ کے اور کسی قریب یا بعید رشتہ دار کو تولیت کا حق نہیں ہے؛ بلکہ حسب تحریر وقف نامہ کسی دیوبندی مسلک کے عالم کو اس جائیداد کا متولی بنانا چاہئے، وقف بورڈ نے دوسرے شخص کو متولی بنا کر شرائط وقف کی خلاف ورزی کی ہے، اُس کی اصلاح لازم ہے، اور اسحق بیگ کی بیگم حسنی کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مدرسہ کو دے دیں؛ البتہ کارروائی کر کے وقف بورڈ کے ذریعہ شرط واقف کے مطابق دیوبندی عالم کو متولی بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔

فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. (شامی، کتاب الوقف / مطلب:

شرائط الواقف ۵۲۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۴/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بیوی کو موقوفہ مکان کا متولی بنانا؟

**سوال (۴۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا میں اپنی موجودہ بیوی کو پہلا متولی بنا سکتا ہوں؛ کیوں کہ موجودہ بیوی کا بعد میرے مرنے کے بسراوقات زندگی مشکل نظر آرہی ہے؛ لہذا اپنے بعد پہلا متولی تمام زندگی کے لئے بنانا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ بعد بڑا لڑکا بعد بڑی لڑکی اس کی اولاد بعد دوسری بیوی مطلقہ کی اولاد میں لڑکا بقیہ ترتیب وار ان کی نسل سے متولی بنتے رہیں گے، کیا یہ درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** آپ بشمول اپنی بیوی کے حسب صواب دید جس کو چاہیں بالترتیب متولی بننے کی صراحت کر سکتے ہیں، اس ترتیب کی بہر حال رعایت رکھی جائے گی۔  
فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. (شامی، کتاب الوقف / مطلب:  
شرائط الواقف ۵۲۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۵/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## واقف کی اولاد کو رو نہ رہنے کی صورت میں حاکم شہر کا کسی دوسرے کو واقف کا متولی بنانا؟

**سوال (۴۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: برائے کرم منسلک وقف نامہ کی شرط ۴ کی روشنی میں بحالت موجودہ نسل واقف میں بوجہ ذکور اکبر ہونے کے خود کو تولیت وقف متعلقہ کا حامل خیال کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف نامہ سے یہ معلوم ہوا کہ مرزا خسرو بیگ واقف

نے تولیت کی شرط اپنے بیٹے مرزا اسحاق اور اُس کی اولادِ ذکور کے لئے خاص کی ہے، اور حسبِ تحریر سوال چوں کہ مرزا اسحاق بیگ لا ولد فوت ہو گئے، اس طرح واقف مرزا خسرو بیگ کی نسل میں کوئی ولد ذکر باقی نہیں رہا، اس لئے وقف نامہ کی شرط ۴ کے مطابق متولی مقرر کرنے کا حق حاکمِ شہر کو حاصل ہوگا، اور وہ حسبِ شرط واقف کسی سنی مسلمان کو مکانِ مذکور کا متولی بنائے گا، اور متولی وقف نامہ کی شرائط کے مطابق اُس میں تصرف کا مجاز ہوگا، اور سائل رحمان یار بیگ کو وقف نامہ کے اعتبار سے تولیت کا حق حاصل نہیں ہے۔

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالک فله أن يجعل مالہ حيث شاء ما لم یکن معصية. (شامی، کتاب الوقف / مطلب شرائط الوقف معتبرة ۵۲۷/۶ زکریا)

شرط الواقف کنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف کنص الشارع، ومطلب: بیان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا، وکذا في الأشباه والنظائر، کتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن کراچی، تنقیح الفتاویٰ الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۹/۸/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## متولی کا وقف کی آمدنی سے اپنی اجرت لینا؟

**سوال (۴۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا متولی اپنی محنت کے بقدر آمدنی وقف میں سے کچھ لے سکتا ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اپنی محنت کے بقدر کچھ لینے کی اجازت ہے؛ لیکن تصرف بے جا کی ہرگز اجازت نہ ہوگی؛ بلکہ ایسا کرنے پر وہ مستحقِ عزل ہوگا۔

قال في الدر: ومرو أيضًا أن للمتولي أجر مثل عمله. وفي الشامي: ولم

بیشتر ط له الواقف شيئاً كما قدمناه. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في تحرير حكم ما يأخذه

المتولي الخ ٤٥١/٤ كراچی، ٦٧٢/٦ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ ۱۴۱۲/۲۱

## مسجد کمیٹی اور متولی کا لاپرواہ امام کو برخواست کرنا؟

**سوال (۴۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: متولی مسجد اور مسجد کمیٹی کو کیا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی امام کو اُس کی امامت میں لاپرواہی اور اکثر و بیشتر غیر حاضری اور غیر ذمہ دارانہ فعل کرنے کی بنا پر امامت سے دست بردار کر سکے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کمیٹی اور متولی کو یہ حق ہے کہ معقول سبب کی بنا پر امام کو خدمت سے معزول کر دے؛ لیکن بہر حال فتنہ اور انتشار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

(مستفاد: کفایت المفتی ۱۵۳۷)

قال في البحر: واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جرحه عدمها لصاحب وظيفه في وقف بغير جرحه، وعدم أهلية. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: لا يصح عزل صاحب وظيفه بلا جرحه أو عدم أهلية ٥٨١/٦ زکریا، البحر الرائق / كتاب الوقف ٢٢٧/٥ كراچی، ٣٨٠ دار الكتاب دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ھ ۱۴۲۸/۲۱

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## واقف کا متولی وقف کو معزول کرنا؟

**سوال (۴۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: واقف نے اپنے بھائی کو موقوفہ مکان کا متولی بنایا تھا، اب واقف اپنی حیات میں اُس کو تولیت سے ہٹا سکتا ہے یا نہیں؟

**الجواب وبالله التوفیق:** واقف کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ وہ اپنے مذکورہ بھائی کے علاوہ کسی اور کو موقوفہ مکان کا متولی بنا دے یا خود اُس کا انتظام کرے۔ (مستفاد: کفایت المہنتی ۱۶۵/۷)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يولي أقوامًا كثيرًا ولذي القربى صدقة عمر، فإذا رأى منهم خيرًا أقرهم، وإن كان غير ذلك عزلهم. (إعلاء السنن، ولاية الوقف / باب لا يولي إلا أمين عادل ذو رأي ۲۱۵/۱۳ رقم: ۴۵۵۳ دار الكتب العلمية بيروت)

أما الواقف فله عزل الناظر مطلقاً به يفتى. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في عزل الناظر ۳۸۲/۴ کراچی، ۵۸۰/۶ زکریا)

قال أبو يوسف: الولاية للواقف، وله أن يعزل القيم في حياته ويولي غيره أو يرد النظر إلى نفسه. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۱۹۷/۵ کراچی، ۳۲۹/۵ دار الكتاب ديوبند، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۰۹/۶ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ  
۱۴۱۲/۳/۲۳ھ

## متولی کی مرضی کے بغیر موقوفہ جائیداد پر قبضہ کرنا؟

**سوال (۴۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید جو کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اُس نے عمر کی وقف زمین پر زبردستی ڈنڈے کے بل پر قبضہ کر لیا، اس جگہ پر جو کہ وقف ہے، متولی کی مرضی کے بغیر کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیا اُس کا یہ عمل شرعی طور پر درست ہے؟ اللہ کے دربار میں اُس کا روزہ، نماز اور تلاوت قابل قبول ہے؟ عمر ہی مذکورہ زمین کا متولی ہے، یہ زمین عمر کے والد نے وقف علی الاولاد کی ہے اور لکھنؤ میں رجسٹرڈ ہے۔

کا واقف کی شرط کے مطابق باضابطہ متولی ہے؛ لہذا اُس کی مرضی کے بغیر زید کا مذکورہ جائیداد پر جبراً قبضہ کرنا شرعاً ہرگز درست نہیں، اور اس عمل کی بنا پر زید سخت گنہگار ہے، اگر قبضہ نہ چھوڑے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، تو آخرت میں شدید عذاب کا مستحق ہوگا، مگر اس ناجائز قبضہ کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کی دیگر عبادتیں قبول نہیں ہیں۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ١١٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٥٤٩٢ دار الكتب العلمية بيروت)

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن أروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة. (صحيح مسلم، كتاب المساقات / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ٣٣/٢ رقم: ١١١٠ بيت الأفكار الدولية) وينعزل المتولي من قبل الواقف بموت الواقف ..... إلا إذا جعله قيماً في حياته وبعد موته. (شامي، كتاب الوقف / مطلب فيما يعزل به الناظر ٣٨٠/٤ كراچی، ٥٧٨/٦ زكريا) لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الغصب / مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير ٢٩١/٩ زكريا، الأشباه والنظائر / الفن الثاني ٤٤٤/٢ إدارة القرآن كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۱/۲۸ھ



# اوقاف میں تصرف کرنا

کیا واقف وقف کو ختم کر کے مالکانہ تصرف کر سکتا ہے؟

**سوال (۵۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص محمد حسین نے اپنا ایک مکان وقف علی الاولاد کیا، اور اپنے چھوٹے بھائی کو متولی بنایا، اور وقف نامہ میں یہ لکھا کہ اُسے اپنی حیات میں وقف کی تہنیت کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس وقف کو توڑ کر مذکورہ مکان فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب کہ وقف مذکور تام اور لازم ہو چکا اور خود واقف

نے وقف نامہ میں لکھ دیا ہے کہ اسے اپنی حیات میں وقف کی تہنیت کا کوئی حق نہ ہوگا، تو اب واقف محمد حسین کو مذکورہ مکان کا وقف ختم کرنے یا اُس میں مالکانہ تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار) قوله: لا

يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه، ولا يعار ولا يرهن لاقترانهما الملك.

(الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريا،

الوقف ۳۵۲/۴ كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب لوقف ۳۵۰/۲، فتح القدير / كتاب

الوقف ۲۲۰/۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكتبة بلال ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## وقف کی زمین فروخت کرنا؟

**سوال (۵۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اس آراضی کے بارے میں کہ جو زید نے اپنے بھائی عمر سے تبادلہ کر کے مسجد کے لئے وقف کی ہے، اور اب زید اُس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو کیا زید اپنے بھائی عمر کے اقتصادی حالات کے دباؤ کے تحت دی ہوئی آراضی مذکورہ کو واپس لے کر فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** زید نے جو جگہ مسجد کے لئے وقف کر دی ہے اور وقف کی کاروائی مکمل ہو چکی ہے، یعنی اُسے ذمہ دارانِ مسجد کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا قانوناً وقف کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا ہے، تو اب زید اس جگہ کو واپس لے کر فروخت نہیں کر سکتا ہے۔

فإذا تم ولنزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)  
 قوله: لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه، ولا يعار ولا يرهن لاقتضائهما الملك. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴ كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۱۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكتبة بلال ديوبند، ۶۱۹/۲ المكتبة النعمية ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۳/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ زمین کو کسی وارث کا فروخت کرنا؟

**سوال (۵۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک آراضی کی مالک مسماة زینب زوجہ کریم اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس جائیداد کو چند شرطوں کے



ساتھ اپنی حیات ہی میں وقف کر دیا تھا، جو حسب ذیل ہیں:

جب تک میں زندہ رہوں گی اس موقوفہ جائیداد کی متولیہ رہوں گی، میرے مرنے کے بعد میری لڑکی جعفری زوجہ عنایت اللہ اس موقوفہ زمین کی متولیہ ہوگی، جعفری زوجہ عنایت اللہ کے مرنے کے بعد اس موقوفہ آراضی کا متولی جعفری بیگم کا لڑکا محمد اسحاق یعنی ہمارا نواسہ ہوگا، اور محمد اسحاق کی وفات کے بعد اس کی اولاد در اولاد سلسلہ بسلسلہ ہوتی رہے گی؛ لیکن جعفری بنت زینب کے شوہر عنایت اللہ کا انتقال ہو گیا، تو جعفری نے دوسری شادی عبدالقیوم شخص سے کر لی اور اس سے ایک لڑکی شفیق النساء پیدا ہوئی، شفیق النساء نے آراضی موقوفہ جس کے متولی شرائط کے مطابق محمد اسحاق تھے، ۶۸ گزر زمین فروخت کر دی۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ شفیق النساء کا زمین فروخت کرنا جائز ہو یا نہیں، صورت مذکورہ میں موقوفہ آراضی کا کس کو متولی ہونا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** موقوفہ زمین کا بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے؛ لہذا شفیق النساء نے جو موقوفہ زمین بیچ دی ہے، وہ بیع صحیح نہیں ہوئی، اور حسب تصریح وقف نامہ اس جائیداد کا متولی محمد اسحاق ہے، شفیق النساء کا تولیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار مع

الشامی، کتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو یوسف بین قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زکریا، ۳۵۲/۴

کراچی، کذا فی الفتاویٰ الہندیہ / الباب الأول من کتاب الوقف ۳۵۰/۲)

فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرط. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۳۴۳/۴ کراچی، ۵۲۷/۶ زکریا، الہدایۃ / کتاب

الوقف ۶۳۷/۲ إدارة المعارف دیوبند، فتح القدیر ۲۲۰/۶ بیروت)

أهل الجماعة والتمتولي لو رهنوا الوقف لم يصح، وعلى المرتهن أجره

الدار، سواء كانت معدة للغلة أو لا، كذا إذا باع التمتولي وسكن المشتري الدار،

هو المختار للفتوى. (فتاویٰ السراجیہ، کتاب الوقف / باب إجارة الوقف وبيعه ۴۰۰ دارالعلوم أفريقيا)

ولاية نصب القيم إلى الواقف (الدر المختار) قال في البحر: قدمنا أن

الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها، وأن له عزل المتولي. (الدر

المختار مع الشامي / كتاب الوقف ۶۳۳/۶-۶۳۴ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۴/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر مسلموں کے قبضے سے بچانے کیلئے مسجد اور قبرستان کو فروخت کرنا

**سوال (۵۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: قبضہ سیانہ ضلع بلند شہر کے قریب میں ایک دیہات مسلمانوں سے بالکل خالی ہو چکا ہے، وہاں کے مسلمان مختلف مقامات پر جا کر بس گئے، اب وہاں کی حالت یہ ہے کہ قبرستان کے کافی حصہ پر غیر مسلم لوگ قابض ہو چکے ہیں، اور مسجد بھی ان کے قبضہ میں آ چکی ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کا حل تلاش نہ کیا گیا، تو دونوں مسجد و قبرستان پر غیر مسلم لوگ قابض ہو جائیں گے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ دونوں جگہوں کو فروخت کر دیا جائے، اگر فروخت کرنا جائز ہے تو کیا مذکورہ رقم مدرسہ یا اسکول میں لگا سکتے ہیں، یا مسجد کی رقم مسجد میں اور قبرستان کی رقم قبرستان میں صرف کی جائے، یا شرعاً جو بھی حل ہو جلد از جلد مطوع کیا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** موقوفہ جگہ کو فروخت کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں،

مسجد کی جگہ کو گھیر کر مقفل کر دیا جائے، اور دیگر جگہوں سے کرایہ کی کوئی شکل نکل سکتی ہو، تو اسے اپنا کر اُس کی آمدنی متعلقہ مصارف خیر میں لگائی جائے۔ (مستفاد: اواررحمت ۱۲۸-۱۳۲)

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، ويبقى مسجداً عند الإمام، والثاني أبداً

إلى قيام الساعة، وبه يفتي حوا القديسي. وتحتنه في الشامية: قوله: ”عند الإمام

والثاني“ فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا

یصلون فيه أولاً، وهو الفتوى حاوى القدسي، وأكثر المشايخ عليه. (شامي ۴۸۱/۶ زكريا)  
وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه؛ لأن الوقف

اجتمع فيه معنيان: الحبس والصدقة. (حاشية جلهي على فتح القدير ۲۳۲/۶، دار الفكر)

يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي ۴۹۱/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۹/۶/۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف علی اللہ یا وقف علی الاولاد کو فروخت کرنا؟

**سوال (۵۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: عبدالرشید مرحوم نے اپنے ایک مکان کو وقف کیا ہے، جو کہ فتویٰ کے ساتھ رجسٹرڈ وقف نامہ منسلک ہے، واقف نے وقف نامہ میں چند الفاظ استعمال کئے ہیں، اُن کی تشریح فرما کر سمجھا دیجئے، وہ الفاظ درج ذیل ہیں:

”مکان موقوفہ کو اپنے قبضہ مالکانہ سے خارج کر کے ملکیت خدائے تعالیٰ مالک دو جہاں حی

قیوم میں دے دیا“۔ کیا اس عبارت بالا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقف علی الاولاد کو واقف کے ورثہ فروخت کر سکتے ہیں، جب کہ واقف نے اپنے وقف نامہ میں شرط ۲ میں یہ شرط لگائی ہے کہ مکان مذکورہ موقوفہ کو کسی بھی نوعیت سے نہ منتقل کرنا اور نہ ہی کسی مطالبہ میں زربار کرنا وغیرہ، نیز واقف نے وقف نامہ میں اور مصارف خیر کو بھی لکھا ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ عبارت بالا وقف نامہ کو زید یہ کہتا ہے کہ وقف علی الخیر کو

نہیں بیچ سکتے؛ کیوں کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وقف علی الاولاد کو فروخت کر سکتے ہیں؛

کیوں کہ اولاد اُس کی مالک ہے۔ براہ کرم وضاحت کے ساتھ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بیان

فرمائیں کہ کیا وقف علی الاولاد ملکیت خدائے تعالیٰ مالک دو جہاں حی قیوم کو فروخت کیا جاسکتا ہے یا

نہیں؟ اگر کوئی شخص یا ان کا وارث فروخت کر دے تو اُس کا کیا حکم ہے، اور وقف شیء موقوف اگر کوئی

مسلمان خرید لے، تو اُس کا کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جو جائیداد باقاعدہ وقف کر دی گئی، خواہ وہ وقف علی اللہ ہو یا وقف علی الاولاد، بعد میں اُس کی خرید و فروخت کسی کے لئے جائز نہیں ہے، وقف علی الاولاد میں اولاد کو صرف نفع اٹھانے اور کرایہ وغیرہ کی آمدنی حسبِ صراحت وقف اپنے صرف میں لانے کا اختیار ہوتا ہے، بیچنے کا حق نہیں ہوتا، اور ہم رشتہ وقف نامہ میں چوں کہ خواہ وقف نے صراحتاً جائیداد مذکورہ کو نہ بیچنے کی شرط لگا دی ہے؛ لہذا اُس سے بیچنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بیع شرعاً منعقد ہی نہیں ہوگی، اور مقبوضہ زمین متولی کو واپس کرنی ہوگی۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار مع

الشامی، کتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴

کراچی، کذا فی الفتاویٰ الہندیہ / الباب الأول من کتاب الوقف ۳۵۰/۲)

وفي جامع الفتاوى: استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته؛ لأنه لا يقبل

الملك كالحجر لا يقبل الرق. (مجموعة رسائل ابن عابدين / الرسالة التاسعة ۸۵ المكتبة

الأشرفية لاهور) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۲/۱۴۱۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**جائیداد موقوفہ کو از روئے شرع محمدی فروخت کرنا؟**

**سوال (۵۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کیا جائیداد موقوفہ کو از روئے شرع محمدی فروخت کیا جاسکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** موقوفہ جائیداد کو فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

لا يملك أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴ كراچى) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۰/۶/۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف کی جائیداد کو متولی کی ملکیت سمجھ کر فروخت کرنا؟

**سوال (۵۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جناب عبد الہادی صاحب نے اپنی پوری جائیداد وقف کر دی ہے، اپنی اولاد کی عدم موجودگی میں اور اُس کے مرنے کے بعد اُس جائیداد کے متولی اُن کے بڑے لڑکے ہوئے، اس کے بعد اُس کے چھوٹے بھائی متولی بنے، اُن کے بڑے لڑکے نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اُس میں سے کچھ فروخت کر دی اور تقسیم نہ ہونے کی صورت میں حفاظت کے واسطے اُس کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف کی جائیداد کو نہ تو فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اُس کو ذاتی ملکیت کی حیثیت سے واقف کے ورثہ میں تقسیم کرنا جائز ہے؛ بلکہ وقف باقی رکھ کر حسب شرائط اُس کی آمدنی صرف کرنا لازم ہے، جو وقف کا حصہ بیچ دیا گیا ہے اُس کی بیع فسخ کر کے وقف میں واپسی ضروری ہے۔

فإذا تم ولنزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)  
قوله: لا يملك أي لا يكون مملوكًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه، ولا يعار ولا يرهن لاقتضاءهما الملك. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴ كراچى، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول

من کتاب الوقف ۳۵۰/۲، الهدایة / کتاب الوقف ۶۵۱/۲ مکتبہ بلال دیوبند)

إذا صح الوقف لم یجز بیعه ولا تملیکة، أما امتناع التملیک فلما بینا من قوله علیه السلام: تصدق بأصلها، لا یباع ولا یورث ولا یوهب. (الهدایة / کتاب الوقف ۶۴۰/۲ إدارة المعارف دیوبند، کذا فی فتح القدیر / کتاب الوقف ۶/۲۲۰ دار الفکر بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱۱/۲۲ھ

## موقوفہ زمین کو بیچنا جائز نہیں

**سوال (۵۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری پردادی مسماة صغریٰ بیگم بیوی مرزا نثار علی بیگ ساکن کہنہ مغل پورہ مراد آباد نے اپنی ملکیت تین قطع مکانات ۱/۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو بذریعہ وقف نامہ وقف رجسٹرڈ کرائے تھے، جو باقاعدہ طور پر وقف رجسٹر دفتر مراد آباد میں درج ہے۔ صغریٰ بیگم کے چار پسران: انور علی بیگ، احمد علی بیگ، واجد علی بیگ، عابد علی بیگ و تین دختران تھیں، صغریٰ بیگم نے وقف نامہ میں چاروں پسران کی اولاد در اولاد، نسل در نسل، بطن بعد بطن کے لئے سکونت قائم کی تھی، انور علی بیگ اور واجد علی بیگ وطن ترک کر گئے۔ عابد علی کی صرف ایک دختر تھی، اُن کی شادی ہو گئی۔ اب مرزا احمد کے سات پسران اور دو دختران پورے طور پر سکونت پذیر ہو گئے، دونوں دختران بیاہ دی گئیں۔ شاہد علی اپنی فیملی کو لے کر پاکستان چلے گئے، چھ بھائیوں نے آپسی رضامندی سے مکانات میں اپنے اپنے حقوق مقرر کر کے تعمیرات کرائیں، سبھی فوت ہو گئے، اُن کی اولادیں قیام پزیر ہیں۔ وقف نامہ کے مطابق مکانات میں دیوار وغیرہ کرنے بیج، بہہ، رہن، انتقال ضمانت و انتقال دوامی و عارضی سے منتقل کرنے کی پابندی عائد ہے۔ پھر بھی صابر علی اپنے حقوق رہائش غیر شخص سے کچھ رقم لے کر منتقل کر کے چلے گئے جس میں وہ غیر شخص آباد ہے۔ اب مرحوم امجد علی اور صابر علی مرحوم کی اولاد اپنی اپنی رہائش حدود مقررہ فروخت کر رہے ہیں، کوئی باضابطہ تحریر یا تقسیم نہیں ہے، اور نا ہی حدود مقررہ

مساوی ہے، کسی کی جگہ سڑک کے کنارے ہے، تو کسی کی جگہ کم اندر کی طرف ہے، بہر حال آپسی رہائش ہے، اگر وقف نامہ کی خلاف ورزی میں مکانات فروخت کئے جاتے ہیں، تو زائد جگہوں کی کیا نوعیت ہوگی؟ شاہد علی کی ایک دختر پاکستان سے مراد آباد میں بیاہ دی گئی ہیں، اُس کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ عابد علی اور احمد علی بیگ کی دختر ان کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ وقف مکانات کو فروخت کرنے میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اُوپر کے حالات پر غور فرما کر شرعی فیصلہ صادر فرمانے کی زحمت گوارہ کریں؛ کیوں کہ ساجد علی اور امجد علی کی رہائشی جگہ باہر کی طرف زائد ہے اور احمد اور زاہد کی رہائشی جگہ اندر کی طرف کم ہے، جب وقف سے سبک دوشی ہوئی ہے، تو اپنا جائز حق لینا چاہئے یا نہیں؟ کیوں کہ یہاں وقف کا منشاء ہی فوت ہو رہا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو جگہ وقف علی الاولاد رجسٹرڈ ہے، اُس کو بیچنے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے، اگر اُس کو فروخت کر دیا جائے، تو شرعاً اُس کا نفاذ نہیں ہوگا؛ لہذا وقفہ مسماۃ صغری بیگم نے جو اراضی مکانات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کئے ہیں، وہ کسی بیٹے یا اُن کی اولاد کو اس مؤقفہ اراضی کو فروخت کرنے کا کوئی حق نہیں، جن لوگوں نے ناحق طور پر اپنا حصہ سمجھ کر کوئی جزو بیچ دیا ہے، وہ سخت مواخذہ دار ہوں گے، اُن پر لازم ہے کہ بیع کو کالعدم کریں اور سب حق داروں کو انصاف کے ساتھ اپنے حق کے مطابق جائداد مذکورہ سے نفع اُٹھانے کا موقع عطا کریں، اور مستحقین میں جو لوگ پاکستان چلے گئے یا جا کر واپس آ گئے ہیں، اُن کو بھی حسبِ شرائط وقف انتفاع کا حق ہے، جو لوگ بھی اس بارے میں کوتاہی کریں گے، وہ عند اللہ مواخذہ دار ہوں گے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۳۱/۱۴۱۱ ج ۱)

فیہ: حدیث عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً: تصدق بأصله لا بیاع ولا یوہب ولا یورث. (إعلاء السنن، کتاب الوقف / باب إذا حرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف

قال الموفق في المغني: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت موأناً ولم تكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلح فيه، أو قاض بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز ببعه لبعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه، قال أحمد في رواية أبي داؤد: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما و صرف ثمنها عليه. لا نزاع فيه؛ فإن بيع الآلات المستغني عنها يجوز اتفاقاً. (إعلاء السنن، كتاب الوقف / باب إذا خرب المسجد والوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع ٢٤٣/١٣ تحت رقم: ٤٥٧١ دار الكتب العلمية بيروت) فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار) قوله: لا يملك أي لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لا استحالة تملك الخراج عن ملكه، ولا يعار ولا يرهن لاقتضاءهما الملك. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ٥٣٩/٦ زكريا، ٣٥٢/٤ كراچى، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ٣٥٠/٢، فتح القدير / كتاب الوقف ٢٢٠/٦ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ٦٥١/٢ مكبة بلال ديوبند ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتاب: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ١٨/٤/١٣٣٥ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کوزمین دے کرواپس لینا؟

**سوال (٥٨):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص نے اپنی زمین کسی مدرسہ کو دے دی اور اُس پر سال گذر گیا اور اُس پر تعمیر کر کے مدرسہ کے احاطہ زمین میں شامل و داخل کر لیا گیا ہو، تو وہ زمین والا اُس زمین کو شرعاً واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟



**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف تام ہونے کے بعد اُس کو زمین والا شرعاً واپس

نہیں لے سکتا، اور نہ اُس میں کسی قسم کا مالکانہ تصرف کر سکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۸۸/۱۴ ذی الحجیل)

فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه. (الدر المختار مع الشامی / مطلب: لو وقف علی

الأغنياء وحلم لم يجز ۲۱/۶ زکریا)

فإذا تم (الوقف) ولزم، لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر

المختار) قوله: لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل

التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه، ولا يعار ولا يرهن

لاقتضائهما الملك. (الدر المختار مع الشامی، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله

موقوفة لغيره / كتاب الوقف ۳۹۱/۶ زکریا، ۳۵۲/۴ کراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف

۳۵۰/۲، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۶ دار الفكر بيروت، لهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكبة بلال ديوبند)

والوصية هي تملك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو دينًا. (الدر

المختار / كتاب الوصايا ۶۴۷/۶-۶۴۸ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مشترکہ زمین مسجد کے نام وقف کر کے کسی ایک شریک کا اپنے**

**حصہ کی زمین واپس لینا؟**

**سوال (۵۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: (۱) زید کی زمین ہے عمر، بکر، خالد نے زید کی زمین سے آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل ۷-۷ رو

روپے میں خرید کر اور خود زید نے ایک بسوہ زمین اپنے پاس سے اس طرح کل ۴ بسوہ زمین

مشترکہ طور پر وقف کی تھی، جس میں مسجد بنی ہوئی ہے، اور مسجد کا حصہ جہت قبلہ ہونے کی وجہ سے کتر

گئی تھی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آپسی رقابت و باہمی نزاع کی وجہ سے عمر، بکر خالد میں سے کوئی اپنے ۷/ سو روپے جو مسجد کی زمین کی خریداری میں دئے تھے، واپسی کا مطالبہ کرے یا زید واپس کرے اور اپنا حق ملکیت جتائے؟ یا عمر، بکر، خالد مسجد کی زمین اپنے استعمال میں لائیں؟ شرعاً کیا حکم ہے؟

(۲) باقی ماندہ زمین جو بسبب جہت قبلہ کتر گئی تھی، اس کتری ہوئی زمین کو زید معاوضہ دے کر واپس لینا چاہے، جب کہ مسجد کو ضرورت ہے، تو عند الشرح کیا حکم ہے؟

**نوٹ:-** زید کی مجبوری یہ ہے کہ زید کے لئے شارع عام پر جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) حسبِ تحریر سوال مذکورہ زمین چوں کہ عمر، بکر، خالد اور زید نے مشترکہ طور پر وقف کی ہے، اور اس جگہ مسجد بن چکی ہے، گویا وقف تام ہو چکا ہے؛ لہذا اب ان میں سے کسی بھی شخص کو اپنا حق واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور اس جگہ گویا اُس کے کسی حصہ کو ان میں سے کسی کے لئے اپنی ذاتی استعمال میں لانا قطعاً جائز نہیں ہے۔

فإذا تم (الوقف) ولزم، لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو یوسف بین قوله موقوف الخ ۵۳۹/۶ زکریا، ۳۵۲/۴ کراچی، کذا فی الفتاویٰ الہندیة / الباب الأول من کتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح

القدير / کتاب الوقف ۲۲۰/۶ دار الفکر بیروت، الہدایة / کتاب الوقف ۶۵۱/۲ مکبہ بلال دیوبند)

إذا صح الوقف لم یجز بیعہ ولا تملیکہ. (فتح القدير / کتاب الوقف ۲۲۰/۶ دار

الفکر بیروت)

من اتخذ أرضه مسجدًا لم یکن له أن یرجع فیہ ولا بیعہ ولا یورث عنه؛

لأنه یحرز عن حق العباد، وصار خالصًا للہ تعالیٰ. (فتح القدير / کتاب الوقف ۲۲۰/۶)

(۲) جو جگہ مسجد کے لئے وقف ہو چکی ہے، اور مسجد کو اس کی ضرورت بھی ہے، اسے زید کے لئے معاوضہ دے کر لینا جائز نہیں ہے، اور یہ مجبوری بیان کرنا کہ اس کے لئے شارع عام پر جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب یہ جگہ وقف کی جا رہی ہے تھی، اور زید خود واقفین میں شامل ہے، تو اُس نے اس وقت اس بات کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟

و كذا يكره أن يتخذ طريقاً. (البحر الرائق / فصل في أحكام المسجد ۱۰/۲۵)

إذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء يزيل

وقفيته. (فقه السنة ۳/۳۸، دار الكتاب العربي بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۶/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کے لئے وقف کردہ زمین کو تین سال بعد واپس لینا؟

**سوال (۶۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید نے اپنی زمین عید گاہ میں ہمیشہ کے لئے وقف کر دی، اور اس کا برس عام بعد نماز جمعہ اعلان بھی کیا، جس پر گاؤں والے گواہ ہیں، اب زید اس کو واپس لینا چاہتا ہے جب کہ تین سال تک اُس میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی رہی ہے، نیز گاؤں والوں نے اس کی پٹائی اور بوٹری وغیرہ میں تقریباً پانچ لاکھ روپے صرف کئے ہیں، زید اپنی وقف کردہ زمین کو واپس لینا چاہتا ہے، اب زید کے لئے اس زمین کو واپس لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی صورت جواز کی نظر آتی ہے تو جو عید گاہ میں روپے خرچ ہوئے ہیں، اُس کو واپس کرے گا یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال جب زید نے اپنی زمین عید گاہ کے

نام ہمیشہ کے لئے وقف کر دی اور اُس پر گاؤں کے لوگوں کو گواہ بنایا، اور تین سال تک اُس میں عید کی نماز بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ وقف تام اور لازم ہو گیا، اب زید کے لئے عید گاہ کے نام وقف کردہ

زمین کو واپس لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔

فإذا تم ولنزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)  
 قوله: لا يملك أي لا يكون مملوكًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل  
 التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار  
 مع الشامسي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۵۳۹/۶ زكريه، ۳۵۲/۴  
 كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح القدير / كتاب الوقف  
 ۲۲۰/۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكتبة بلال ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۳۳ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کیلئے زمین دینے والوں سے راستہ کیلئے زمین طلب کرنا؟

**سوال (۶۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: ہمارے گاؤں میں ایک مسجد دوستک (ڈیڑھ گٹھا زمین) پر وقف ہے، اس جگہ کے علاوہ دوسری  
 اور کوئی زمین نہیں ہے، نہ مسجد کا اپنا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی گلی ہے، اس مسجد کے سامنے کچھ زمینیں  
 ہیں جس میں چند آدمی شریک ہیں، اسی زمین سے مسجد میں مصلیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس  
 زمین کو ان شرکاء نے ایسا ہی چھوڑ رکھا ہے یعنی وقف نہیں کیا؛ کیوں کہ ان ہی شرکاء نے مسجد کو  
 دوستک (ڈیڑھ گٹھا) جگہ دے کر وقف کر دیا؛ لیکن راستہ اونٹل وغیرہ کی جگہ مسجد کے نام پر وقف نہیں  
 کیا ہے؛ لہذا مصلیوں کا ان شرکاء سے کہنا ہے کہ تم اس زمین کو مسجد کے نام تحریری طور پر وقف کر دو،  
 ورنہ بیچ دو ہم خرید لیں گے۔

اب شرکاء کا کہنا ہے کہ نہ ہم تحریری طور پر وقف کریں گے اور نہ بیچیں گے؛ بلکہ ہم نے جو  
 مصلیوں کی آمد و رفت کے لئے چھوڑ رکھا ہے ویسا ہی رہنے دو، اس بارے میں مصلیوں اور شرکاء  
 کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ یہ شرکاء ہوسکتا ہے بعد میں اپنی زمین واپس لے لیں، ایسے سنگین

حالات میں شرکاء کو کیا کرنا چاہئے؟ اس زمین کو وقف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور مصلیوں کو کیا کرنا چاہئے؟ شریعت کا جو فیصلہ ہو اسے قلم بند فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مالکین شرکاء پر شرعاً جبر نہیں کیا جاسکتا؛ لیکن شرکاء کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد کے نام راستہ یا تو وقف کر دیں یا فروخت کر دیں، تاکہ آپس کی چپقلش ختم ہو جائے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ١١٨٦ / المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٥٤٩٢ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲/۷/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کیلئے زمین وقف کر کے اس کا معاوضہ طلب کرنا؟

**سوال (۶۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم باشندگان مفتی والا باغ قدوائی نگر نے رہائش کے لئے اس کالونی میں زمین خریدی، اس زمین کے مالک مفتی حضرات تھے، اور انہوں نے عبداللطیف انصاری کو زمین بیچنے کا مجاز کیا تھا، عبداللطیف انصاری چوں کہ ناخواندہ تھے، اس لئے انہوں نے حنیف انصاری کو اپنا چوتھائی حصہ میں حصہ دار بنایا، ان لوگوں نے اصل مالک مفتی حضرات کی رضامندی سے ضرورت کے مد نظر اور جلدی زمین بیچنے کے مقصد سے ۹۲۵ رگزر زمین مسجد، اور مدرسہ کے نام سے ۵۰۰ رگزر مسجد، ۲۲۵ رگزر مدرسہ کے لئے فی سبیل اللہ چھوڑی تھی، ۱۹۸۵ء میں اہل محلہ نے ان لوگوں کی تحریک پر ایک میٹنگ

کی جس میں حاجی عبداللطیف انصاری اور حنیف انصاری نے اپنی موجودگی میں مسجد و مدرسہ کی تعمیر کے لئے ایک انتظامیہ کمیٹی تشکیل کی اور اس کمیٹی کا صدر خلیق الرحمن انصاری کو بنایا گیا، اس میٹنگ میں عبداللطیف نے اپنی طرف سے مسجد کی تعمیر کے لئے ۵۰ ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا کیا تھا، اسی میٹنگ میں اہل محلہ نے چندہ کیا۔

واضح رہے کہ چندہ میں ایک صاحب نے زیور اور ایک صاحب نے گھر کے برتن تک دئے تھے، اور چھ ہزار اینٹ منگا کر مسجد کا سنگ بنیاد مولانا حکیم محمد اسلام صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ہوا، مسجد کی دو طرف کی بنیاد بھر دی گئی، دونوں صاحبوں نے سوٹرک پیلی میٹی اور املیان والی مسجد کی مرمت کا ملبہ مسجد کی زمین میں بھراؤ کے لئے اپنے خرچ پر ڈلوایا، اسی دوران کچھ اسباب فساد کی بنا پر تعمیر کام رک گیا، ان لوگوں نے مسجد کی زمین لکھوانے کے لئے کئی بار اہل محلہ سے وعدہ کیا؛ لیکن مصروفیت ہونے کی وجہ سے کچھری تک جانے کے باوجود زمین نہ لکھ سکے، اس بیچ دونوں حصہ داروں میں باہمی تنازع پیدا ہوا، حنیف نے بے ایمانی کر کے اہل محلہ کی مخالفت کے باوجود جو ۲۲۵ گز زمین مدرسہ کی تھی، دوسرے آدمی کو فروخت کر دی، ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۳ء میں عبداللطیف انصاری کا انتقال ہوا، ۵۰ ہزار روپے دینے کا اپنا وعدہ وہ کچھ اسباب کی بنا پر پورا نہ کر سکے، ۲۵ دسمبر سے مسجد کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی، نئی انتظامیہ کمیٹی نے عبداللطیف مرحوم کے صاحب زادے محمود سے رجوع کیا اور کہا کہ میرے والد وعدہ کے مطابق ۵۰ ہزار روپے نہیں دے سکے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں جو اتنی بڑی رقم دے سکوں، انہوں نے ۱۳ ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا اور اب تک تقریباً ۴۵ سو روپے دے چکے ہیں، حنیف کے دل میں دوبارہ بے ایمانی آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زمین مسجد کے لئے نہیں دی، مجھے اس زمین کے دام چاہئے جب کہ مفتی حضرات اور عبداللطیف کے وارثین اس زمین کو مسجد کی زمین ہی مانتے ہیں، ماشاء اللہ مسجد اب تقریباً مکمل ہو چکی ہے، شب برأت سے اس مسجد میں نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کی جا رہی ہے، براہ کرم اوپر لکھے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ کیا اس زمین

پر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین مذکورہ کے اصل مالک

مفتی حضرات تھے، اور انہوں نے ہی وہ زمین مسجد کے لئے وقف کی تھی اور وہ آج تک اس اقرار پر قائم ہیں؛ لہذا جب وہ جگہ مسجد بنا دی گئی اور باقاعدہ اس میں نماز ادا کی جانے لگی، تو بلاشبہ وہ شرعی مسجد ہو گئی ہے، اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی مسجدیت میں شک کرے یا اس کا معاوضہ طلب کرے، وہاں نماز پڑھنا بلاشبہ جائز ہے اور حنیف کا اس جگہ کے دام کا مطالبہ کرنا قطعاً بے معنی ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)

قولہ: لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل

التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار

مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوف الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴

كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح القدیر / كتاب الوقف

۲۲۰/۶ دار الفكر بیروت، الهدایة / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكته بلال دیوبند)

ولا يتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولي؛ لأن تسليم كل شيء بما يليق

به، ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ويفرز. (توير

الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب شروط الوقف على قولهما ۳۴۸/۴ دار الفكر بیروت)

وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعتة

إلى العباد، فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية /

أول كتاب الوقف ۳۵۰/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مرکزی ادارہ کا ملحقہ مدارس کو بطور تبرع زمین دے کر واپس لینا؟

**سوال (۶۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مرکزی ادارہ رجسٹرڈ ہے، جس کے اغراض و مقاصد میں تعلیم کو عام کرنا ہے، اس تعلیم میں بچوں اور بچیوں کو صحت و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا اور دینیات اور حکومت سے منظور شدہ نصاب پرائمری درجات از درجہ اطفال تا درجہ پنجم کا نظم کرنا شامل ہے، مرکزی ادارہ سے خواہش مند حضرات اپنے علاقہ کے لئے اجراء مکاتب و الحاق مکاتب کی درخواست کرتے ہیں، تو حسب اُصول منظوری کے بعد ان مکاتب کا مکمل نظم مرکزی ادارہ کی جانب سے کیا جاتا ہے، نیز اس الحاق کے بعد فراہمی مالیہ کی پوری سعی مرکزی ادارہ کی جانب سے جاری کردہ رسیدات ہی کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ علاقہ کی ضرورت و حالات کے لحاظ سے ان رسیدوں سے حاصل شدہ رقم سے زمین خریدی جاتی ہے، یا کوئی صاحب خیر اپنی ذاتی زمین مرکزی ادارہ کے نام منتقل کرتے ہیں، پھر معاونین کی جانب سے مرکزی ادارہ کے اُصول و ہدایات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس ملحقہ مکتب کا مرکز سے الحاق ختم کیا جاتا ہے، اور علاقائی حالات کے اعتبار سے مرکزی ادارہ کے لئے وہاں متبادل تعلیمی نظم قائم کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ:

علاقہ کے کسی دینی ادارہ کو وہ زمین دینا مرکزی ادارہ کے لئے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟  
مرکزی ادارہ کے لئے اس زمین کا فروخت کرنا اور حاصل شدہ رقم دیگر مکاتب میں

استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** شرعی اعتبار سے ہر قومی و ملی ادارہ حکماً ایک شخص کے مانند ہوتا ہے، جو اپنے لئے ملکیت قبول کرنے کا اہل سمجھا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی ادارہ اگر پہلے سے قائم ہو، اور پھر کوئی رجسٹرڈ مرکزی ادارہ اس کو اپنے سے ملحق کرے، تو اس الحاق کی وجہ سے اصل ادارہ کی اپنی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی؛ بلکہ صرف انتظامی طور پر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اب اس



زمانہ الحاق میں اس ادارہ کے نام پر جو بھی سرمایہ کی فراہمی ہوگی اگرچہ مرکزی ادارہ کے زیر نگرانی اور اُس کی طرف سے جاری کردہ رسیدوں پر ہی ہو، پھر بھی اصلاً وہ سب آمدنی ملحقہ ادارہ ہی کی ملکیت سمجھی جائے گی، اور مرکزی ادارہ پر دلیلتاً لازم ہوگا کہ وہ ہر ادارہ کی آمدنی اسی ادارہ کی ضروریات میں صرف کرے اور دوران الحاق مرکزی ادارہ کی طرف سے تعمیر میڈیا زمین کی خریداری وغیرہ میں جو رقم دی جائے گی، وہ ادارہ کے لئے ہبہ اور تبرع ہوگا، جس میں الحاق باقی رہتے ہوئے حسب شرائط مرکزی ادارہ کو تصرف و انتظام کا حق حاصل ہے؛ لیکن الحاق ختم ہو جانے کے بعد اس جگہ پر مرکزی ادارہ کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا؛ لہذا مرکزی ادارہ اپنی عطا کردہ زمینوں یا تعمیرات کو فروخت کر کے دوسری جگہ صرف کرنے کا مجاز نہیں ہے؛ البتہ اگر مرکزی ادارہ خود ابتداءً اپنے ماتحت کسی نئے ادارہ کو قائم کرے، تو اس پر مالکانہ حقوق مرکزی ادارہ کو حاصل رہیں گے، اُس کا حکم پہلے سے چلنے والے ملحقہ اداروں کی طرح نہیں ہوگا۔

المستفاد: لا يجوز التصرف في مال غير ه بلا اذنه ولا ولا لایتہ. (الدر المختار

مع الشامي، كتاب الغصب / مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير ۲۹۱/۹ زکریا)

متولي وقف عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في أمور الوقف.

(الفتاوى التاتارخانية ۸۶۱/۵)

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (تنوير الأبصار) وفي الشامي:

قوله لا يملك: أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التملك

لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (شامي، كتاب الوقف / قبيل

مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن ۵۳۹/۶ زکریا، ۳۵۲/۴ کراچی)

ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف. (تنقيح الفتاوى الحامدية

۲۰۹/۱، بحواله حاشية: فتاوى محمودیه ۳۴۳/۱۴ ڈابھیل)

المتولى: في اصطلاح الفقهاء هو من فوض إليه التصرف في مال الوقف

وقام بتدبيرها. (الموسوعة الفقهية ۹۹/۳۶ كويت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۸/۱۵/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی موقوفہ زمین کی بولی لگا کر زیادہ کرایہ پر دینا؟

**سوال (۶۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جس کی موقوفہ ۱۰ ایکڑ زمین آمدنی کے واسطے موجود ہے، اب مسجد کی کمیٹی وزمہ داران سال کے شروع میں اس ۱۰ ایکڑ زمین کو اس طرح لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لئے دیتے ہیں کہ کون اس زمین کو کتنے روپے سے کھیتی کے لئے لے گا، ایک کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں اتنے مثلاً ۲۰ ہزار روپے میں لوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ۲۵ ہزار روپے میں لوں گا، اب کمیٹی اُس آدمی کو دیتی ہیں جو زیادہ دیتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ مسجد کی موقوفہ زمین ایک سال یا دو سال مدت متعینہ کے طور پر اس طرح کھیتی کے لئے دینا ولینا درست ہے یا نہیں؟ مدت متعینہ ختم ہوتے ہیں دوبارہ اس طرح معاملہ طے کرتے ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں زیادہ کرایہ کی بولی لگانے والے کو

سال دو سال کے لئے مسجد کی کھیتی کو زمین کرایہ پر دینا درست ہے، اور بہتر ہے کہ کرایہ داری کا معاہدہ تین سال سے زائد نہ ہو؛ تاکہ قبضہ وغیرہ کا احتمال نہ رہے۔

ولا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف، ولو احتيج إليها فالوجه في ذلك أن يعقد عقوداً متفرقة مترادفة كل عقد على سنة، فيكتب في الصك، استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين عقداً، كل عقد على سنة، فيكون العقد الأول لازماً، ويكون العقد الثاني غير لازم. وفي الذخيرة: وبعض المشايخ زيفوا هذه الحيلة، وفي البخانية: وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإجارة المضافة تكون لازمة

في إحدى الروايتين، وهو الصحيح. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الفصل السابع في

تصرف القيم في الأوقاف ۶۸/۸ رقم: ۱۱۲۳۰ زكريا)

إلا أن في الأوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر

ملكها، وهي ما زاد على ثلث سنين وهو المختار. (الهداية / كتاب الاجارات ۲/ ۲۹۷

مكتبة بلال ديوبند، ۲۹۴/۳ الأمين كتابستان ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۷/۸/۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## آجر مثل سے کم پر اوقاف کی آراضی کرایہ پر نہیں دی جائے گی؟

**سوال (۶۵):**— کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ہمارے محلہ میں کوئی دینی ادارہ قائم نہیں ہے، اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دور

دوسرے مدرسہ میں جاتے ہیں، تو بازار راستہ میں پڑتا ہے، باس وجہ اہل محلہ نے ایک مکان جو مسجد

کے لئے وقف ہے، اس کو کرایہ پر لے کر دینی ادارہ قائم کر کے چلانے کا عزم مصمم کیا ہے اور فی

الحال تعلیمی سلسلہ کو مسجد کے اندر شروع کر دیا ہے، جس میں تقریباً ۸۰ بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں،

نیز مقامی بچوں کے ساتھ ساتھ بیرونی چارپانچ بچے بھی زیر تعلیم ہیں، جن کا فی الحال انتظام اہل محلہ

ہی کر رہے ہیں، اب آپ سے استفسار یہ ہے کہ مسجد کا جو موقوفہ مکان ہے، کیا اس جگہ کو کرایہ پر لے

کر مدرسہ بنانا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مکان کو کرایہ پر لے کر اُس میں مدرسہ چلانا

درست ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کرایہ آجر مثل سے کم نہ ہونا چاہئے۔

ویؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل. (الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب: فلا

یصح إیحار الوقف بأقل من أجره المثل ۴۰۲/۴ کراچی، ۶۰۸/۶ زکریا، کذا فی الفتاوی السارحیة /

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۴/۱۴۱۰ھ

## وقف کی جائیداد سینما چلانے کے لئے کرایہ پر دینا؟

**سوال (۶۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: میں صلاح الدین خلف محی الدین صاحب مرحوم ایک وقف قائم کردہ حاجی کریم اللہ و مسماۃ خیر النساء محلہ مان پور مراد آباد کاتولی ہوں، یہ وقف ۱۹۳۶ء میں کیا گیا تھا، وقف قائم ہونے سے قبل ہی ایک آراضی ۱۹۳۲ء یعنی وقف کئے جانے سے چار سال قبل تھیٹر یعنی سینما بنانے کے لئے چالیس روپے ماہوار کرایہ پر ۲۰ سال کی مدت کے لئے پٹہ پر دی تھی، ۱۹۵۲ء میں ۲۰ سال کی میعاد ختم ہونے پر میرے دادا مرحوم نظام الدین صاحب متولی اور حاجی عبداللہ صاحب نے جو ایک دوسرے وقف کے متولی ہیں، اور اس آراضی میں شریک ہیں، ۲۵ سال کے واسطے پھر سینما چلانے کے لئے ۳۰۰ روپے ماہوار کرایہ پر پٹہ پر دی، ۲۵ سال کی میعاد ۱۹۶۷ء میں ختم ہونے سے قبل میرے موجودہ متولی اور حاجی عبداللہ صاحب کے ذریعہ پٹہ کی میعاد میں ۲۰ سال کی توسیع کر ۲۲۰ روپے ماہوار کرایہ پر دے دی تھی، خیال ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سینما کی آمدنی جائز نہیں ہے۔

وہی فریق جو کہ ۱۹۳۲ء سے اس آراضی پر قابض ہے، اب پھر پٹہ کی میعاد بڑھا کر خاطر خواہ کرایہ دینے کو تیار ہے، اب تک ۵۰ سال پرانے کرایہ دار ہیں، پانچ روپے سات روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، وہ فریق اندازہ ہے کہ ۱۵ ہزار روپے ماہانہ کرایہ دے دے گا، تو ہندوستان میں مسلمانوں کے موجودہ حالات اور اوقاف کی ناگفتہ بہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سینما چلانے کے لئے یہ آراضی اس فریق کو کرایہ پر دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف کی جائیداد کو سینما کے لئے کرایہ پر دینا اعانت

علیٰ المعصیۃ ہونے کی بنا پر صحیح نہیں ہے، کسی اور جائز کام کے لئے کرایہ پر دیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶/۱۸۸، ۱۲/۲۹۸ زکریا قدیم)

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ﴾ [المائدة، جزء آیت: ۲]

لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وقراءة الشعر. (الفتاوى السراجية،

كتاب الإجارة / باب الإجارة الفاسدة ۴۶۴ دارالعلوم زکریا افریقیا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۵/۲۹ھ

## دینی تعلیم کے ادارہ کی موقوفہ زمین کو آئی ٹی آئی کیلئے کرایہ پر دینا؟

**سوال (۶۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: اپنے علاقہ کا ایک مشہور دینی اسلامی ادارہ ہے، جہاں پر الحمد للہ شعبہ دینیات و حفظ و درجہ عالیہ کی مکمل تعلیم ہو رہی ہے، اور تقریباً ۲۵ رسال سے یہ ادارہ قائم ہے، اس ادارہ کے لئے صرف دینی تعلیم و تربیت کے تقریباً ۱۸ ایکڑ موقوفہ (وقف شدہ) زمین ہے، اور واقفین نے بھی اسی نیت سے وقف کی ہے، اسی زمین پر یہ ادارہ قائم ہے جس میں ایک بڑی وسیع مسجد، درس گاہ، بلڈنگ، مطبخ، دارالطعام، مہمان خانہ، بیت الخلاء اور حمامات وغیرہ تعمیر شدہ عمارتیں موجود ہیں، اسی طرح ایک بڑی وسیع (تقریباً ۱۸ ہزار اسکوائر فٹ پر محیط) دو منزلہ نامکمل عمارت مدرسہ کی اسی موقوفہ زمین میں فی الحال موجود ہے، جو درس گاہ کے لئے چند سال کے لئے چند سال پہلے مدرسہ کے تعمیراتی فنڈ (چندہ) سے زیر تعمیر تھی؛ لیکن تعمیری خرابی اور دیگر حالات کے پیش نظر تعمیر موقوفہ کر دی گئی ہے، باوجود اس کے عمارت فی الحال قابل استفادہ ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ کچھ ٹریسٹوں و ذمہ داران مدرسہ اس پوری عمارت کو جنرل آئی، ٹی آئی کے لئے دوسرے کسی شخص کو بطور اجرت کرایہ دینا چاہتے ہیں، (جس میں جنرل یعنی ہر کسی کو اڈمیشن لے کر عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی) تو آیا اس عمارت کو بطور کرایہ (اجرت) دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو جو شخص

اس کو بطور کرایہ لے رہا ہے، وہ اس میں تبدیلی مثلاً سلیپ، پلاسٹر وغیرہ مختلف اہم تعمیری کام کی زیادتی اپنی جانب سے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو کس حد تک؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور ہمارے اسلاف و اکابر کا اس سلسلہ میں کیا نظریہ رہا ہے؟ تصریح فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو زمین صرف دینی تعلیم و تربیت کے لئے وقف کی گئی ہے، اور اُس میں سرِ دست دینی تعلیم کا ادارہ جاری ہے، اس جگہ کو ”آئی، ٹی، آئی“ کے لئے کرایہ پر دینا شرعاً جائز نہیں؛ اس لئے کہ اس سے واقف کے منشاء کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔

شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه . (شامی / مطلب: ما مخالف شرط

الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلاد دليل ۷۳۵/۶ زکریا)

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندی عن أهل المسجد

تصرفوا في أوقاف المسجد يعني أجروا المستغل، وله متول، قال: لا يصح

تصرفهم. (الفتاوى الهندية / مطلب: فی بیان الفاضل من وقف لمسجد ۶۳۱/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۸/۱۹

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف بورڈ کی زمین لمبے پٹے پر دینا اور پیگڑی لینا؟

**سوال (۶۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک صاحب نے مسجد تعمیر کی اور ایک مکان اور کچھ زمین وقف کر دی، جس کی ۴۵ فیصد آمدنی مسجد کے اخراجات کے لئے اور بقیہ ۵۵ فیصد آمدنی اپنے خاندان کے لوگوں اور متولی کے لئے مقرر کی، چونکہ واقف کے خاندان کے لوگ ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے، اس لئے وقف بورڈ نے مسجد اور وقف جائیداد کو آفیشل متولی کے زیر انتظام کر دیا، آفیشل متولی نے مکان اور زمین وقف بورڈ کی اجازت سے ۷۵ سال کے لئے پٹے پر دے دی، زمین اور مکان پٹے پر دیتے وقت تقریباً

۶۲/ ہزار روپے پگڑی، سلامی کے طور پر آفیشل متولی نے وصول کئے، وقف بورڈ کے حکم پر پچاس ہزار روپیہ وقف بورڈ کے نام بینک میں فکس ڈپازٹ کر دئے گئے، اب ہر سال فکس ڈپازٹ سے جو سود ملتا ہے اس میں سے وقف بورڈ نے فیصد سالانہ عطیہ کاٹ کر بقیہ سود کی رقم متولی کو مسجد کے اخراجات کے لئے دے دیتا ہے۔ کیا وقف بورڈ کو زمین پٹے پر دے کر سلامی لینا جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف کی زمین کو لمبے پٹے پر دینا ہی جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس طرح پٹے پر لینے والا چند دنوں میں خود ہی اس زمین کا مالک بن بیٹھتا ہے، اور وقف کا اختیار اُس پر سے ختم ہو جاتا ہے؛ لہذا جب پٹے پر دینا جائز نہیں، تو اس پر سلامی و پگڑی لینا بھی جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۱۶۷/۹، فقہی مقالات ۲۰۷ تا ۲۱۷)

ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز في الدور أكثر من سنة، إلا إذا كانت المصلحة في الجواز؛ وفي الضياع يجوز إلى ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان. وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل، وأشار الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن؛ لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف، فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن. (شامی، کتاب الوقف / فصل یراعی شرط الواقف فی إجارته ۶۰۶/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۸/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**وقف کی جائیداد کو سنی وقف بورڈ سے منسوخ کرانا؟**

**سوال (۶۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: جائیداد ہائے موقوفہ حاجی کلن مرحوم کے متعلق میں نے چند مدارس سے فتاویٰ اس امر کے لئے لئے ہیں کہ وقف جائیداد کو فروخت کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ اب متولی وقف جائیداد کو منسوخ کرانے کے لئے سنہ وقف بورڈ مجھے بھیجا جاتا ہے، کیا میرے لئے وقف کو منسوخ کرانے کے لئے جانا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اس خلاف شریعت کام میں کسی طرح کا تعاون جائز نہیں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ﴾ [المائدة، جزء آیت: ۲]

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يبرهن . (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب

الوقف / مطلب مهم فرق أبو يوسف ۵۳۹/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۱۱/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام پر چھوڑی گئی زمین فروخت کرنا؟

**سوال (۷۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: چند لوگوں نے کچھ زمین مسجد بنانے کے ارادے سے چھوڑی تھی؛ لیکن ابھی مسجد بنائی نہیں گئی، اب وہ لوگ کسی وجہ سے اُس زمین کو فروخت کر کے دوسری جگہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ کو فروخت کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جب کہ اُس جگہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے اور وقف بھی نہیں

ہے، تو اُس جگہ کے مالکان اُسے فروخت کر کے دوسری جگہ خرید سکتے ہیں۔

وأما الثاني وهو شرائط النفاذ فإثنان: الملك أو الولاية. (شامی، كتاب

اليوع / مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة ۵۰/۴، کراچی، ۱۵/۷ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ



جس زمین کو مدرسہ کیلئے وقف کرنے کی نیت کی ہو اُس کو فروخت کرنا؟

**سوال (۷۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے ایک قطعہ آراضی واقع دیہات ایک مدرسہ کو دینے کی نیت کی؛ لیکن کسی قسم کی کاغذی کارروائی نہیں کی تھی، اب کچھ شہر پسند عناصر نے اس قطعہ پر قبضہ کر لیا، جس سے اب یہ نہ تو زید کے پاس رہی اور نہ مدرسہ کو وہی کچھ مل سکتا ہے، ایسی حالت میں کیا اس آراضی کو فروخت کیا جاسکتا ہے؛ تاکہ اس رقم کو فی سبیل اللہ کسی مد میں خرچ کیا جاسکے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بر تقدیر صحت سوال اگر صرف نیت کی ہے اور باقاعدہ تحریری یا زبانی طور پر وقف کی نوبت نہیں آئی، تو زید کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مملوکہ زمین کو فروخت کر کے کسی بھی خرچ میں لے آئے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي ۷)

الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة، فلا يصح بدون

التسليم كسائر التصرفات. (بدائع الصنائع / كتاب الوقف ۳۲۸/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۶/۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

مسجد کے نام پلاٹ بک کرنے کے بعد آبادی نہ ہونے کی وجہ سے فروخت کرنا؟

**سوال (۷۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک شخص نے شہر سے باہر کھیت خریدا اور پلاٹ بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کئے، اس غرض سے کہ یہاں پر مسلم آبادی ہو جائے گی، اور اس میں ایک پلاٹ مسجد و مکتب کے لئے بھی چھوڑ دیا کہ مسجد تعمیر ہو کر کچھ حصہ میں مکتب بھی قائم ہو جائے گا؛ لیکن مصلحتاً دستاویز میں اُس کو مدرسہ

کے نام سے لکھوایا؛ لیکن وہاں قریب مدت میں آبادی کی کوئی صورت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے پلاٹ رہائش کی ضرورت سے لیا تھا؛ لیکن وہاں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ فروخت کر کے آبادی میں لینا چاہتے ہیں، اور بعض پلاٹ غیر مسلم نے خرید لئے اور بھی کچھ پلاٹ غیر مسلم خریدنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں اگر وہاں پر مسلمانوں نے پلاٹ فروخت کر دئے تو مسجد کی جگہ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کی جگہ مستقبل کی ضرورت سے لے کر چھوڑ دی گئی تھی، ابھی نہ مسجد کی بنیاد بھری گئی نہ مسجد تعمیر ہوئی، نہ نماز ہوئی، اگر فروخت کر سکتے ہیں تو اس کی رقم کا مصرف کیا ہوگا؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں چوں کہ ابھی مسجد اور وقف کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اس لئے اس مقررہ پلاٹ کو فروخت کر کے اس کی رقم دیگر کسی ضرورت مند مسجد میں لگا دی جائے، یا جہاں مسجد کی ضرورت ہو، اس کے لئے زمین خرید کر دے دی جائے۔

والملک یزول عن الموقوف بأربعة: بإفراز مسجد کما سیحیء. (الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب شرائط الواقف معتبر إذالم تخلف الشرع ۵۲۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۱۰/۱۴۲۳ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## اہل مسجد کا موقوفہ مکان کو فروخت کرنا؟

**سوال (۷۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد والے اس مکان کو فروخت کر سکتے ہیں، جب کہ واقف حیات ہے؟ جواب موصول ہونے تک اگر واقف کا انتقال ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں ذمہ داران مسجد کے لئے مسجد کی ضرورت کے پیش نظر اس مکان کو فروخت کرنا جائز ہے؟ اگر فروخت کرنا جائز ہو اور واقف یا اس کے رشتہ دار اس مکان کو خریدنا چاہتے ہوں، تو کیا وقف شدہ زمانہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا موجودہ زمانہ کی قیمت کا؟ واقف کی خواہش ہے کہ مکان اپنے ہی بھانجے کو دیں؟

**الجواب وبالله التوفيق:** وہ مکان جب تک بھی کسی درجہ میں نفع بخش رہے، یعنی اس کا معتد بہ کرایہ وغیرہ آتا رہے، اہل مسجد یا واقف کو اُسے فروخت کرنے کا قطعاً اختیار نہیں ہے، ہاں کرایہ کم ہو تو اُسے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)  
 قوله: لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۹۶/۵ زكريا، ۳۵۲/۴ كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۵۰/۱۲، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۱۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكتبة بلال ديوبند)

وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعة إلى العباد فيلزم، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الأول في تعريفه وركنه الخ ۲۵۰/۱۲ زكريا)

قوله: لم يجز بيعه ولا تملكه، هو ياجماع الفقهاء ..... أما امتناع التملك، فلما بينا من قوله عليه السلام: تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. (فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۱۶ مصطفى الباني الحلبي مصر، وكذا في البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۴۲/۵ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۰/۶/۱۲ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے کرایہ کے موقوفہ مکانات کو فروخت کرنا؟

**سوال (۷۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کچھ اراضی مسجد کے نام وقف ہے، جس میں مکانات تعمیر ہیں، اب سے ۲۰-۳۰ سال پہلے اس زمین پر اپنے پیسہ سے کرایہ داروں نے مکانات تعمیر کر لئے تھے، جن کا اس وقت کے لحاظ سے پانچ دس روپے سال طے ہو گیا تھا، اسی وقت کسی سے دس کسی سے بیس سال کا کرایہ طے کر لیا گیا تھا، اُس کے بعد وہ کرایہ دار نہ کرایہ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ اراضی چھوڑتے ہیں اور نہ کرایہ بڑھاتے ہیں۔ کیا اس صورت میں وہ اراضی کرایہ داروں کو فروخت کی جاسکتی ہے یا نہیں؛ تاکہ وہ پیسہ مسجد کی ضرورت میں کام آئے؟ یا اس پیسہ سے کوئی اور اراضی مسجد کے لئے خرید لی جائے جس سے آمدنی زیادہ ہو۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اہل محلہ کے باہمی مشورہ سے مسجد کے فائدہ کو پیش نظر

رکھتے ہوئے کرایہ کے موقوفہ مکانات کو بیچ کر اُن کے ذریعہ زیادہ آمدنی کے قابل زمین یا مکان مسجد کے لئے خریدنا درست ہے۔

ثم قال: والظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة للاستغلال؛

لأن المنظور فيها كثرة الربح، وقلة المرممة والمؤنة، فلو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن. (شامي، كتاب الوقف /

مطلب في شروط الاستبدال ۳۸۶/۴ کراچی، ۵۸۶/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۹/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی موقوفہ زمین مدرسہ کو فروخت کرنا؟

**سوال (۷۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: محلہ محی الدین پور قصبہ ملانواں ضلع ہردوئی میں ایک مسجد ہے، تقریباً دس سال قبل مدرسہ فتح العلوم کے منتظمین حضرات نے مسجد کی خالی پڑی زمین خرید لی، اور وہاں دو ہال، بیت الخلاء، غسل خانہ، استنجاء خانہ تعمیر کرائے، غسل خانہ کے قریب ایک کنواں ہے، جس میں اب ہینڈ پائپ لگا کر

کنویں کو اوپر سے پاٹ دیا ہے، مذکورہ کنواں فروخت شدہ زمین میں ہے؛ مگر پائپ مسجد کے نام پر مسجد کے روپیوں سے لگا ہے۔

تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کی خالی پڑی زمین جو مسجد کی ضرورت سے زائد تھی، اس کی بیع درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو منتظمین مدرسہ نے جو اس جگہ تعمیر کرا دی ہے، اُس کا کیا ہوگا؟ مسجد کی جگہ بلا معاوضہ خالی کرنے میں مدرسہ کا نقصان ہے، آپ سے اُمید ہے کہ شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں حل فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر یہ جگہ مسجد کے لئے پہلے سے وقف ہے، تو اُس کو مدرسہ کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ موقوفہ زمین کو بیچنا نہیں جاسکتا؛ اس لئے لازم ہے کہ مدرسہ کی طرف سے جو رقم ادا کی گئی ہے وہ مدرسہ کو واپس کی جائے اور زمین مسجد کے حوالہ کی جائے؛ البتہ اہل مسجد اپنے زیر انتظام اس جگہ پر مسجد کے ماتحت مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، اور مسجد کی طرف سے پاٹے ہوئے کنویں پر جو ہینڈ پمپ لگایا گیا، اس سے پانی وغیرہ لینا اور نمازیوں کا اس سے استعمال کرنا سب درست ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۹۱، ج ۱، بحیل، انوار رحمت ۱۳۸)

وفي البحر: الثامنة في وقف المسجد: أيجوز أن يبنى من غلته منارة، قال في الخانية معزيا إلى أبي بكر البلخي: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۰/۵، كراچی، ۳۶/۱۰، دار الكتاب)

وفي تقريرات الرافعي تحت قول المصنف لمصلحة: ليس بقيد؛ بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسلمين على ما أفاد في غاية البيان حيث قال: أورد الفقيه أبو الليث سؤالاً وجواباً فقال: فإن قيل: أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به، قيل: إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز؛ لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى

أَيْضًا، وَمِنْهُ يَعْلَمُ حَكْمَ كَثِيرٍ مِنْ مَسَاجِدِ مِصْرَ النَّبِيِّ تَحْتَهَا صَهَارِيحٌ وَنَحْوُهَا.  
(التقريرات الراقعي على الشامسي ۸۰/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۹/۷/۱۴۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## متولی کا مدرسہ کے لئے خریدی گئی زمین کو مسجد کے نام کرنا؟

**سوال (۷۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گولروالی مسجد سے متصل آراضی تھی، آراضی کے مالک اور گولروالی مسجد کے بیچ ساڑھے تین سو روپے میں سودا ہو گیا، جب رجسٹری کرانے گولروالی مسجد کے لوگ گئے، تو پیسے نہیں لے گئے، ان لوگوں میں ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے کہا پیسہ ہم دے دیں رجسٹری ہم اپنے نام کرائیں، جب مسجد ہم کو پیسہ دے دے گی، تو ہم رجسٹری مسجد کے نام کر دیں گے، رجسٹری حاجی صاحب نے اپنے نام کرائی، جب جب گولروالی مسجد والے لوگ حاجی صاحب سے آراضی مسجد کے نام کرنے کو کہتے تو حاجی صاحب ٹال دیتے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ حاجی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آراضی ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لئے لی تھی، حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں مسجد کے نام نہیں کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اس بیچ مسجد چار کھمبا میں ”مدرسہ احسن العلوم“ قائم کیا گیا، گولروالی مسجد کے متولی صاحب کو ”مدرسہ احسن العلوم“ کا صدر بنایا گیا، مدرسہ اللہ کے فضل و کرم سے چلنے لگا، مدرسہ کی کوئی جگہ نہیں تھی، مدرسہ کے لئے حاجی مرحوم کے ورثہ پر زور دیا گیا کہ جگہ مذکورہ مدرسہ کو دے دیجئے، حاجی صاحب مرحوم کے ورثہ اور مدرسہ کے بیچ ۵/۵ ہزار روپے میں سودا طے ہو گیا، آراضی خریدنے کے لئے اراکین ”مدرسہ احسن العلوم“ و دیگر مخصوص حضرات نے ہنگامی چندہ شہر میں کیا، چندہ کا پیسہ صدر مدرسہ کے حوالہ کر دیا، رجسٹری کراتے وقت متولی گولروالی مسجد نے اپنے نام بحیثیت متولی کرائی۔ اراکین مدرسہ کو رجسٹری کا علم نہیں ہوا، کافی وقت گزر جانے کے بعد علم ہوا کہ رجسٹری متولی گولروالی مسجد کے نام ہے، تو متولی مسجد صدر مدرسہ سے کہا گیا کہ آپ نے رجسٹری

”مدرسہ احسن العلوم“ کے نام نہ کرا کر اپنے نام کیوں کرائی؟ متولی صدر نے کہا کہ وکیل نے کہا تھا کہ مسجد کے نام کرا لو، مدرسہ کا ٹھیک نہیں چلے یا بند ہو جائے، اس لئے مسجد کے نام رجسٹری کرا لی جب کہ آج ”مدرسہ احسن العلوم“ کو چلتے ہوئے بیس سال ہو گئے، رجسٹری کے بعد سے ایک صاحبہ اس آراضی کے کچھ حصہ پر اپنا مالک ہونے کا دعویٰ کرتی رہیں، ادھر حال ہی میں ان صاحبہ کو بھی ”مدرسہ احسن العلوم“ کا کہہ کر آٹھ ہزار روپے دے کر عارضی تحریر لے لی گئی، متولی مسجد صدر مدرسہ نے بتایا کہ رجسٹری کے وقت کل چھ ہزار روپے خرچ میں آئے تھے، پانچ ہزار روپے حاجی صاحب کے ورثہ کو دئے، اور ایک ہزار لکھائی وغیرہ میں، جس میں چار ہزار روپے مدرسہ کے اور دو ہزار روپے گولروالی مسجد کے خرچ ہوئے، ادھر حال میں ان صاحبہ کو جو پیسہ دیا گیا اس میں پانچ ہزار روپے مدرسہ کے، تین ہزار ایک دوسری مد کے مدرسہ کے فنڈ سے دئے، آپ کے پاس مدرسہ کا فنڈ موجود ہے، اس پر متولی صدر نے کوئی معقول جواب نہیں دیا، اور بولے مدرسہ تعمیر کیجئے آراضی مدرسہ کے لئے ہے، بس نام مسجد کے ہے، متولی صدر کہتے ہیں کہ مدرسہ کی آراضی ہے، اور برابر یہی کہتے رہے۔ اور رمضان المبارک کے اشتہارات میں بھی ہر سال اپیل شائع کرتے رہے کہ مدرسہ کی زمین خرید کر عارضی سائبان کا انتظام کر کے مدرسہ کی ایک شاخ قائم کر دی گئی ہے۔ (تعمیر میں تعاون فرمائیں) گولروالی مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ آراضی مسجد کی ہے، جس وقت پہلی رجسٹری ہوئی اس وقت مدرسہ نہیں تھا، اس لئے آراضی مسجد کی ہے، اور مدرسہ والے کہتے ہیں کہ جس وقت رجسٹری حاجی صاحب نے کی اس وقت مسجد نے پیسہ نہیں دیا تھا، حاجی صاحب نے اپنا پیسہ دے کر رجسٹری اپنے نام کرا لی، مسجد کو آراضی نہیں ملی، جس وقت حاجی صاحب کے ورثہ سے آراضی لی گئی اس وقت مدرسہ قائم ہو چکا تھا، اور باقاعدہ حاجی صاحب کے ورثہ اور ”مدرسہ احسن العلوم“ کے بیچ سودا طے ہوا تھا، اور کئی گنا زیادہ مدرسہ نے پیسہ چندہ کر کے دیا، جس کے کافی گواہ موجود ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اشتہارات بھی گواہ ہیں کہ آراضی ”مدرسہ احسن العلوم“ کے لئے خریدی گئی مدرسہ کے حوالہ آراضی لکھت میں دی جائے؛ تاکہ مدرسہ کی تعمیر کی جائے؛ کیوں کہ مدرسہ کے پاس

کوئی جگہ نہیں ہے، مدرسہ کو شدید ضرورت ہے، بغیر لکھت کے مدرسہ تعمیر نہیں ہوگا۔ آج مدرسہ تعمیر ہو آگے چل کر پھر یہی وقت پیش آئے، تو اس وقت مدرسہ کہاں جائے گا؟ مسجد و مدرسہ کے بیچ یہ طے ہوا کہ علماء حضرات سے رابطہ قائم کیا جائے، علماء حضرات کا فیصلہ مانا جائے گا؛ لہذا ساری تفصیل غور سے پڑھ کر اس مسئلہ کا حل مدلل و مفصل فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مرحوم حاجی صاحب نے جب اپنی رقم دے کر اپنے نام سے زمین خریدی تھی، تو وہ انہیں کی ملکیت ہوگئی تھی، اب ان پر زندگی میں یہ لازم تھا کہ اپنے وعدہ کے مطابق مسجد سے رقم لے کر وہ زمین مسجد کے نام کر دیتے؛ لیکن جب وہ انتقال تک ایسا نہیں کر سکے، تو اب اس زمین کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور بعد میں ان کے ورثہ نے وہ زمین مدرسہ کے ذمہ داروں کے ہاتھ فروخت کی ہے اور اس خریداری میں رقم بھی زیادہ تر مدرسہ ہی کی صرف ہوئی ہے، تو اب زمین کا مالک مدرسہ ہے، مذکورہ متولی صاحب کے اپنے نام کرا لینے سے زمین پر ان کی ملکیت ہرگز ثابت نہ ہوگی، ان پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد مذکورہ زمین کی رجسٹری مدرسہ کے نام کر دیں؛ البتہ اس خریداری میں مسجد کے فنڈ سے جو رقم لگائی گئی ہے اس کو اہل مدرسہ سے واپس لے لیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۲۹/۹-۲۳۷، فتاویٰ محمودیہ ۳۳۱/۱۵)

اشترى شيئاً وقبضه ومات مفلساً قبل نقد الثمن، فالبايع أسوة للغرماء ولو لم يقبضه المشتري، فإن البائع أحق به (الدر المختار) الظاهر إن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفى الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن.

(شامی، کتاب البیوع / مطلب لو اشترى شيئاً ومات مفلساً قبل قبضه الخ ۹۹۱۷ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۱/۳/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

زمین مسجد کے نام وقف کر دینے کے بعد اس کو خریدنا؟

**سوال (۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے



میں کہ: ایک شخص نے اپنی زمین مسجد کے لئے وقف کر دی، اور مسجد کے ذمہ داران نے اس زمین کے کچھ حصہ پر تعمیر مکمل کرادی، اب کچھ زمین بچی ہوئی ہے، تو کیا وہ شخص جس نے مسجد کے لئے زمین وقف کی تھی، اس بقیہ زمین کو خرید سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو زمین مسجد کے لئے وقف کر دی گئی ہے یا مسجد کے

نام ہو گئی ہے، وہ موقوفہ ہے، اب اس کا خریدنا اور بیچنا درست نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)

قولہ: لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار)

مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفه الخ ۵۳۹/۶ زكريا، ۳۵۲/۴

كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۵۰/۲، فتح القدير / كتاب الوقف

۲۲۰/۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكبه بلال ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۶/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اہل مدرسہ کا مسجد کی زمین غصب کرنا؟

**سوال (۷۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہم حقیقی چار بھائی ہیں، ہماری آبائی سکنائی آراضی ہے، یہ آراضی جامع مسجد کے متصل

جانب جنوب ہے، اس مشترکہ آراضی کے چوتھائی حصہ کی بات جامع مسجد کی ضرورت کے لئے دس

سال سے چل رہی تھی، اپریل ۱۹۸۹ء میں ناظم تعمیرات جدید جامع مسجد نے آراضی مذکورہ کا چوتھائی

حصہ خرید لیا، اور اقرار نامہ بھی تحریر کر لیا، آراضی مذکورہ کا ۴-۳ حصہ باقی رہا، کچھ دنوں کے بعد بقیہ

حصہ ۴-۳ اراکین مدرسہ نے خرید لیا، اراکین مدرسہ نے چوتھائی کے لئے زور دیا کہ یہ حصہ بھی

مدرسہ ہی کو دے دو، مسجد کو مت دو، جب کہ پہلا حق مسجد کا ہے اور سب سے پہلے مسجد کی بات تھی، اراکین مدرسہ کو انکار کر دیا گیا، جون ۱۹۹۰ء میں اراکین مدرسہ نے مدرسہ کی تعمیر شروع کرادی اور بغیر اجازت خریدار کے چوتھے حصہ پر بھی قبضہ کر لیا، مسجد کی ضرورت باقی رہ گئی، اس غاصبانہ قبضہ کا اسلام کی رو سے کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اہل مدرسہ کو مسجد کے حصہ پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں

ہے، اور مسجد کی جتنی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اسے مسجد کو لوٹانا واجب ہے، اس جگہ پر مدرسہ کی تعمیر ہرگز درست نہیں ہے۔

ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى، قيل له أقلع البناء والغرس وردها، لبقوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق؛ ولأن ملك صاحب الأرض باق؛ فإن الأرض لم تصر مستهلكة، والغصب لا يتحقق فيها. (الهداية / كتاب الغصب ۳/۷۹۳  
الأمين كتابستان ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۶/۲۰ھ

**سرحدی علاقہ میں واقع مسجد کو حکومت کے ہاڑ میں لینے کی وجہ سے ویران چھوڑ دینا؟**

**سوال (۷۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: حضرت والا ہمارا محلہ سرحدی علاقہ میں واقع ہے، اور محلہ کی مسجد ہندوستان و بنگلہ دیش کو ہائٹنے والی ندی کے ساحل پر واقف ہے، جو اب ٹوٹی ہوئی ہے؛ کیوں کہ مرکزی حکومت کی ایک اسکیم کے ماتحت سرحد پر تارکی ہاڑ لگائی گئی ہے، اور محلہ کی یہ مسجد ہاڑ کے باہر چلی گئی، اب مسجد میں رات کے وقت تو آنا جانا ممنوع ہے؛ البتہ دن کے وقت اجازت کے ساتھ آمد و رفت کی گنجائش ہے، ایسے

محلہ میں کچھ لوگوں نے مسجد کو منتقل کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور چوں کہ سرکاری ضابطہ کے مطابق باڑے کے باہر چلی جانے والی مسجد یا مندر کا کچھ معاوضہ نہیں ملتا؛ اس لئے انہوں نے مقامی افسروں سے مل کر مسجد کی عمارت اور اُس کی زمین عام اور ملوک بتا کر اس کا معاوضہ حاصل کر لیا ہے، بعد میں انہوں نے معاوضہ کی رقم سے دوسری جگہ زمین خرید کر اُسی پر جدید مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، اور رجسٹری فیس سے رہائی حاصل کرنے کی غرض سے اصلی قیمت کے بجائے فرضی اور معمولی قیمت لکھوا کر اسے اپنے نام رجسٹری کرائی ہے، اور وقف کر دینے کے فیصلہ کر لینے پر محلہ کے بعض لوگوں نے ناراضی سے پھر قدیم مسجد کے اوپر دروازہ اور کھڑکیاں توڑ پھوڑ کر جدید مسجد میں لگا دی۔

(۱) اب سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ صورت میں ساحل والی مسجد کو غیر آباد اور ویران چھوڑنا، اور اُس کے دروازہ اور کھڑکیاں وغیرہ کو منتقل کرنا درست ہے؟

(۲) مسجد کو عام گھر وغیرہ بتا کر اُس کا معاوضہ حاصل کرنا اور اُس سے جگہ خرید کر اُس پر مسجد بنانا جائز ہے؟ (اس پر شرعی مسجد ہوگی یا نہیں؟)

(۳) کیا ایسے معاوضہ کی رقم سے کسی زمین کو مسجد کے واسطے بغیر عمومی رضامندی کے اپنے نام پر خریدنا درست ہے؟

(۴) کیا جماعت خانہ کی چھت پر سائرن لگا سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) حکومت نے مذکورہ مسجد کو باڑے کے اندر لے کر گوکہ ظلم کیا ہے؛ لیکن حکومت کے قبضہ کے باوجود مذکورہ مسجد کی جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، اس جگہ کو کسی اور استعمال میں لانا درست نہیں؛ البتہ اس مسجد کی کھڑکیوں دروازوں اور دیگر اشیاء منقولہ کو دوسری مسجد میں لگانے کی اجازت ہے۔

إن المسجد إذا خرب یقی مسجداً أبداً، لكن علمت أن المفتی به قول أبي

یوسف أنه لا یجوز نقله. (شامی، کتاب لوقف / مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره ۵۹۱/۶ زکریا)

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى. (الدرالمختار، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ٤٢٩/٦ بيروت، ٥٤٨/٦ زكريا، الفتاوى الهندية ٤٥٨/٢ زكريا)

ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أنه سئل عن مسجد، أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد، أو حوض آخر؟ قال: نعم. (شامي، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ٤٣٠/٦ بيروت، ٥٥٠/٦ زكريا)

(۲-۳) حسب تحریر سوال چوں کہ سرکاری ضابطہ کے مطابق مسجد پر سرکاری قبضہ کا کچھ معاوضہ نہیں ملتا؛ اس لئے بہتر تو یہی تھا کہ سرکار سے کسی طرح بھی معاوضہ نہ لیا جائے؛ لیکن بعض جزئیات اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ اگر کوئی غاصب وقف کی زمین غصب کر لے، اور وہ زمین ضائع ہو جائے تو غاصب سے ضمان لیا جاسکتا ہے؛ اس لئے مسئلہ صورت میں مسجد کے سرکاری طور پر غصب کر لینے کے بدلہ میں کسی بھی حیلہ سے ضمان کی رقم لے کر دوسری جگہ مسجد بنالی جائے، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض، فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء، حتى صارت بحراً لا تصلح للمزارعة يضمن قيمتها، ويشترى بها أرضاً أخرى فتكون وقفاً مكانها. (فتح القدير / كتاب الوقف ٢١١/٦)

(۴) افطار وحر کے وقت کو بتانے کے لئے مسجد کی چھت پر سائرن لگانا درست ہے۔ (کفایت المفتی ۲۱۰/۹ فقط واللہ تعالیٰ اعلم)

کتابتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۱/۱۴۲۹ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

جو جگہ مسجد کیلئے کارآمد نہ ہو اس کو فروخت کر کے مسجد میں پیسہ لگانا؟  
سوال (۸۰): کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک مسجد کے پاس تین بھائی رہتے تھے، اور وہ جگہ بہت تھوڑی تھی جس میں ایک ہی بھائی کا گزرا ہو سکتا تھا، چھوٹے دونوں بھائیوں نے اپنے دونوں حصے بڑے بھائی کو نہ دے کر مسجد کو فروخت کر دئے، اور وہ جگہ مسجد کے علاوہ ہے، جو نہ مسجد کے کام آ رہی ہے اور نہ ہی وہ کام کی ہے، اب اس جگہ کو بڑے بھائی اعجاز حسین جو زیادہ مستحق ہے، اور جگہ تنگ ہونے کی بنا پر بہت پریشان ہے؛ لہذا یہ جگہ اس کو واپس دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ نیز یہ جگہ متولی کے بغیر مشورہ اور رائے کے خریدی گئی ہے، یہاں تک کہ متولی کے علم میں بھی نہیں آئی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایسی جگہ جو مسجد کے لئے کارآمد نہیں ہے اور نہ آئندہ

اُس کے کارآمد ہونے کی امید ہے، اُسے متولی اور بستی کے معزز حضرات کے مشورہ سے بیچ کر حاصل شدہ رقم سے مسجد کی آمدنی کے لئے کوئی اور مناسب جگہ خریدنے کی گنجائش ہے؛ لہذا صورتِ مسئلہ میں اگر اعجاز حسین مذکورہ جگہ پوری قیمت پر خریدنا چاہے تو متولی کی اجازت سے ایسا کرنا جائز ہوگا، اور متولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمانه وقفاً

مكانه. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته ۳۷۶/۴، ۵۷۳/۶ زكريا)

وشرط في البحر: خروجه عن الانتفاع بالكلية، وكون البدل عقاراً،

والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل. (الدر المختار / كتاب الوقف، مطلب في

اشتراط الإدخال والإخراج ۳۸۶/۴ دار لفكر بيروت، كذا في لبحر الرائق / كتاب الوقف ۵۸۶/۶-۵۸۷ زكريا)

والمعتمد أنه يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا

يكون هناك ريع للوقف يعمر به. (الفتاوى الهندية / الباب الرابع من كتاب الوقف ۵۱۱/۲

زكريا، كذا في النهر الفائق / كتاب الوقف ۳۲۰/۱۳ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## جس زمین کی آمدنی مسجد کے لئے وقف ہو اُسے فروخت کر کے مسجد میں لگانا؟

**سوال (۸۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: والد محترم شرافت خان کے نام ایک زمین ہے، جس کے متعلق انہوں نے اپنی حیات ہی میں یہ وصیت کی تھی کہ اس زمین کی آمدنی کو فلاں مسجد میں صرف کیا جائے، اب اس مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، اور مسجد کے پاس اتنا بجٹ موجود نہیں ہے جس سے تعمیر کی جاسکے، تو کیا اس زمین کو بیچ کر اس کی آمدنی مسجد کی تعمیر میں صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے لئے جس زمین کی آمدنی کی وصیت کی گئی ہے، یہ بھی ایک طرح کا وقف ہے، اس میں زمین کو فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے؛ البتہ زمین کو کرایہ پر یا کھیتی وغیرہ کے لئے دے کر اس کی آمدنی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کی جاسکتی ہے۔

أوصى بغلة بستانه له الغلة ما عاش . (بازایة علی هامش الہندیة، کتاب الوصایا / نوع فی ألفاظها ۴۳۵/۶ زکریا)

الوقف هو حبس العین علی ملک الواقف و التصدق بالمنفعة . (بین الحقائق / أول کتاب الوقف ۲۵۹/۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۷/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کا موقوفہ مکان فروخت کر کے لڑکوں کو کاروبار کرانا؟

**سوال (۸۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ میں تعمیر کے سلسلہ میں وقف مکان کی فروختگی کا روپیہ اپنے پاس خزانچی ہونے کے ناطے

اپنے کھاتہ میں جمع کر لیا، اور اس رقم سے لڑکوں کو کار بار کرایا، کمیٹی کے کچھ ارکان کے اعتراض کرنے پر اُن کی غیر موجودگی میں میٹنگ کر کے اُن کو کمیٹی سے نکلوا دیا، اور اب مدرسہ کی حالت ابتر ہے، ایسی حالت میں شرعاً کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مدرسہ اور کمیٹی کے ذمہ داروں کے پاس جمع شدہ رقم امانت ہے، اُنہیں اس رقم میں بے جا طریقہ پر یا اپنے ذاتی فائدہ میں تصرف کا حق نہیں ہے، جو شخص ایسا کرے گا وہ رقم کا ضامن اور گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ۱/۱۷۱)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان / باب علامة المنافق ۱۰۱۱ رقم: ۳۳، مرقاة المفاتيح / باب الكبائر وعلامات النفاق ۲۱۱/۱ رقم: ۵۵ دار الكتب العلمية بيروت)

اس لئے ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ پوری رقم مدرسہ اور کمیٹی کو ادا کرے اور اس گناہ سے توبہ واستغفار کرے۔

واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (روح المعاني ۱۰۹/۲۸ بیروت، شرح النووي على مسلم ۳۵۴/۲)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجه، كتاب الزهد / باب ذكر التوبة ۳۱۳ رقم:

۴۲۵۰ دار الفكر بيروت، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح رقم: ۲۳۶۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## موقوفہ خانقاہ میں غسل میت کے لئے جگہ بنانا؟

**سوال (۸۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ۱۹۱۷ء میں ہمارے شہر و انمباڑی میں ایک ذکر خانہ بنام ”خانقاہ قادریہ باقیات الصالحات“ قائم ہوا، اُس زمانہ میں وہ علاقہ غیر آباد تھا، مگر اب یہ خانقاہ تین چار ہزار مکانات کے درمیان آگئی ہے، مذکورہ ذکر خانہ ۱۳ ہزار مرتبہ قدم کے میدان میں اور اُس کے درمیانی حصہ میں ایک ہزار مربع قدم پر عمارت مشتمل ہے، خانقاہ کے اطراف و اکناف میں جو آبادی ہوئی ہے، وہ اکثر غرباء کی ہے، جن کے مکانات اوسطاً ساڑھے بارہ بائی چالیس ۵۰۰ مربع قدم کے ہیں، جب اُن کے یہاں اموات ہوتی ہیں، تو میت رکھنے کے لئے اور غسل دینے کے لئے ایک صاحب خیر کے کارشید کو استعمال کیا جاتا ہے، کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب مذکورہ صاحب خیر نے یہ تجویز رکھی ہے کہ خانقاہ کے میدان کے ایک حصہ میں وہ اپنی ذاتی صرفہ سے اس مقصد کے لئے ایک عمارت بنوادیں گے؛ تاکہ غرباء کا یہ مسئلہ آسان ہو جائے۔

خانقاہ کے دستور کے مطابق واقف نے مذکورہ جگہ ذکر اور اُس کے متعلقات کے لئے عنایت کیا ہے، شرعی رو سے خانقاہ کی جگہ میدان میں ایک عمارت بنوا کر میت رکھنے و غسل میت کے لئے غرباء کو سہولت بہم پہنچانا کیسا ہے؟ ازراہ کرم فوراً جواب عنایت فرمائیں؛ اس لئے کہ خانقاہ کا مجلس منظمہ کی مینٹنگ بتاریخ ۲۰۱۲/۲۷/۳۰ء کو منعقد ہو گیا ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر یہ خانقاہ کا حصہ آباد ہے، اور وہاں ذکر کی مجالس قائم ہوتی ہیں، اور تعلیم و تربیت اور سلوک و تصوف کا سلسلہ جاری ہے، تو اُس کے احاطہ میں غسل اموات کے لئے کوئی عمارت بنانا شرط واقف کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز اور درست نہ ہوگا؛ لیکن اگر یہ جگہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور تعلیم و تربیت کے مصرف میں مستعمل نہیں ہے، تو علاقہ کے ذمہ دار حضرات کے مشورہ سے اس کے کسی حصہ میں غرباء کی ضرورت کے لئے غسل اموات کی جگہ



بنائی جاسکتی ہے۔

مستفاد: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبني قوم عليها مسجدًا لم أر بذلك بأسًا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها؛ فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين. (عمدة القاري ۱۷۹/۲ دمشق) وفي الشامي: على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف ليصلح مخصصًا ۶۶۵/۶ زكريا)

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۵۲/۴ دار الفكر بيروت، ۵۳۹/۶ زكريا)

الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح. (الفتاوى الهندية / مطلب في بيان الفاضل من وقف المسجد ۴۶۳/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۶/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدارس کے لئے موقوفہ قرآن کریم کو فروخت کر کے

### دینی و درسی کتب خریدنا؟

**سوال (۸۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اکثر مدارس میں عامۃ المسلمین برائے ایصالِ ثواب قرآن پاک دیتے ہیں، بسا اوقات ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اُن کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اُن کو فروخت کر کے اُس کے عوض کتبِ فقہیہ اور کتبِ حدیث و تفسیر و فناء حاصل کی جاسکتی ہیں؟ کیوں کہ واقف کا مقصد حصولِ ثواب ہے، اس طرح بھی واقف کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر شرعاً گنجائش نہیں تو کیا مہتمم مدرسہ دوسری مسجد میں یا دیگر مدارس کے طلبہ کو دے دے؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** موقوفہ قرآن کریم کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں

ہے؛ کیوں کہ یہ منشاء واقف کے خلاف ہے، ہاں اگر قرآن کریم زیادہ ہو جائیں تو دیگر مسجدوں اور

مدارس میں بطور وقف بھیجے جاسکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۶/۷۷۷)

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)

قوله لا يملك: أي لا يكون مملوگًا لصاحبه. ولا يملك: أي لا يقبل

التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (الدر المختار

مع الشامي ۳۵۱/۴-۳۵۲-۳۵۳ کراچی، الهدایہ / کتاب الوقف ۶۴۰/۲ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان، وکنا

في فتح القدير / کتاب الوقف ۲۲۰/۶ مصطفى البابی الحلبي مصر)

وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز، وإن وقف على

المسجد جاز ويقرأ فيه، ولا يكون محصورًا على هذا المسجد، وبه عرف حكم

نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها، والفقهاء بذلك مبتلون. فإن وقفها

على مستحقي وقفه لم يجز نقلها. (الدر المختار / کتاب الوقف ۳۶۵/۴ کراچی، وکذا في

البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۳۸/۵ زکریا)

لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته. (الفتاوى الهندية ۴۹۰/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۴/۲۰۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**قرآن کریم خریدنے کیلئے دی گئی رقم سے دینی کتابیں خریدنا؟**

**سوال (۸۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: بہت سے لوگ قرآن پاک کی قیمت دیتے ہیں کہ اُس سے قرآن کریم خرید کر ایصالِ ثواب

کے لئے رکھ دیں، تو کیا بجائے قرآن پاک کے دوسری کتب خرید سکتے ہیں؟ کیا اس طرح واقف کو

ثواب ملے گا یا نہیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** دینے والے کی اجازت کے بغیر قرآن کریم کے لئے خاص کی گئی رقم سے دیگر کتابیں خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم  
المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني،  
الفوائد: ۱۰۶/۲ | إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

لكن في القنية: سبل مصحفاً في مسجد بعينه للقراءة، ليس له بعد ذلك  
أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة..... مما قدمه عن الخلاصة  
من حكاية القولين: من أنه لو وقف المصحف على مسجد: أي بلا تعيين أهله،  
قيل: يقرأ فيه: أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به: أي فيجوز نقله  
إلى غيره، وقد علمت تقوية القول الأول بما مر عن القنية. (رد المحتار، كتاب الوقف  
/ مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً، لا بد أن يكون فيهم تنصيب على الحاجة، مطلب في نقل كتب الوقف  
من محلها ۳۶۶/۴ كراچی، وكذا في البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۸۱/۵-۳۸۲ زكريا)

إذا ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم تنصيب على الحاجة حقيقةً.  
(رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون الخ ۳۶۵/۴ كراچی)

إذا قصر المتولي في شيء من مصالح الوقف هل يضمن؟ قلت: إن كان في  
عين ضمنها، وإن كان فيما في الذمة لا يضمن. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۴۰۱/۵ زكريا)  
ولو اشترى بغلته ثوباً ودفعه إلى المساكين يضمن ما نقد من مال الوقف

لوقوع الشراء له. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۴۰۶/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۴/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## انجمنِ اسلامیہ کے اوقاف کہاں کہاں خرچ کئے جاسکتے ہیں؟

**سوال (۸۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انجمنِ اسلامیہ کے نام کچھ املاک وقف ہیں، مثلاً قبرستان کی دوکانیں اور مسجد کی دوکانیں دیگر مکانات امام باڑہ وغیرہ ان سب کی انجمن ایک ہی ہے۔ دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کی دوکانوں کی آمدنی کن کن جگہوں پر لگائی جاسکتی ہے، اور دیگر املاک کی آمدنی کہاں صرف ہو سکتی ہے؟ نیز سڑکیں اونچی ہو جانے کی وجہ سے برسات میں ہر قسم کی گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو کیا قبرستان میں مٹی کا پٹاؤ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** حسبِ تحریر سوال جو املاک انجمنِ اسلامیہ کے نام وقف ہیں، ان کی آمدنی انجمن کے مقررہ دستور کے موافق ان تمام سرگرمیوں میں صرف کی جاسکتی ہے، جہاں انجمن کے باختیار ذمہ داران مناسب سمجھیں اور قبرستان میں ضرورت کی وجہ سے مٹی کا پٹاؤ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ - ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكبة الميمية مصر)

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها، وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعماراته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل للمسجد ولو كان مختلفاً؛ لأن المعنى يجمعهما. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في نقل أقباض المسجد ونحوه ۵۵۱/۶ زكريا)

واليوم اعتادوا التسليم باللبن صيانة للقبر عن النباش ورأوا ذلك حسناً،

وقال صلى الله عليه وسلم: ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. (شامي،

كتاب الصلاة/ باب صلاة الحنازة، مطلب في دفن الميت ۱۴۴۳/ ۱۴ زكويه المستدرک للحاكم ۶۴/۳)

وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الاندراس والنبش

ولا بأس به. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ۳۳۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## درگا ہوں اور مزارات کے نام وقف زمینوں کی آمدنی کا مصرف؟

**سوال (۸۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: قدیم مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں نے بہت سی جگہوں پر درگا ہوں مزارات اور مندروں کے لئے زمینیں الاٹ کی ہیں، نیز مذکورہ مقامات کے جو خادم ہوا کرتے تھے، وہ زمینیں اُن کے استعمال میں رہتی تھیں، اُن کی گذر بسر اسی آراضی کی آمدنی سے ہوا کرتی تھی، کچھ اسی طرح کے ہمارے یہاں ایک بزرگ دیباں پور اندور میں گذرے ہیں، جن کی وفات کو تقریباً ساڑھے چار سو سال ہو چکے ہیں، اُن کے لئے تقریباً سولہ بیگھہ زمین الاٹ کی گئی تھی، پر ہمارے آباء واجداد زراعت کیا کرتے تھے، اور بحیثیت خادم ومجاور خدمت بھی کیا کرتے تھے، پھر ۱۹۲۶ء کے ہو لکرا سٹیٹ میں اُس وقت کی حکومت نے تحقیقات کر کے نوٹس دے کر درگا ہوں کے خادمین کو بلوایا اور اُن تمام مجاورین کو بطور سندا ایک ایک پر چہ دیا گیا۔ (ہو لکرا سٹیٹ کی دی ہوئی نوٹس اور سند جو انعام یعنی مذکورہ آراضی کو قائم رکھنے کی تھی اور گزٹ ان سب کی فوٹوکاپی ساتھ میں منسلک ہے)

(۱) جس میں لکھا کہ ۱۹۲۶ء کے انعام انکو آری رولز دفعہ ۲۰ کے مطابق آفیسر کے حکم

سے یہ انعام (آراضی وغیرہ) تمہارے نام قائم رکھا گیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ درگا ہوں کے توسط سے ملی ہوئی آراضی وغیرہ کے ان کے مجاورین وخادمین

مالک ہیں یا نہیں؟ جب کہ ہم اب بھی وہاں کی خدمت کر رہے ہیں، دوسری بات موجودہ وقت میں

وقف بورڈ سرکاری کاغذات میں اس انعام کو وقف اندراج کرا کے اُسے نیلام کرنا چاہتا ہے، یعنی قیمت لے کر کسی کو ایک سال اور پھر سال پورا ہونے پر قیمت لے کر اسی کو یا دوسرے کو مذکورہ مدت تک کے لئے دیتا رہے گا، اور ہمیں اس سے دست بردار کرنا چاہتا ہے، کیا یہ انعام بطور حق الخدمت ہماری ملکیت نہیں ہے؟ یا ہے، جب کہ کاغذات میں بطور انعام اس آراضی کی سند ہمیں دی جا چکی ہے، نیز وقف اور انعام میں کیا فرق ہے؟ شرعی اعتبار سے وضاحت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** شریعت میں مزارات کی دیکھ رکھ کے لئے یا ان کو آباد رکھنے کے لئے کسی طرح کے وقف کا کوئی ثبوت نہیں ملتا؛ لیکن ہندوستان کے بادشاہوں نوابوں اور راجاؤں نے اُسے ایک کار خیر سمجھ کر زمین الاٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس طرح کے اوقاف کی تحریری شرائط میں مزارات کے ارد گرد رہنے والے بے سہارا لوگوں کی ضروریات میں صرف کرنے کی بات لکھی گئی، اس لئے مذکورہ جائیدادوں کو اوقاف کے حکم میں قرار دے کر ان سے ہونے والی آمدنی غریب خدام اور دیگر فقراء و مساکین، قریبی قبرستانوں کی ضروریات اور مزید آمدنی بچنے پر مساجد و مدارس میں صرف کی جائے گی، اور ان زمینوں کا فروخت کرنا یا دوسروں کی طرف ہبہ وغیرہ کے ذریعہ منتقل کرنا وقف بورڈ یا خدام کے لئے جائز نہیں ہے۔ (مستفاد از: فتاویٰ محمودیہ ۱۵۰/۳۷-۳۸، ۱۵۳-۱۵۴، فتاویٰ دارالعلوم ۱۴/۱۶۹، ۱۸۵)

سئل نجم الدین فی مقبرة فیہا أشجار، هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفاً على وجه آخر، قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو إلى المسجد، قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف، وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعمامة التصرف فيها بدون إذن القاضي. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / قبيل الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها

فياذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدرالمختار، كتاب

الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۵۲/۴ دار الفكر بيروت، ۵۳۹/۶ زكريا)

فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (الهداية / كتاب الوقف ۶۴۰/۲ إدارة المعارف ديوبند،

الفتاوى التاتارخانية ۳/۸ رقم: ۱۱۰۵۹ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الأول من

كتاب الوقف ۳۵۰/۲ زكريا، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۴۲/۵ زكريا، فصح القدير / كتاب الوقف

۲۲۰/۶ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۷/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## قومی ادارے کی آمدنی کہاں خرچ کی جائے؟

**سوال (۸۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: عثمان یا پھر زید، بکر وغیرہ مل کر کوئی اسکول یا ادارہ (قومی) ٹرسٹ یا سوسائٹی کے ذریعہ

چلاتے ہیں، یہ ٹرسٹ یا سوسائٹی بعض مرتبہ صرف نام کی ہوتی ہے یعنی تمام سوسائٹی کے ممبر یا تمام

ٹرسٹی عملی اور مالی طور پر اس ادارے یا اسکول کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے، صرف ایک عثمان ہی

تمام اخراجات اور کاموں کو دیکھتا اور کرتا ہے۔ مندرجہ بالا ادارے یا اسکول سے ہونے والی زائد

آمدنی فیس اور ڈونیشن کے ذریعہ کسی فرد یا سوسائٹی یا ٹرسٹ کی ملکیت ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو

کیا اس زائد آمدنی کو اپنے ذاتی مصرف میں لانے کا حق سوسائٹی کے ممبر یا ٹرسٹی کو ہو سکتا ہے؟ اس

پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، یہ عام دوسری تجارت کی طرح ہے یا قومی ملکیت ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو ادارہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو؛ بلکہ قومی و ملی

ادارے کے بطور اُسے قائم کیا جائے، تو اُس کے ٹرسٹی اور ممبران شرعاً اس کے مالک نہیں ہوتے

ہیں؛ بلکہ ادارے کی تمام آمدنی کا مالک خود ادارہ ہوتا ہے جو بجائے خود ایک شخص کے حکم میں ہے، اس لئے مسئلہ صورت میں مذکورہ ادارے یا اسکول کی ہر طرح کی آمدنی کسی خاص فرد کی نہیں؛ بلکہ ادارے کی ملک ہوگی، اور اس آمدنی کو ادارے کا کوئی بھی ممبر اصول و ضوابط کے بغیر اپنے ذاتی مصرف میں خرچ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ادارے کوئی تجارتی کمپنی نہیں ہیں؛ بلکہ قوم و ملت کی ملکیت ہیں، اُن کی آمدنی صرف اُنہی جگہوں پر خرچ ہوگی جن سے ادارے کی ضرورت وابستہ ہو۔

ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرّر له الواقف أصلاً، ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء و عوائد شرعية و عرفية لمصارف الوقف الشرعية .  
(الدر المختار مع الشامسي، كتاب الوقف / مطلب إذا كان الناظر مفيداً لا يقبل قوله يمينه ۶/۶۷۲  
زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۵/۱۴۲۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ





# اوقاف کی زمینوں کا تبادلہ

آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے موقوفہ زمین کا تبادلہ کرنا؟

**سوال (۸۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج سے تقریباً ۵۰-۶۰ سال پہلے ایک صاحب خیر نے ہمارے گاؤں کے مدرسہ مظاہر العلوم کے لئے گاؤں سے قریب ایک کھیت تقریباً ڈھائی بیکھ بطور وقف دیا تھا، اس وقت بھی اس میں کوئی خاص آمدنی نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے آخری ۳۵ سال سے زمین کی نیلامی موقوف ہے؛ بلکہ اس کا محصول مدرسہ ادا کرتا ہے۔ یعنی نقصان ہی نقصان ہے، اس وقت اس کھیت کے اطراف میں لوگوں نے مکانات بنا کر رہنا بھی شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وقف کی حفاظت بھی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر اس زمین کو بیچ دیا جائے تو اُمید ہے کہ پچاس سے پچپن لاکھ روپے آسکتے ہیں، اور اس رقم سے دوسری ملکیت مدرسہ کے لئے بسا کر کافی آمدنی ہو سکتی ہے، واقف کائے سالوں سے انتقال ہو چکا ہے؛ لیکن اُن کے وارثین نے اگر شریعتِ مطہرہ اجازت دے اس کھیت کو بیچ کر دوسری ملکیت بسانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں بتائیں مدرسہ کمیٹی یا گاؤں کے لوگ مشورے سے اُس کو بیچ کر زیادہ آمدنی والی ملکیت خرید سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال چوں کہ مدرسہ کے لئے مذکورہ موقوفہ

زمین سے فی الحال کوئی نفع نہیں ہے؛ بلکہ اس پر سرکاری محصول ادا کرنے کی وجہ سے مزید نقصان ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے مدرسہ کمیٹی اور گاؤں کے ذمہ دار حضرات سے مشورہ کر کے اُس

جگہ کو فروخت کر دیا جائے اور اُس کے بدلے میں دوسری نفع بخش جگہ لے لی جائے؛ تاکہ مدرسہ کی وقف کی آمدنی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے تو شرعاً اُس کی گنجائش ہے۔

و كذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خرجت عند انتفاع الموقوف عليهم به جاز استبدالها بأذن الحاكم بأرض أو دور آخر تكون وقفاً مكانها.  
(إعلاء السنن / كتاب الوقف ۱۱۲/۱۳)

و حکمی آنہ وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط بعض الطرق خرب ولا ينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة فسئل، هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به، قال نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني. (شامي / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ۵۰۶/۵۰۱-۵۰۱  
زکریا، ۳۶، ۱/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۲۲/۱۴۳۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کیلئے متعین کردہ زمین کے بدلے دوسری زمین وقف کرنا؟

**سوال (۹۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی جائیداد زمین سے ایک قطعہ مسجد کی تعمیر کے لئے وقف کی چند سالوں کے بعد اس زمین سے قریب دوسری مسجد بن جانے کی وجہ سے زید چاہتا ہے کہ اتنے ہی رقبہ کی زمین کا ایک حصہ دوسری جانب وقف کر کے اُس پر مسجد کی تعمیر کرے اور پہلی زمین اپنے استعمال میں لے لے، کیا اس شرعی مصلحت کے پیش نظر زید اپنی موقوفہ (متعینہ) زمین سے رجوع کر کے اُسی جیسی دوسری زمین وقف کر سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایسی زمین جو مسجد کی تعمیر کے لئے وقف کی گئی اور اس

میں ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی کہ اُسی کے قریب دوسری مسجد بنادی گئی، تو اب مسجد کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے واقف کے لئے جائز ہے کہ اس موقوفہ زمین کا تبادلہ دوسری ایسی زمین سے کر دے جہاں مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہو اور اس سابقہ موقوفہ زمین کو اپنے استعمال میں لے لے۔

وفي القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيراً من المحلة الموقوفة، وعلى عكسه لا يجوز. (مجمع الأنهر/ كتاب الوقف ۷۳۶/۱)

و كذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه (الدر المختار) وفي شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامی، کتاب الوقف / فیما لو حرب المسجد أو غیره ۵۴۹/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۲/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وقف علی الخیر جائیداد کو فروخت کر کے دوسری خریدنا؟

**سوال (۹۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حاجی کمن صاحب مرحوم ساکن گلشہید مراد آباد نے اپنی حیات میں کل جائیداد کو ۱۹۳۲ء اور ۱۸۳۵ء میں وقف علی الاولاد علی الخیر کیا، ان دونوں وقف ناموں کی نقلیں حاضر خدمت ہیں، اس وقت وقف جائیداد قدیم اور جدید کرایہ اٹھنی ہوئی ہیں، جن کا ماہانہ کرایہ اس وقت ۲۸۴۶/۲۵ روپے ہوتے ہیں، اسی آمدنی کرایہ میں سے وقف جائیداد کے اخراجات جیسے واٹر ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، مقدمہ بازی و عطیہ مساجد بھی ہیں، اس وقت وارثان کی تعداد ۲۹ نفر پر مشتمل ہے، جن کو بالفاظ دیگر قدرے سہام حصہ کرایہ آمدنی ملتی ہے، چوں کہ پرانے وارثان کے انتقال پر ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور کرایہ آمدنی بھی اسی لحاظ سے کم ہوتی جاتی ہے، اس لئے وارثان وقف

جائیداد کو اٹھا کر زیادہ آمدنی کرایہ حاصل ہو سکے۔ کیا اس طرح وقف جائیداد کو فروخت کرنا اور دوسری جائیداد خرید کر اس کو وقف کرنا از روئے قرآن و حدیث شرعاً جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مذکورہ وقف سے چونکہ آمدنی کا سلسلہ بدستور جاری ہے؛ لہذا اُسے فروخت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

و شرط في البحر: خروجہ عن الانتفاع بالکلیة. (الدر المختار، کتاب الوقف /

مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج ۵۸۵/۶ زکریا، کذا في البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۴۵/۵

زکریا، کذا في النهر الفائق / کتاب الوقف ۳۲۰/۳ رشیدیہ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۹/۹ھ

**آمدنی بڑھانے کیلئے موقوفہ جائیداد کو فروخت کر کے دوسری خریدنا؟**

**سوال (۹۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: وقف جائیداد کی آمدنی بہت کم ہونے کی صورت میں اس کی آمدنی بڑھانے کی غرض سے وقف جائیداد کو بیچ کر اگر دیگر جائیداد خریدی جائے، تو وہ وقف معتبر ہوگا یا نہیں؟ اور ایسا کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیا وقف کی جائیداد فروخت کرنے کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** محض آمدنی بڑھانے کی غرض سے موقوفہ جائیداد اور

عمارات کو بیچنے یا تبدیلی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

والثالث: أن لا يشرطه ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريباً ونفعاً

وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار ..... بخلاف الدار إذا ضعفت

بخراب بعضها ولم تذهب أصلاً فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل

الأقوال . (شامسي، كتاب الوقف / مطلب في استبدال الوقف وشروطه ۶/ ۴۱۶ ۵۸ زكريا، كذا في مجمع

الأنهر / كتاب الوقف ۶/ ۵۷۶ دار إحياء التراث العربي بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۲/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ زمین کا کرایہ کم ہونے کی وجہ سے فروخت کر کے دوسری خریدنا؟

**سوال (۹۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ۱۹۳۲ء میں ہندو پاک کی تقسیم سے قبل مراد آباد میں تقریباً تین ہزار مربع گز آراضی اسٹیشن روڈ پر محمد اخلاق کو تھیٹر لگانے کے لئے ۲۰ رسال کی مدت کے واسطے ۴۰ روپے ماہوار کرایہ پر پٹہ پردی گئی تھی، ۱۹۳۲ء میں حاجی کریم اللہ اور مسماۃ..... نے ایک وقف کیا، جس میں اور دیگر جائیداد کے علاوہ یہ تھیٹر (سینما) کی آراضی بھی شامل کی گئی، ۱۹۴۷ء میں محمد اخلاق پاکستان چلے گئے، اور پاکستان سے آئے ایک شرنا تھی، جرنیت لال پی پڑانے یہ آراضی اپنے نام الاٹ کرائی، اور ۴۰ روپے ماہوار کرایہ ہمارے دادا کو دیتا رہا، ۱۹۵۲ء میں یہ ۲۰ رسال کی میعاد ختم ہونے پر جرنیب لال پی پڑا میرے دادا انظام الدین متولی (وقف علی الاولاد حاجی کریم اللہ محلہ مان پور مراد آباد) سے تین سو روپے ماہوار کا دوسرا پٹہ ۲۵ رسال کی مدت کے لئے کیا، ۱۹۷۸ء میں ۲۵ رسال کی مدت ختم ہونے پر میں صلاح الدین اور حاجی عبداللہ اس شخص جرنیت لال پی پڑا سے ۲۰ رسال کی میعاد میں توسیع کر لی، اور دو ہزار دوسو روپے ماہوار کرایہ طے کیا، جس کی میعاد ۳۱ جنوری ۱۹۹۸ء کو ختم ہو گئی ہے، اب میعاد ختم ہونے کے بعد ہم لوگ اپنی آراضی خالی کرنا چاہتے ہیں، چوں کہ پٹہ میں یہ شرط ہے کہ میعاد ختم ہونے پر وہ اپنا عملہ اٹھا کر لے جاوے گا، اور ہماری آراضی ہموار کر کے ہم کو دیدے گا) جس کے لئے وہ بالکل تیار نہیں ہے، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ۵-۷ ہزار روپے ماہانہ کرایہ دینے کو تیار ہے، بازاری قیمت کے لحاظ سے موجود دور میں اس جگہ کی قیمت ۱۰-۱۲ کروڑ روپے بنتی ہے، اگر یہ جگہ آج خالی ہو جائے تو ہمارے وقف کی آمدنی ایک لاکھ روپے ماہانہ تک ہو سکتی ہے،

مراد آباد کی ایک بہت بڑی پارٹی ہم سے یہ آراضی ۵۰-۶۰ ہزار روپے ماہانہ کرایہ پر لینے کو تیار ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ پوری آراضی اس کو تعمیر کرنے کی اجازت کے ساتھ دی جائے، یعنی ہمیشہ کے لئے جرنجیت لال پی پڑا سے خالی کرانے کی ذمہ داری اُسی کی ہوگی، وکیلوں سے اور وقف بورڈ لکھنؤ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ تین سال سے زیادہ کے لئے کرایہ پردی ہی نہیں جاسکتی، اور اگر جرنجیت لال پی پڑا سے خالی کرانے کے لئے مقدمہ بازی کی جائے، تو اُس میں وقت اور کتنے روپے خرچ ہوں گے، کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، ۱۰-۲۰ سال بھی لگ سکتے ہیں، اس وقت پی پڑا اُس پر بنائے گئے سینما اور چائے کے اسٹال اور سائیکل کے ٹھیکہ سے کل ملا کر ایک لاکھ روپے ماہانہ کی آمدنی کر رہا ہے۔

اسی طرح پر ایک دوسری آراضی تقریباً ۴-۵ سو مربع گز ۱۹۳۵ء میں لالیہ بلبل پر شاد کو واقف حاجی کریم اللہ نے ۷۵ روپے ماہوار کرایہ پر ۸۹ سال کے واسطے فیکٹری لگانے کے لئے دی تھی، جس میں پٹہ کی شرائط کے مطابق کاروبار کرنے کے لئے دوکان گودام رہائش کے لئے مکان بنانے کی اجازت دی گئی تھی، دوکانیں بنا کر وہ ۵۰-۶۰ ہزار روپے ماہانہ کی آمدنی کر رہا ہے، اور ہم لوگوں کو آج بھی صرف ۷۵ روپے دیتا ہے، پٹہ کی میعاد ختم ہونے میں ابھی ۲۵ سال کا ٹائم باقی ہے، پٹہ کی کمزور شرائط کے سبب ہم لوگ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے سے بھی قاصر ہیں۔

مندرجہ بالا دونوں جائیدادوں سے غیر مسلم لوگ بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور واقف کے خاندان کے مستفیض الیہ (BENEFICIARIES) در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، جس مقصد کے تحت وقف کیا گیا تھا کہ واقف کے خاندان کے لوگ نسل در نسل اور بطناً بعد بطن فیض اٹھاتے رہیں گے، بالکل فوت ہو گیا ہے؛ بلکہ اس کے برخلاف غیر مسلم لوگ جن کے قبضہ اور تصرف میں یہ آراضی ہے، خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اُن کی نسلوں کا سدھار ہو جائے گا، ہم لوگ اگر مقدمہ بازی شروع کرتے ہیں، تو کئی نسلیں گذر جائیں گی، روپے علیحدہ پانی کی طرح بہانا پڑے گا، پھر بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں کی جاسکتی، یہ جائیدادیں اُن لوگوں کے قبضہ

میں مستقل طور پر چلی جائیں گی، موجودہ قانون بھی ہمارے موافق نہیں ہے۔

مندرجہ بالا واقعات اور موجودہ مسلمانوں کی پستی اور ناموافق حالات کے پیش نظر وقف جائیداد بچانے اور محفوظ کرنے کی غرض سے اس جائیداد کو فروخت کر کے دوسری جائیداد خرید لی جائے، تو وہ وقف متصور ہوگی یا نہیں؟ ایسا کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیا وقف جائیداد اس طرح پر منتقل کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ سوال میں جب کہ اتنی بڑی جائیداد کی آمدنی کل

۲۲ سو روپے اور دوسری جائیداد کی آمدنی صرف ۷۵ روپے ہے، یہ آمدنی جائیداد کی مرمت وغیرہ کے لئے بھی کافی نہیں ہو سکتی، اور قانوناً قابضین سے لینا بھی ممکن نہیں؛ لہذا ایسی ضرورت کے پیش نظر اس جائیداد کو فروخت کر کے دوسری جائیداد وقف کے نام سے لینا جائز ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ اُن پرانی جائیدادوں کو فروخت کرنے کے ساتھ ہی جو اُس کی رقم موصول ہو اُس سے فوراً دوسری زمین کا وقف کے نام سے بیع نامہ کرائیں، ورنہ اُس کی رقم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور دوسری خرید کردہ زمین بھی وقف ہی شمار ہوگی اور اُس کے مصارف بھی وہی ہوں گے جو وقف اول کی آمدنی کے ہیں۔

والثانی أن لا يشترطه سواء عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفى بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه . (شامی، کتاب الوقف / مطلب: فی استبدال الوقف وشرطه ۵۸۳/۶ زکریا، فتح القدير / کتاب الوقف ۲۲۸/۶ دار الفکر بیروت، کذا فی الفتاویٰ الہندیة / الباب الرابع من کتاب الوقف ۴۰۱/۲ زکریا)

فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صار بحرًا لا يصلح للزراعة بضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضًا فتكون الثانية وقفًا على

وجه الأولیٰ. (فتاویٰ قاضی خان علی الہندیہ / فصل فی مسائل الشرط فی الوقف ۳۰۶/۳ زکریا)  
 ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتد أنه بلا شرط يجوز  
 للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف  
 يعمر به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۲۳/۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۱۲/۱۴۱۹ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ضیاع کے اندیشہ سے موقوفہ آراضی کو فروخت کر کے

### دوسری زمین خریدنا؟

**سوال (۹۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: مسجد کی وقف شدہ آراضی ہے، جو غیر مسلمین کے درمیان میں ہے، جس کے کچھ حصہ پر انہوں  
 نے قبضہ بھی کر لیا ہے، نیز مسجد کی زمین کو نقصان بھی پہنچاتے رہتے ہیں، اور اُس کی فصل سے مسجد کو  
 کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے؛ اس لئے ذمہ داران مسجد چاہتے ہیں کہ اس زمین کو فروخت کر کے  
 اُس کی رقم سے دوسری زمین جو محفوظ ہو اور اس سے مسجد کو آمدنی بھی زیادہ ہو، خرید لی جائے۔ واضح  
 رہے کہ واقف کے ورثہ میں اُن کے حقیقی بھتیجے ہیں، اُن کی بھی رائے ہے کہ وقف شدہ زمین کو  
 فروخت کر کے اُس کی رقم سے دوسری زمین خرید لی جائے؛ اس لئے کہ آئندہ بھی نقصان پہنچنے کا  
 خطرہ ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ وقف شدہ آراضی کو فروخت کر کے اس کی رقم سے دوسری زمین  
 خریدی جاسکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر یہ اندیشہ واقعی ہو کہ آئندہ موقوفہ زمین پر غیر مسلمین  
 قبضہ کر لیں گے، اور پچانا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں مذکورہ خطرات کے پیش نظر اس زمین  
 کو فروخت کرنا جائز ہے، اور فروخت کرنے کے بعد فوراً دوسری زمین اس آمدنی سے خرید کر وقف



رجسٹرڈ کرائی جائے؛ تاکہ آمدنی ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۱۸۳/۹)

والثانی أن لا يشترطه سواء شرط عدمه أو سكت؛ لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفى بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في استبدال الوقف وشروطه ۵۸۳/۶ زكريا، فتح القدير ۲۲۸/۶)

و شرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل ..... وأنت خير بأن المستبدل إذا كان هو قاضي الجنة، فالنفس به مطمئنة ولا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير، والله الموفق. (النهر الفائق / كتاب الوقف ۳۲۰/۱۳ رشيدية)

وقد اختلف كلام قاضي خان ففي موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه، وفي موضع منعه منه، ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها، والسمعتمد أنه يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف ۴۰۱/۲ دار إحياء التراث العربي بيروت)

فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صار بحراً لا يصلح للزراعة يضمن قيمتها، ويشترى بقيمتها أرضاً أخرى فتكون الثانية وقفاً على وجه الأولي. (فتاوى قاضي خان على الهندية / فصل في الشرط وفي الوقف ۳۱۴/۳ مكتبة اتحاد ديوبند، شامي، كتاب الوقف / مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع ۵۸۸/۶) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۰/۵/۱۴۱۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری تحویل میں گرفتہ موقوفہ زمین کو بیچ کر دوسری لینا؟

**سوال (۹۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب نے اب سے تقریباً ۲۰ سال قبل جامعہ اسلامیہ عربیہ رحمانیہ ٹانڈہ کے نام زمین وقف کی، جس کے وہ مکمل طور پر مالک تھے، واقف بے اولاد اور نابینا تھے، اُن کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، وقف کنندہ نے بجائے وقف نامہ کے مدرسہ کے نام بیچ نامہ کرایا؛ تاکہ آئندہ کوئی اُن کا جھوٹا وارث بن کر مدرسہ کو پریشان نہ کرے؛ لیکن ہوا یہی کہ ایک شخص نے اُن کا جھوٹا وارث بن کر مدرسہ کے خلاف مقدمہ کر دیا، اُس شخص نے اپنے انتقال سے قبل کسی دیگر شخص کے نام فرضی بیچ نامہ کرایا، اب وہ شخص مدرسہ کے خلاف مقدمہ لڑ رہا ہے، مدرسہ اس زمین کا مقدمہ کئی بار جیت چکا ہے؛ لیکن مدرسہ کا قبضہ نہیں ہوا ہے، اور آئندہ بھی قبضہ کے امکان نہیں ہیں، فی الحال وہ زمین سرکاری تحویل میں ہے جس کی وجہ سے اُس میں کاشت بھی نہیں ہو رہی ہے اور مقدمہ پر مدرسہ کا کافی پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ اس لئے دریافت یہ کرنا ہے کہ اس زمین کو فروخت کر کے اس کی رقم سے مدرسہ کے لئے دوسری زمین برائے کاشت خرید لی جائے؛ تاکہ اس کی آمدنی یا غلہ مدرسہ کے کام آسکے اور واقف کو بھی اس کی نیت کے مطابق ثواب پہنچتا رہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ کے نام کی گئی، مذکورہ زمین سے سردست مدرسہ کے نفع اٹھانے کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لئے ضرورت اور مجبوری کے تحت اس جگہ کے بدلہ اگر کوئی اور زمین خرید کر یا تبادلہ میں حاصل کر لی جائے، تو اس کی گنجائش ہوگی؛ تاکہ نفع رسانی کے راستے کھل سکیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۵۱۰، ۱۵/۵۱۱ ج ۱)

اعلم أن الاستبدال علی ثلاثة وجوه: الثاني أن لا يشترطه، سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلاً ولا يفى بمؤنته فهو أيضاً جائز علی الأصح إذا كان ياذن القاضي ورأيه المصلحة

فیہ۔ (شامی / مطلب فی استبدال الوقف و شروطہ ۵۸۴/۶ زکریا)

وقف موضعها فی حیاته و صحته، وأخرجه من یدہ فاستولی علیہ غاصب و حال بینہ و بینہ تؤخذ من الغاصب قیمتہ، ویشتری بها موضع آخر فیوقف علی شرائطہ؛ لأن الغاصب لما جحد صار مستهلکاً، والشیء المسبل إذا صار مستهلکاً وجب الاستبدال بہ۔ (الفتاویٰ الہندیۃ / الباب التاسع فی غصب الوقف ۴۴۹/۲ ۴۵۰۔ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: اقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۲۸/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## آبادی سے دور مدرسہ کی مملوکہ زمین کو بیچ کر آبادی میں جگہ لینا؟

**سوال (۹۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عربیہ مدرسہ قائم کرنے چلانے اور اس میں دنیوی و دینی حفظ و تجوید کے لئے زمین خریدی گئی کہ اس میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ چلایا جائے گا؛ لیکن وہ زمین شہر سے ۹-۱۰ کیلومیٹر دور واقع ہے، وہ زمین ابھی افتادہ پڑی ہے، اس میں نہ بنیاد رکھی گئی، نہ تعمیرات ہوئیں، اگرچہ وہاں دیگر مکاتب اور مساجد پہلے سے موجود ہیں؛ لیکن یہ زمین ابھی وقف نہیں کی گئی ہے، اب اصحاب ارکان کی رائے ہے کہ اس زمین کو فروخت کر کے دوسری جگہ جو شہر کے قریب یا شہر کی آبادی سے متصل ہو خریدی جائے، کیا ارکان و ممبران کمیٹی (جو ابھی مدرسہ کی زمین کو رجسٹرڈ نہ کرا سکی) کو شرعاً اختیار ہے کہ وہ مذکورہ کام انجام دیدے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ زمین چوں کہ مدرسہ کی مملوکہ ہے، موقوفہ نہیں ہے، اس لئے ذمہ داران مدرسہ اور کمیٹی کے مشورہ سے اسے فروخت کر کے آبادی کے قریب مناسب جگہ خریدنے کی اجازت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۶ ذی الحیجہ)

فیذا عادت ملگًا يجوز أن یبني موضع المسجد دارًا أو موضع المقبرة

مسجدًا، وغیره ذلك. (مسئفاد: عمدة القاري ۱۷۹/۴)

و شرط المعقود عليه ستة: كونه موجودًا مالمًا متقومًا مملوگًا في نفسه، و كون الملك للبايع فيما يبيعه لنفسه. (شامي / مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة ۱۵۱۷ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کی ڈیڑھ گٹھ موقوفہ زمین کے بدلہ ۱۲ گٹھ زمین کا تبادلہ کرنا؟**

**سوال (۹۷):**— کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید نے ڈیڑھ گٹھ زمین مسجد کے نام وقف کی، اور یہ شرط لگائی کہ اس سے جو پیداوار ہوگی وہ مسجد کے اخراجات پر صرف ہوگی، اور میرے مرنے کے بعد کوئی اُس زمین کا وارث نہ ہوگا سوائے مسجد کے، اور اس زمین سے مسجد کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا، اب اُس مسجد کا جو متولی بنا، تو اُس نے اس ڈیڑھ گٹھ زمین کا بدلہ بارہ گٹھ سے کر لیا، اور اب اس زمین سے تقریباً دس سال سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے، اور مسجد کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر اس ڈیڑھ گٹھ زمین سے مسجد کو تھوڑا بہت بھی نفع

ہو رہا ہو، تو اُسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں جب نفع کی بالکل امید ہی نہ رہے، تو ایسا مسجد کے مشورہ سے فروخت کی گنجائش ہے۔

وإن كان لا لذلك؛ بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بضمنه ما هو خير منه مع

كونه مستنفعًا به، فینبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه

دون زيادة؛ ولأنه لا موجب لتجيزه. (شامي، كتاب الوقف / مطلب لا يستبدل العامر إلا في

قال: إذا ضعفت الأرض السموقفة عن الاستغلال والقيم يجد بمشمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً كان له أن يبيع هذه الأرض ويشترى بمشمنها ما هو أكثر ريعاً. (الفتاوى التاتارخانية ۶۳/۸ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۱/۱۰/۱۴۱۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کی غیر مستعملہ زمین کو فروخت کر کے دوسری زمین لینا؟

**سوال (۹۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ کی ایک زمین غیر مستعملہ میں نالہ ہے، اور دن بدن نالہ کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے زمین کو نقصان ہو رہا ہے، اور اُس کو روکنے میں مدرسہ کو بہت بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر اُس زمین کو بیچ دیا جائے اور اس رقم سے قریب کی کارآمد زمین خرید لی جائے، تو مدرسہ صرف نقصان سے نہیں بچتا؛ بلکہ اُس میں اور فائدہ ہے، ایسی صورت میں شریعت کی روشنی میں کیا عمل کیا جائے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر زمین مدرسہ کی طرف سے خریدی گئی تھی، تو اُس کو بیچ کر دوسری زمین خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ لیکن اگر زمین وقف شدہ ہے، تو غرض واقف کے مطابق جب تک اُس کا استعمال کرنا ممکن ہو، بیچنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ اصل موقوفہ زمین کو باقی رکھنا ضروری ہے۔

الثالث: أن لا يشرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار، كذا حوره العلامة قنالي زاده. (شامی ۳۸۴/۶، کراچی، ۵۸۴/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۰/۱۴۱۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تالاب کی زد میں آنے کی وجہ سے ایک مسجد کی جگہ فروخت کر کے دوسری زمین خریدنا

**سوال (۹۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لال مسجد محلہ پڑاؤ قصبہ ٹانڈہ ضلع رامپور کی دو قطعہ آراضی ہے، جو نواب صاحب رامپور کی طرف سے مسجد کے مصارف کے لئے دی گئی تھی، چک بندی میں کسی غلطی کی وجہ سے دونوں زمینوں کے ٹکڑے ایک شخص زید کے نام درج ہو گئے ہیں، اُن کے فوت ہونے کے بعد وہ زمین اُن کی اولاد کے نام آگئی ہے؛ البتہ زید کی اولاد کا مسجد کے مقتدیوں سے یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ زمین ہمارے نام آگئی ہے؛ لیکن حقیقتاً یہ زمین مسجد ہی کی ہے، اور مسجد ہی اُس کی مالک ہے، اور اب تک اُس کی پیداوار سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ بھی مسجد ہی کو آتی ہے۔

(۱) دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان دونوں زمینوں کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا پانی کے تالاب سے متصل ہے، پانی کی وجہ سے یہ ٹکڑا برابر کٹ رہا ہے، اور کافی زمین پانی میں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس ٹکڑے سے کوئی آمدنی پیداوار وغیرہ کی نہیں ہو رہی ہے، اب کمیٹی اور مقتدیان مسجد اس ٹکڑے کو فروخت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جو رقم حاصل ہو اس کے ذریعہ سے جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ آبادی سے متصل ہے، اس پر کچھ رہائشی کمرے تعمیر کر دیئے جائیں، تو کیا اہل محلہ اور کمیٹی کو از روئے شرع ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ دونوں ہی ٹکڑے مسجد کے نام نہیں ہیں، تو کیا کمیٹی اور اہل محلہ اس بات کے شرعاً مجاز ہیں کہ دونوں ہی زمین کے قطعہ فروخت کر کے اس کی رقم سے مسجد کے نام سے کسی اور جگہ پر زمین خرید لی جائے، جس کی پیداوار وغیرہ سے مسجد کو آمدنی ہوتی رہے، جو حکم بھی از روئے شرع ہو مطلع فرما کر ممنون فرمائیں؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ دونوں زمینیں لال مسجد کی ملکیت ہیں، اگرچہ ان

پر کسی اور شخص کا نام درج ہو گیا ہو، اب جو زمین تالاب کے کنارے آ کر ضائع ہو رہی ہے، اس کے تبادلہ میں دوسری جگہ برائے آمدنی مسجد خریدی جاسکتی ہے؛ لیکن وہ جگہ بیچ کر دوسری زمین کی تعمیرات میں لگانا درست نہ ہوگا۔

لکن صار بحیث لا ینتفع به بالکلیة، بأن لا یحصل منه شیء أصلاً، أو لا یفی بمؤنته، فهو أيضاً جائز علی الأصح. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی استبدال الوقف و شروطه ۵۸۴/۶ زکریا)

و کذا الرباط والبئر إذا لم ینتفع بهما فیصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوضٍ إليه (الدر المختار) وفي شرح الملتقی: یصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامی، کتاب الوقف / فیما لو حارب المسجد أو غیره ۵۴۹/۶ زکریا)

البتہ جس زمین سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کو بیچ کر دوسری جگہ لینا درست نہ ہوگا۔  
والثالث أن لا یشرطه أيضاً، ولكن فیہ نفع فی الجملة، وبدله خیر منه ریباً ونفعاً، وهذا لا یجوز استبداله علی الأصح المختار. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی استبدال الوقف و شروطه ۵۸۴/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۴/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے ناقابل استعمال مکان کو فروخت کر کے دوسری جگہ خریدنا؟

**سوال (۱۰۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کا ایک بہت قدیم مکان ہے، جس کی کڑی وغیرہ بھی بوسیدہ ہو چکی ہے اور کچھ ٹوٹ بھی گئی ہیں، ۲۵-۳۰ گز میں ہے، وہ بھی اندر گلی میں، نہ دکان وغیرہ کے مطلب کا ہے اور نہ اس کو کوئی کرائے پر رہنے کے لئے لے سکتا ہے، بہر حال اس وقت مسجد کے کسی فائدے کا نہیں ہے، ذمہ داران

مسجد یہ چاہتے ہیں کہ اس مکان کو بیچ کر اور کچھ رقم اور ڈال کر کوئی دوسری جگہ خرید کر وہاں کوئی مکان یا دکان وغیرہ بنا کر اسے پر دے دیا جائے؛ تاکہ مسجد کی آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جائے، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ذمہ داران مسجد کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں اگر واقعہ مسجد پر وقف شدہ قدیم مکان ایسا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس سے مسجد کے لئے کسی آمدنی کی امید نہیں ہے، تو ذمہ داران مسجد کے لئے اس مکان کو فروخت کر کے حاصل شدہ رقم سے دوسری جگہ خرید کر اُس سے مسجد کے لئے آمدنی حاصل کرنے کی گنجائش ہوگی۔

و شرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج ۵۸۵/۶ زكريا، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۴۵/۵ زكريا)

قول الشارح: و شرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية، قال العلامة الرافعي تحته: بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفى بمؤنته. (التقريات الرافعي على الرد المختار ۸۵/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۸/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام متعینہ جگہ خرید کر دوسری جگہ پر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۰۱):**— کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ”تنظیم علماء اہل سنت والجماعت“ کے زیر اہتمام مختلف دینی امور انجام پاتے ہیں، اور دار القضاء بھی، تنظیم کی اپنی کوئی مستقل جگہ نہیں ہے، دفتر اور دار القضاء کراہی کی جگہ پر ہے، اراکین تنظیم نے باہمی مشورہ سے ایک ایسے علاقے میں، جہاں مسجد کی سخت ضرورت تھی، مسجد کے لئے چند چھوٹی پٹوں پر مشتمل بارہ سومربع فٹ زمین کا سودا ایک کروڑ دس لاکھ روپے میں کیا، قیمت کی



ادا نیگی کی مدت ایک سال طے پائی؛ لیکن کچھ دنوں بعد صاحب معاملہ (بائع نے چھ ماہ کی مدت میں مبلغ ۸۰ لاکھ روپے کی ادا نیگی کا مطالبہ شروع کر دیا، تنظیم چھ ماہ کی مدت میں ۸۰ لاکھ روپے جمع نہیں کر سکی، تو مالک مکان نے تنظیم سے مسجد کا سودا ختم کرتے ہوئے تحریری معاہدہ نامہ واپس لے لیا، اور ایک مجلس میں یہ بھی کہا کہ ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ تنظیم زمین کی خریداری مسجد کے لئے نہیں؛ بلکہ اپنے آفس کے لئے کر رہی ہے، اسی دوران کچھ دوسرے لوگ نمودار ہوئے، جس میں صاحب معاملہ کے سالے بھی شامل ہیں، اُن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جو رقم آپ لوگوں نے مسجد کے نام پر جمع کی ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو؛ کیوں کہ ہم لوگ وہی جگہ اُسی قیمت پر اُنہیں صاحب سے مسجد کے لئے خرید رہے ہیں، اور اُن لوگوں نے الگ سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جس میں تنظیم کا کوئی رکن شامل نہیں ہے؛ لہذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ:

(۱) اب جب کہ تنظیم پر اعتماد کرتے ہوئے مسجد کے نام پر جو چندہ اب تک جمع ہو رہا ہے، اس کا وکیل کون ہوگا؟ تنظیم علماء اہل سنت والجماعت یا نئی کمیٹی؟

(۲) کیا موجودہ صورت حال میں تنظیم کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ سابقہ سودا خود بیچنے والے کی طرف سے رد کر دینے کے بعد اس جمع شدہ رقم سے مسجد کے لئے دوسری جگہ خرید سکے۔

(۳) یا تنظیم پر لازم ہوگا کہ جو بھی شخص مذکورہ جگہ کا سودا مسجد کے لئے کرے، تنظیم جمع شدہ رقم ان کے حوالہ کر دے؟

(۴) ہزاروں چندہ دہندگان سے اُن کی آراء اور نیتوں کا حال دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہے؛ کیوں کہ بہت سے لوگوں نے چندہ کی جھولی میں بے نام عطیہ کیا ہے؟

(۵) خدشہ اس بات کا ہے کہ لوگ تنظیم سے سوال کریں کہ ہم نے تمہارے اعتماد پر مسجد کے نام پر چندہ دیا تھا، تو تم نے اس رقم کو دوسرے کے حوالہ کیوں کیا؟

بِسْمِ سُبْحَانَ تَعَالَى

الجواب وباللہ التوفیق: چوں کہ ”تنظیم علماء اہل سنت والجماعت“ نے اپنے

اعتماد پر لوگوں سے سخت ضرورت کے علاقہ میں مسجد کی تعمیر کے لئے زرتعاون جمع کیا ہے؛ لہذا یہی تنظیم اس پوری رقم کی وکیل ہے، پس اگر پہلی جگہ پر کسی وجہ سے مسجد تعمیر نہ ہو سکے، تو اس تنظیم کو دوسری جگہ خرید کر مسجد تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے؛ تاہم اس اقدام کے بعد اخبار وغیرہ میں اعلان کر دیا جائے کہ اب تنظیم فلاں جگہ پر مسجد تعمیر کر رہی ہے؛ تاکہ تنظیم کا اعتماد بحال رہے اور اس تنظیم کو اپنی حاصل کردہ رقم نئی کمیٹی کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۸۲/۲۱ میرٹھ، باقیات فتاویٰ رشیدیہ ۳۵)

ومنہ أن كل عقد لا يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى المؤكل، وبكتفي بالإضافة إلى نفسه كالبيعات والأشربة والإيجارات والصلح الذي هو في معنى البيع، فحقوقه راجعة إلى الوكيل، ويكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك والمالك كالأجنبي. (الفتاوى الهندية / كتاب الوكالة ۵۶۷/۳ زكريا)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱۱، رقم المادة: ۹۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۱۱/۱۴۳۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**غیر مامون علاقہ سے مسجد کی زمین فروخت کر کے دوسری جگہ لینا؟**

**سوال (۱۰۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک قطعہ اراضی مدرسہ، مسجد اور اسکول کے لئے شہر سے ۱۸ کلومیٹر دور خریدی گئی، اب درمیان میں غیر مسلم بستیاں پڑتی ہیں، راستہ امن کا نہیں ہے، طلبہ اور اساتذہ شہر سے بھی جائیں گے، ابھی کچھ تعمیر نہیں ہوئی۔ کیا اسے فروخت کر کے دوسری جگہ اس کام کے لئے خریدی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال میں ذکر کردہ صورت میں مذکورہ زمین کو بیچ کر

اُن پیسوں سے دوسرے مامون علاقہ میں مذکورہ مقاصد کے لئے زمین خریدنا جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۶۲/۷، امداد الفتاویٰ ۵۹۳/۲)

و كذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خرجت عند انتفاع الموقوف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دورٍ أخرى تكون وقفًا مكانها. (إعلاء السنن ۱۱۲/۱۳، کراچی، ۲۴۷/۱۳ بیروت)

ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجدٍ أو حوضٍ خرب، ولا يحتاج إليه لفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجدٍ أو حوضٍ آخر؟ فقال: نعم! ومثله في البحر عن القنية الخ. (شامي، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۵۵۰/۶، ۵۵۰/۶ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۶/۲۲/۱۳۳۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**ٹرسٹ کا مسجد کے نام زمین لے کر اُس کو دوسری زمین سے بدلنا؟**

**سوال (۱۰۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک ٹرسٹ نے مسجد و مدرسہ کے لئے عوامی چندے سے ایک دوکان خریدی ہے، اور اس جگہ کا ماحول ناموافق ہے، اس وجہ سے ٹرسٹ کی یہ نیت ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی مناسب جگہ ہم کو مل گئی تو اس دوکان کو فروخت کر کے اس جگہ کو خرید لیا جائے گا، اس لئے اس کو مسجد کا نام نہ دیتے ہوئے مدرسہ کیا جائے؛ تاکہ ضرورت پڑنے پر اس مکان کو فروخت کیا جاسکے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ عوام نے تو مسجد کے لئے چندہ دیا ہے؛ لیکن ٹرسٹ نے مسجد کی نہیں؛ بلکہ مدرسہ کی نیت کر لی ہے، تو کیا ٹرسٹ کی نیت کی بنیاد پر اس مذکورہ بالا مکان کے لئے مسجد کا حکم نہیں رہے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ٹرسٹ نے جو جگہ خریدی ہے اُسے اس وقت تک مسجد کا

حکم نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ وہاں مسجد کی نیت سے تعمیر یا نماز شروع نہ کر دی جائے، اب اگر وہ جگہ ناموافق ماحول میں پڑتی ہے، تو ٹرسٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اُسے فروخت کر کے اس کے بدلہ میں مناسب جگہ مسجد کے لئے حاصل کر لے، اور وہاں مسجد تعمیر کرے اور جس غرض سے چندہ وصول کیا گیا ہے، وہ صرف اسی غرض میں استعمال کرے۔

ویزول ملکہ عن المسجد والمصلی بالفعل ای بالصلاة فیہ، وبقولہ:

جعلته مسجدًا عند الثاني . (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب إذا وقف کل نصف

علی حدة صارا وقفین ۴۱۶-۵۴-۵۴۵ زکریا)

وإذا بنی مسجدًا لا یصیر مسجدًا حتی یقر بلسانہ أنه مسجد لا بیاع ولا

یوہب ولا یرهن ولا یورث، وفتح الباب وأذن فیہ وأقیم وأذن للناس بالدخول فیہ

عامہ، فیصیر مسجدًا إذا صلی بجماعة فیہ، وقال أبو یوسف: یصیر مسجدًا بقولہ:

جعلته مسجدًا، وفي الخانیة: وفي رواية أخرى عن أبي حنیفة: إذا صلی واحد فیہ

بإذنه یصیر مسجدًا، إلا أن بعضهم قال: إذا صلی فیہ واحد بأذن وإقامة، وفي

ظاهر الروایة لم تذکر هذه الزیادة، والصحیح رواية الحسن وهو أنه یشترط

أداء الصلاة بالجماعة من اثنين فصاعدًا بإذنه كما قال محمد . (الفتاوی التاتاریخانیة،

کتاب الوقف / الفصل الحادی والعشرون فی المساجد ۱۵۶/۸ رقم: ۱۱۴۹۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد یا وقف کی آراضی کو منتقل کرنا؟

**سوال (۱۰۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد اور وقف کی آراضی نہ تو منتقل کی جاسکتی ہے اور نہ فروخت کی جاسکتی ہے، کیا یہ درست

ہے یا نہیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد اور وقف کی آراضی بلا شدیہ ضرورت کے منتقل اور فروخت نہیں کی جاسکتی۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار)  
 قوله: لا يملك أي لا يكون مملوكًا لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۹۶/۵ زكريا، ۳۵۲/۴ كراچی، كذا في الفتاوى الهندية / الباب الأول من كتاب الوقف ۳۰۱/۲، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۱۶ دار الفكر بيروت، الهداية / كتاب الوقف ۶۵۱/۲ مكبة بلال ديوبند)

أما بدون الشرط أشار في السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك. (فتاوى قضیہ خان علی ہامش الہندیہ ۳۰۶/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۱۰/۱۴۱۳ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عارضی بنائی گئی مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا

**سوال (۱۰۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ میں لوگ پنج گانہ نماز پڑھنے کے لئے کچی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں (یعنی ٹین اور تختہ وغیرہ سے) پھر بوقت ضرورت مسجد دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، اور مسجد کی پرانی جگہ کو حسب ضرورت دوسرے کام میں لگایا جاتا ہے، ایسا ہی ہمارے گھر میں بھی ایک پرانی مسجد ہے؛ لیکن دن بدن گھر میں مکانات بڑھنے کی وجہ سے مسجد بالکل گھر کے اندر ہو گئی، اور گھر کا مطبخ بھی مسجد کے محراب سے ملا ہوا ہے، عورتوں کی باتیں مسجد میں سنائی دیتی ہیں، مزید برآں عورتوں کے پردے میں خلل واقع ہوتا ہے، مذکورہ وجوہات کی وجہ سے اب گھر والے مسجد سڑک پر منتقل کرنا

چاہتے ہیں، تو کیا مسجد کے احترام کے لئے مذکورہ جگہ سے سڑک پر منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور مسجد کی پرانی جگہ کو دوسرے کام میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ مساجد جو محض عارضی طور پر جماعت خانہ کی نیت سے بنائی جاتی ہیں، اُن کو بعد میں ضرورت کی بنا پر دوسری جگہ منتقل کرنا درست ہو سکتا ہے؛ لیکن اگر مستقل طور پر کسی جگہ مسجد بنائی جائے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جاتی ہے، اُس کو منتقل کرنا قطعاً جائز نہ ہوگا۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى (الدر المختار) قوله: عند الإمام والثاني: فلا يعود ميراً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولاً وهو الفتوى، وأكثر المشائخ عليه. (شامی / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۴/۳۵۸۱ کراچی، ۴۸۱/۶ زکریا، کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف / أحكام المساجد ۲۱/۵ زکریا، بدائع الصنائع، کتاب الوقف / وأما حکم الوقف الحائر ۲۲۱/۶ کراچی)

لو كان مسجد في محلة ضاق على أهله، ولا يسعهم أن يزيدوا فيه، فسألهم بعض الحيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره، ويعطيهم مكاناً عوضاً ما هو خير له، فيسع فيه أهل المحلة، قال محمد رحمه الله تعالى: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية، کتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴/۵۷۱۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱۱/۲۵ھ

**غیر مسلموں کے غلبہ کی وجہ سے گاؤں اور مسجد چھوڑنا؟**

**سوال (۱۰۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک گاؤں میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا رہتا ہے، اور اس گاؤں میں مسجد بھی ہے، اگر گاؤں چھوڑتے ہیں تو مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، ایسی صورت میں مسلمان کیا کریں گے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حوصلہ مندی کے ساتھ

حتی الامکان اُسی بستی میں جے رہیں اور رفتہ رفتہ اپنی آبادی بڑھانے کی سعی کرتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو مسجد کی بے حرمتی اور غیروں کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کا انتظام کریں، ایسی صورت میں وہ انشاء اللہ عند اللہ ماجور اور مستحق ثواب ہوں گے، ہاں اگر وہاں رہ کر جان وایمان بچانا دشوار ہو تو اس بستی کو چھوڑ کر دوسری محفوظ جگہ منتقل ہونے کی بھی گنجائش ہے، ایسی صورت میں مسجد کا سامان وغیرہ منتقل کر کے دوسری آباد مسجد میں لگا دیا جائے۔ (شامی ۳/۳۵۹)

کراچی، ۵۳۹/۶ زکریا

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ۱۹۰]

فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت، ومن ثم قال الماوردي إذا قدر على إظهار الدين في بلدة من بلاد الكفر، فقد صار البلد به دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. (فتح الباري ۲/۲۹۱۷)

الثالثة: أن يجحده الغاصب، ولا بينة: أي وأراد دفع القيمة، فللمتولي أخذها ليشترى بها بدلاً. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع ۳۸۸/۴ كراچی، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية / كتاب الوقف ۳۰۶/۳ زکریا)

سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل

للمتولي أن يبيعها ويشترى بثمنها أخرى؟ قال: نعم. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۲۳۷/۶ مصطفى الباي الحلبي مصر)

رجل وقف موضعاً في صحته، وأخرجه عن يده، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يأخذ من الغاصب قيمتها ويشترى بها موضعاً آخر، فيقفه على شرائط الأول. قيل له: أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحداً أو ليس للوقف بينة يصير مستهلكاً، والشيء المسبل إذا صار مستهلكاً يجب له الاستبدال. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / فصل في وقف المنقول ۳۱۲/۳ زكريا فقط واللہ تعالیٰ اعلم)

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۳/۱۴۱۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گاؤں اُجڑ جانے کی وجہ سے مسجد فروخت کر کے دوسری مسجد بنانا؟

**سوال (۱۰۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں کے اندر مسجد تھی اور مسجد کے نام سے کچھ زمین تھی؛ لیکن فساد کے موقع پر مسلمانوں نے گاؤں کو چھوڑ دیا، اور اب وہاں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا ہے، اور مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی، اس لئے مسلمانوں نے سوچا ہے کہ مسجد اور مسجد کی زمین کو فروخت کر کے دوسری مسجد بنا دی جائے، یا دوسری مسجد میں اس رقم کو صرف کیا جائے، اس طرح کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایسی صورت میں اصل مسجد کو تو منتقل کرنا اور فروخت

کرنا تو جائز نہیں ہے؛ البتہ مسجد کی موقوفہ زمینوں سے اگر انتفاع کی کوئی شکل نہ ہو اور وہاں چھوڑے



رکھنے میں ناجائز قبضہ کا اندیشہ غالب ہو تو انہیں فروخت کر کے دوسری محفوظ جگہ مسجد کے لئے زمین خریدی جائے، بعض فقہی جزئیات سے اس حکم کی تائید ہوتی ہے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى (الدر المختار) قوله: عند الإمام والثاني: فلا يعود ميراثًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى، وأكثر المشائخ عليه. (شامي / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۴/۳۵۸۱ کراچی، ۶/۴۸۱۵ زکریا، کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف / أحكام المساجد ۱۵/۲۱۴ زکریا، بدائع الصنائع، کتاب الوقف / وأما حكم الوقف الجائر ۶/۲۲۱ کراچی)

ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم. (رد المحتار، کتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۴/۳۵۹۱ کراچی، وکذا فی فتح القدير، کتاب الوقف / أحكام المساجد ۶/۲۳۶ مصطفیٰ البابی الحلبي مصر)

سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولي أن يبيعها ويشترى بئمنها أخرى؟ قال: نعم. (البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۵/۲۲۲ زکریا، وکذا فی فتح القدير، کتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۶/۲۳۷ مصطفیٰ البابی الحلبي مصر)

رجل وقف موضعًا في صحته، وأخرجه عن يده، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يأخذ من الغاصب قيمتها ويشترى بها موضعًا آخر، فيقفه على شرائط الأول. قيل له: أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحدًا أو

ليس للوقف بينة يصير مستهلكًا، والشيء المسبل إذا صار مستهلكًا يجب له الاستبدال. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / فصل في وقف المنقول ٣١٢٣ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

١٤١١/١٢/١٤ھ



---

---

# أحكام مساجد

---

---

# مسجد کی بناء و تعمیر

## بلا ضرورت مسجد کی تعمیر؟

**سوال (۱۰۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک ہی محلہ میں بالکل متصل دو مساجد قائم ہیں، یہ دونوں مساجد نمازیوں سے پر نہیں ہوتیں، اب اسی محلہ میں متصل ہی تیسری مسجد تعمیر کرنے کے لئے لوگ تیار ہیں، اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر پہلے سے وہاں دو مسجدیں موجود ہیں اور نمازیوں کے لئے کافی ہیں، تو بلا ضرورت تیسری مسجد بنانا مناسب نہیں ہے۔

فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للإسم والرسم، واستعلاءً لشانهم واقتداءً بأبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم. (تفسير أحمدی ۴۷۸ المکتبۃ الحقانیۃ پشاور) وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.

(الكشاف ۳۱۰/۲ التوبة: ۱۰۷ دار الكتاب العربي بيروت، وكذا في روح المعاني ۲۱/۱۱ دار إحياء التراث

العربي بيروت، وكذا في تفسير معالم التنزيل للبغوي ۳۲۷/۲ إدارة تاليفات رشيدية ملتان) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۶/۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## آبادی کی کثرت کی وجہ سے گاؤں میں دوسری مسجد بنانا؟

**سوال (۱۰۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اس وقت ہماری بستی آبادی کے لحاظ سے کافی بڑی ہے، جب کہ پوری بستی میں صرف ایک ہی مسجد ہے جو نمازیوں کے لئے تنگ پڑ رہی ہے، تنگی کے مد نظر ذمہ داران مسجد مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف بستی کے اندر ہی ایک اور جگہ مسجد کے واسطے خریدی گئی، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پرانی مسجد کو ہی ڈبل منزلہ کر دی جائے، جب کہ دوسرے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے لئے جو دوسری جگہ خریدی گئی ہے، وہاں پر نئی مسجد تعمیر کی جائے، شرعی لحاظ سے کون سا کام زیادہ مفید ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** حسب تحریر سوال چوں کہ مذکورہ بڑی بستی میں صرف

ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو نمازیوں کے لئے تنگ پڑ چکی ہے اور ضرورت کی بنا پر دوسری مسجد کے لئے جگہ خریدی جا چکی ہے، اس لئے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اسی خریدی ہوئی جگہ پر نئی مسجد بنائی جائے؛ تاکہ اس جگہ کے قریب رہنے والوں کے لئے سہولت ہو سکے، پھر جب بعد میں جب ضرورت ہو تو پرانی مسجد کو دو منزلہ بنانے کی کوشش کی جائے۔

عن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين بصاراً أحدهما صاحبه. (الكشاف ۳۱۰/۲ التوبة: ۱۰۷ دار الكتاب العربي بيروت، وكذا في روح المعاني ۲۱/۱۱ دار إحياء التراث العربي بيروت، وكذا في تفسير معلم التنزيل للبغوي ۳۲۷/۲ إدارة تاليفات رشيديّة ملتان)

يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال - جمع محلة - ونحوها حسب الحاجة وهو من فروض الكفاية. (الموسوعة الفقهية ۱۹۵/۳۷ بيروت) فقط والله تعالى أعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۳/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نمازیوں کے بڑھنے کی وجہ سے دوسری مسجد تعمیر کرنا؟

**سوال (۱۱۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں ایک مسجد تقریباً ۲۰ فٹ لمبی اور ۱۰ فٹ چوڑی ہے، اور اُس کے سامنے کھلا صحن ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً ۵۰۰/۵۰۰ افراد پر مشتمل ہوگی، اور ۱۰-۱۵ گھروں کے علاوہ سبھی مسلمان ہیں، رمضان المبارک میں نمازی زیادہ ہونے کی بنا پر مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، جب کہ رمضان میں تقریباً ۲۵ فیصد ہی نمازی ہوتے ہیں؛ لیکن اگر پورے گاؤں کے لوگ نمازی ہو جائیں اور پورے سال نماز پڑھیں تو واقعی پہلی مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئے گی، یا دوسری مسجد تعمیر کی جائے، گاؤں کے لوگ رمضان کے بعد بہت کم نماز پڑھتے ہیں؛ مشکل سے ۱۰-۱۵ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسری مسجد کی تعمیر سے پہلی مسجد کے نمازی بٹ جائیں گے، اس لئے مسجد تعمیر نہ کی جائے؛ لیکن دوسری مسجد کی تعمیر کرانے والے حضرات دوسری مسجد کی تعمیر مرکز کی حیثیت سے کرانا چاہتے ہیں؛ تاکہ وہاں جماعتیں آئیں اور گاؤں و اطراف میں تبلیغی کام کریں اور نمازی بڑھیں، اور جو نوجوان دین سے بیزار ہو رہے ہیں، اُن کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو اور سو فیصد نمازی ہو جائیں، انشاء اللہ دونوں مسجدیں اپنی ہیں، دونوں کو نمازیوں سے بھرنے کی سعی و کوشش اپنا فریضہ تصور کریں گے، مقصد دوسری مسجد کو ویران کرنا (العیاذ باللہ) نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتلائیں کہ مذکورہ بالا حالات میں دوسری مسجد کی تعمیر درست ہے یا نہیں؟

**نوٹ:** - پہلی مسجد گاؤں کے پچھم میں ہے اور دوسری نئی مسجد گاؤں کے پوربی جانب بنے گی؟

بِسْمِ سُبْحَانِ تَعَالَى

**الجواب وباللہ التوفیق:** چوں کہ نئی مسجد دوسرے محلہ میں بنائی جا رہی ہے، اور

سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی مسجد کی تعمیر سے دونوں مساجد میں نمازیوں کے بڑھنے کی امید ہے؛ لہذا نئی مسجد بنانے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس تعمیر پر اعتراض کرنے والے حق بجانب نہیں

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. (سنن ابن ماجه، أبواب المساجد / باب تطهير المساجد وتطبيها رقم: ۷۵۹ دار الفكر بيروت)

يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين. (البحر الرائق،

كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۲/۲ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۰/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## کسی بزرگ کے نام پر مسجد کا نام رکھنا؟

**سوال (۱۱۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید نے ایک مسجد تعمیر کروائی ہے اور اس کا نام ”مسجد رشیدیہ“ پیا دگا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ رکھا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ جواب باصواب سے رہنمائی فرمائیں، کرم ہوگا۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** تعارف اور امتیاز کے لئے کسی بزرگ کے نام کی طرف

مسجد کے انتساب کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، خود پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة،

وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد

الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة،

وصلاتہ فی المسجد الحرام بمائۃ ألف صلاة. (سنن ابن ماجہ، کتاب الصلاة / باب ما

جاء فی الصلاة فی المسجد الجامع رقم: ۱۴۱۳ دار الفکر بیروت)

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سابق بین الخیل التي أضمرت من الحفیاء وأمدھا ثنیۃ الوداع، وسابق بین الخیل

التي لم تُضمّر من الثنیۃ إلى مسجد بنی زریق، وأن عبد اللہ بن عمر كان فیمن

سابق بها. (صحیح البخاری، کتاب الصلاة / باب هل یقال: مسجد بنی فلان رقم: ۴۲۰ دار الفکر بیروت)

و یستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانیها أو المصلي فیها، ویلتحق به

جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. (فتح الباری / باب هل یقال مسجد بنی فلان ۷۷۲ رقم:

۴۲۰ نزار مصطفیٰ الباز مكة المكرمة، ۵۱۵۱ دار الفکر بیروت، عمدة القاری / باب هل یقال مسجد

بنی فلان ۱۵۹۲ دار الفکر بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۴/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ میں مسجد بنانا اور ایام تعطیل میں اُسے آباد رکھنا؟

**سوال (۱۱۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ہمارے محلّہ میں ایک مسجد تھی سارے محلّہ والے اُسی میں نماز پڑھتے ہیں، محلّہ کے ایک کنارے

پر مدرسہ ہے، مدرسہ والوں نے مدرسہ کے بچوں کے لئے مدرسہ ہی میں مسجد بنائی، محلّہ والوں نے

بھی تعاون کیا، اب باقاعدہ اس مدرسہ والی مسجد میں بھی جماعت ہونے لگی، اور محلّہ کے بھی کچھ لوگ

اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جب مدرسہ کی کوئی چھٹی ہوتی ہے تو طلبہ اور اساتذہ گھر چلے جاتے

ہیں، اور یہ مسجد بند ہو جاتی ہے، نہ اس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔

معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مدرسہ کی اس مسجد میں چھٹیوں کے دنوں میں اذان و نماز بند ہونے کا

وبال اہل محلّہ یا اُن گھروں پر جو اس مسجد کے قریب ہیں تو نہیں پڑے گا؟ جب کہ اہل محلّہ اپنے محلّہ



کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو شکل از روئے شرع بہتر ہو، فیصلہ فرمائیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مدرسہ میں جو مسجد بنائی گئی ہے وہ بھی مسجد شرعی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ تعطیلات کے زمانہ میں بھی وہاں نماز پابندی سے جاری رہے، اور اگر بالفرض ایسا ممکن نہ ہو تو اس مسجد میں نماز نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلہ سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔  
دار فیہا مسجد إن كانت الدار إذا أغلقت كان للمسجد جماعة ممن كان في الدار، فهو مسجد جماعة يثبت فيها أحكام المسجد من حرمة البيع وحرمة الدخول للجنب، إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ ۱۵۹/۸ رقم: ۱۱۵۰۴ زکریا)

فعلى هذا المساجد التي في المدارس بجرجانية خوارزم مساجد. لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها، وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها. (البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل لما اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف الخ ۲۴۹/۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۱۲/۱۴۳۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**نیچے کے حصہ میں ذاتی کاروبار کر کے اوپر مسجد تعمیر کرنا؟**

**سوال (۱۱۳):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب جو سرتاج نام کے ہیں، اس طور پر مسجد کے لئے تیار ہیں کہ زمین کے نیچے کے حصہ کو وہ اپنے استعمال میں لائیں گے، اور اپنے کام کاروبار کے لئے ہال بنائیں گے یاد و کانیں وغیرہ ہوں گی، اور اس کی چھت پر مسجد تعمیر ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ طریقہ کہ نیچے کا حصہ اپنی ملکیت میں رہے اور اوپر کی

منزل میں مسجد بنا دی جائے، اس سے اوپری منزل مسجد شرعی نہیں بن سکتی؛ بلکہ وہ جگہ محض جماعت خانہ کے حکم میں ہوگی جس میں نماز پڑھنا تو جائز ہے؟ لیکن مسجد شرعی کا ثواب نہیں ملے گا، مسجد شرعی اُس وقت بنے گی جب کہ اوپر اور نیچے دونوں حصے مسجد ہی پر وقف ہوں، اور مسجد کے مصالح کے لئے استعمال کیا جائے۔

بخلاف ما إذا كان السرداب، أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد؛ بل هو من تميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس لهذا هو ظاهر المذهب. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۲۵/۱۵ کوئٹہ، شامی / مطلب في أحكام المسجد ۴۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۱۰/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نیچے دوکانیں اوپر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۱۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک زمین میں دوکانیں تھیں، دوکانوں کے مالک نے دوکانوں کے اوپر کٹری کی چھت ڈالوا کر مسجد بنا دی؛ کیوں کہ دوسری مسجد دور پڑتی تھی، مسجد اس طرح ایک صدی سے زیادہ زمانہ سے چلی آرہی ہے، ان دوکانوں کے پیچھے کچھ خالی زمین تھی، جس میں وہ دوکان والے اپنی دوکانوں کا سامان وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، گویا گودام تھے، اس مسجد کے آس پاس مسلمان نہیں ہیں، دوکانوں سے مسجد آباد رہتی ہے اور محفوظ بھی رہتی ہے، فسادات میں غیر مسلم مسجد پر حملہ بھی کر دیتے ہیں، اب موجودہ کمیٹی مسجد اور دوکانوں کو توڑ کر نئے سرے سے سلیقہ کے ساتھ نیچے کے پورے حصہ میں (جہاں مسجد سے قبل دوکانیں تھیں وہاں بھی اور دوکانوں اور مسجد کے پیچھے جو گودام وغیرہ تھے، وہاں بھی) دوکانیں اور ان کے اوپر مسجد تعمیر کرنا چاہتی ہے؛ کیوں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مختصر یہ کہ:

**الف:** - پہلے دوکانیں تھیں بعد میں ان پر مسجد تعمیر کی گئی۔

ب:- ایک صدی سے زیادہ سے مسجد اور چلی آرہی ہے۔

ج:- پیچھے سامان وغیرہ رکھنے کی جگہ تھی۔

د:- اب نیچے کے پورے حصہ میں مارکیٹ اور اوپر مسجد بنانا چاہتے ہیں، جب کہ پیچھے جہاں گودام تھے، اُس کے اوپر مسجد کے لئے چھت ڈال دی گئی ہے، اور فی الحال وہاں نماز ہو رہی ہے، اور اس کے نیچے دو دوکانیں بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ تو اب مذکورہ تفصیلی حالات میں نیچے مارکیٹ بنا کر اوپر مسجد مندرجہ بالا طریقہ پر بنانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر وہ دوکانیں مسجد ہی کی ہیں اور ان کا کرایہ مسجد کو آتا ہے، تو اس طریقہ پر مسجد شرعی کی تعمیر درست ہے۔ شامی کی درج ذیل عبارت سے اس مسئلہ پر پوری روشنی پڑتی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحة أي المسجد جاز كمسجد القدس ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بيتاً ..... لا يكون مسجدًا (الدر المختار) وفي الشامي: ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدًا فيما إذا لم يكن وقفًا على مصالح المسجد، وبه صرح في الإسعاف، فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفًا عليه صار مسجدًا، شرنبالايه. قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سلفه وعلوه مسجدًا ينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الحج: ١٨] (الدر المختار مع الشامي / مطلب في أحكام المسجد ٣٥٧/٤ دار الفكر بيروت،

٥٤٧/٦ زكريا، كذا في البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ٢٥١/٥ كراحي) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۱۰/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اوپر مسجد نیچے دوکان جس میں غیر مسلم مورتی کی پوجا کرے؟

**سوال (۱۱۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک دو منزلہ مسجد ہے، نیچے دوکانیں ہیں، اُن میں سے ایک دوکان مسلم کے قبضہ میں ہے، جس میں تصویر کا کام ہوتا ہے، اور بقیہ دوکانیں غیر مسلم کے قبضہ میں ہیں، جس میں مورتیاں رکھ کر اُس کی پرستش کی جاتی ہے؛ لہذا مسجد کے بالائی حصہ پر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت تو نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں مسجد کے بالائی حصہ پر نماز پڑھنا اور غیر مسلم کو دوکان کرائے پر دینا درست ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم اُس میں مورتیاں رکھے؛ اس لئے کہ دوکان خاص اس مقصد سے کرایہ پر نہیں دی گئی ہے؛ لیکن یہ حکم اُسی وقت ہے جب کہ اس کرایہ دار کے رہنے سے مسجد کو کوئی نقصان نہ ہو۔

قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة، جزء آیت: ۲]

وهو الذنب والمعصية، وهي كل ما منعه الشرع، أو حاك في الصدر

وكرهت أن يطالع عليه الناس . (التفسير المنير ۶۹/۵ بيروت)

ولا بأس بأخذ أجر علي حمل خمر الذمي خلافاً لهما، رجل أجر بيتاً

ليتخذ فيه ناراً وبيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به. وكذا كل موضع

تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى / الفصل التاسع من كتاب الكراهية

۳۷۶/۴ امجد اکیڈمی لاہور)

إذا استاجر الذمي من المسلم داراً يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب

فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في

ذلك بأس؛ لأن المسلم لا يؤجرها لذلك، إنما أجرها للسكنى. كذا في

المحيط . (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة / الفصل السادس ۴۰۰/۴ زكريا)

لو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد، قيل: لا يستحب ذلك،  
ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً وما تحته صار وقفاً عليه. (حاشية لشليبي  
على تبیین الحقائق / کتاب الوقف ۲۱۷/۴ دار الکتب العلمیة بیروت، ۲۷۱/۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۹/۶ھ

## عام گذرگاہ کے اوپر لینٹریڈال کر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۱۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: ایک محلہ میں جس کو ڈالیا والی گلی کہا جاتا ہے، مسلم آبادی ہے، اُس محلہ میں جانے کے واسطے  
ایک اونچا وسیع دروازہ ہے، اس میں عام راستہ نہیں ہے؛ بلکہ محلہ والے ہی آتے جاتے ہیں، اس  
نکلنے کی جگہ کے اوپری حصہ کو وقف کر دیا گیا ہے، اس دروازہ پر وسیع چھت ہے، اور قریب میں کوئی  
مسجد نہیں ہے، نالہ کے قریب یہ جگہ واقع ہے، بارش میں کیچڑ کی وجہ سے نکلنے میں دشواری ہوتی ہے؛  
لہذا اہل محلہ جو اس کے اندر رہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازہ پر مسجد تعمیر کر دی جائے، اس پر  
بالاتفاق سب راضی ہیں، اس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس دروازہ پر اگر جگہ بنا کر نماز پڑھ لی جائے، تو نماز تو  
درست ہو جائے گی، مگر یہ جگہ شرعی مسجد نہ بنے گی؛ اس لئے کہ نیچے عام راستہ ہونے کی وجہ سے حق  
العبد منقطع نہ ہوگا اور راستہ کے مصالح مسجد میں شامل نہ ہونے کی بنا پر مسجد کی صحت کی شرط نہ پائی  
جائے گی۔

قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه  
مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ بخلاف ما إذا  
كان السرداب والعلو موقوفاً لمصالح المسجد. (شامي ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۷/۶)

زکریا، کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل فی احکام المساجد ۴۲۱/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۳/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد قدیم کو شہید کر کے نیچے مکتب اوپر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۱۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک مسجد ہے، اب اُس کو شہید کر کے نیچے مدرسہ و مکتب بنانا چاہتے ہیں، اور اُس کے اوپر مسجد، تو کیا اس طرح سے تعمیر صحیح ہے کہ پہلے نیچے جو مسجد تھی اُس کو مدرسہ یا مکتب بنا لیا جائے، اور اوپر مسجد بنوائی جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** قدیم مسجد کو شہید کر کے نیچے مدرسہ یا مکتب تعمیر کرنا

درست نہیں، مسجد شرعی کے فوقانی اور تحتانی حصہ کا مسجد ہی کے لئے متعین کرنا لازم ہے۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء. (الدر المختار) و کذا إلى تحت الثرى.

(شامی ۶۵۶/۱ کراچی، ۴۲۸/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۱۱/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے بالائی حصہ پر محراب بنانا

**سوال (۱۱۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک مسجد موضع بہڑا میں بنی ہوئی ہے؛ لیکن اب نمازیوں کی زیادتی کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے اب دوسری منزل کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسری منزل پر بھی محراب بنایا جا رہا ہے، اس غرض سے کہ سخت گرمی میں تراویح وغیرہ پڑھنے میں سہولت رہے گی، تو اس ضرورت کے تحت اوپر نیچے دونوں منزلوں میں محراب بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** دوسری منزل پر محراب بنانا درست ہے، اور گرمی یا جس کے عذر کی بنا پر دوسری مسقف منزل کی محراب پر جماعت فرائض و تراویح ادا کی جاسکتی ہے؛ البتہ بلا ضرورت پہلی منزل کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۱۵۹/۳، فتاویٰ دارالعلوم حاشیہ ۱۵۰/۴، احسن الفتاویٰ ۲۸۷/۳)

البتہ اگر کھلی چھت ہو تو اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔

الصعود علی السطح کل مسجد مکروہ؛ ولہذا إذا اشتد الحرّ یکرہ أن یصلوا بالجماعة فوقہ إلا إذا ضاق المسجد فحینئذ لا یکرہ الصعود علی سطحہ للضرورة۔  
(الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الکراہیۃ / آداب المسجد ۳۲۲/۵ دار الفکر بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۱۲/۱۴۱۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تعزیہ رکھنے کی جگہ پر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۱۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر کھرگون میں ایک بنگلہ ہے، یعنی پنچایتی ایک عمارت، جس میں کئی سالوں سے تعزیہ وغیرہ بنتا ہے اور سال بھر اسی کے کام میں لیا جاتا ہے، اب اس محلہ میں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلہ کا اس جگہ پر مسجد بنانے کا ارادہ ہے، جب کہ اسی میں سے ایک کمرہ تعزیہ کے لئے بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بدعت ہے، اس لئے صورتِ مسئلہ میں جس عمارت میں تعزیہ رکھا جاتا ہے، اگر اُس عمارت کے مالکین و متصرفین راضی ہوں، تو اُس جگہ مسجد بنانا شرعاً جائز ہے اور مسجد بننے یا نہ بننے تعزیہ کا سلسلہ بہر صورت ختم ہونا

چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۳/۱۳۲۰ ڈبھیل)

فلو جعل وسط دارہ مسجدًا وأذن للناس في الدخول والصلاة فيه، إن شمر معه الطريق، صار مسجدًا. (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الأول ۴۰۴/۲ زکریا)

رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة..... إن أمرهم بالصلاة فيها أبداً..... صارت الساحة مسجدًا، لو مات لا يورث عنه. (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / الباب الحادی عشر فی المسجد ۴۰۵/۲ زکریا، کذا فی فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا الخ ۲۹۰/۳ زکریا، وکذا فی الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب الوقف / أحكام المسجد ۱۰۶/۱۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۱/۱۳۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے صحن میں بوسیدہ ہڈیاں نکلنا؟

**سوال (۱۲۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بننے جا رہی ہے، اس مسجد کا جو صحن ہے اس میں ایک دو جگہ مردوں کی ہڈیاں نکلی ہیں، اس جگہ پر فی الحال کوئی قبر موجود نہیں ہے، بوڑھے لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً ۵۰/۵۰ سال پہلے یہاں قبریں تھیں، تو شاید انہیں میں سے یہ ہڈیاں نکلی ہوں؛ لیکن دو چار ہڈیوں کے علاوہ اور کوئی ہڈی نہیں ملی، اور نہ وہاں اب قبروں کے نشانات ہیں، تو اس جگہ کو مسجد کے صحن میں شامل کر سکتے ہیں؟ اور وہاں پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جس جگہ مسجد کا صحن ہوگا، وہ گرام سماج کی ملکیت میں ہے قبرستان نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر گرام سماج والے اپنی زمین مستقل طور پر مسجد کو دے



دیں، تو اس حصہ پر مسجد کا صحن بنانا درست ہے، زمین میں چند ہڈیوں کے برآمد ہونے سے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور اس جگہ نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہ ہوگی۔

ولو بلسی المیت و صار تراباً جاز دفن غیرہ فی قبرہ و زرعه و البناء علیہ،  
 کذا فی التبیین. (الفتاویٰ الہندیۃ / الباب الحادی والعشرون فی الجنائز ۱۶۷/۱ زکریا، کذا فی  
 تبیین الحقائق، کتاب الصلاة / باب الجنائز ۵۸۹/۱ زکریا، عمدۃ القاری / باب هل تنبش قبور مشرکی  
 الجاہلیۃ و یتخذ مکانها مساجد ۱۷۹/۴ إدارة الطباعة المنبریۃ دمشق) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۶/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے موقوفہ مکان کو مسجد بنانا؟

**سوال (۱۲۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: مسجد کججور والی محلہ بارہ درہی میں آبادی اور مصلین کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے ناکافی ہوتی  
 جا رہی ہے، مزید ایک مسجد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، مسجد ہذا کا ایک وقف مکان جو محلہ میں  
 ہی مسجد سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، اُسے مسجد ہذا کی کمیٹی مسجد بنانا چاہتی ہے، شریعتِ مطہرہ کی  
 رو سے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ مطلع فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد پر وقف شدہ مکان کو اہل محلہ کی رضا مندی سے  
 مسجد بنانا درست ہے؛ لیکن دونوں مسجدوں کی انتظامیہ کمیٹی ایک ہی رہے گی۔

اتحد الواقف و الجهة و قل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن  
 يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه (الدر المختار) قال الشامي: بأن وقف  
 وقفين على المسجد، أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه، والإمام  
 والمؤذن لا يستقر لبقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف  
 المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة

إن كان الوقف متحداً. (مستفاد: الدر المختار مع الشامي / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه

۵۵۱/۶ زكريه، كذا في البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زكريه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۵/۱۳۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## قدیم مسجد کو مکتب بنا کر بڑی مسجد تعمیر کرنا؟

**سوال (۱۲۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ہمارے یہاں ایک مسجد نزول کی جگہ پر ۲۳ سال سے بنی ہوئی ہے، نماز بھی ہوتی چلی آ رہی ہے، اب مسجد کی پورب سائڈ میں ایک دوسری زمین خرید لی گئی ہے، ذمہ داران مسجد دوسری والی جگہ پر مسجد بڑی سائز کی بنانا چاہتے ہیں، پہلی والی مسجد کو مکتب بنانے کا عزم ہے۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ پہلی مسجد کو مکتب بنانا اور نئی جگہ پر بڑی مسجد بنانے کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جس مسجد شرعی میں ۳۲ سال سے نماز ہو رہی ہے،

اُسے مسجد کے بجائے مکتب بنا دینا جائز نہیں ہے، اُسے مسجد ہی کے طور پر برقرار رکھنا ضروری ہے، اگر نئی مسجد بنانے کی ضرورت ہو تو نئی جگہ پر نئی مسجد بنالی جائے، یا اگر ممکن ہو تو بیچ کاراستہ ختم کر کے دونوں مسجدوں کو ملا دیا جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۷۲/۲ میرٹھ)

ولو خرب ما حولہ، واستغنی عنہ یبقی مسجداً عند الإمام والثانی أبداً

إلی قیام الساعۃ وبہ یتقی. (الدر المختار / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غیره ۵۴۸/۶ زکریہ)

قال أبو یوسف: هو مسجد أبداً إلی قیام الساعۃ لا یعود میراثاً، ولا یجوز

نقله، ونقل ماله إلی مسجد آخر، سواء كانوا یصلون فیہ أو لا وهو الفتوی. (البحر

الرائق / فصل فی أحكام المساجد ۲۵۱/۵ کوئٹہ، شامی ۵۴۸/۶ زکریہ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۴/۱۳۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے مینار بنانے کا حکم؟

**سوال (۱۲۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے لئے مینار بنانے کا کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی علامت کے طور پر مینار بنانا بہتر ہے؛ تا کہ

آنے جانے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد ہے؛ لیکن مینار بنانا شرعاً واجب یا ضروری نہیں ہے، بغیر مینار کے بھی مسجد کا تحقق ہو جاتا ہے اور مینار کی تعمیر میں فضول خرچی نہ کرنی چاہئے؛ بلکہ

صرف ضرورت کے بقدر بنایا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۱۳۵۲، ۱۳/۱۳۵۲، ۱۴/۱۳۵۲)

ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص و ماء ذهب لا من مال الوقف؛ فإنه حرام،

وضمن متوليه لو فعل (الدر المختار) وأما من مال الوقف، فلا شك أنه لا يجوز

للمتولي فعله مطلقاً؛ لعدم الفائدة فيه، خصوصاً إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف،

كما شاهدناه في زماننا. (رد لمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" طيل على أن المستحب

غيره لـخ ۶۵۸۱ كراچی، البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال

القبلة ۶۵۲ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / فصل: كره غلق المسجد ۱۰۹۱ زكريا)

ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها. (الفتاوى

الهندية، الباب الحادي عشر / الفصل الثاني الخ ۶۲/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۷/۲/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد سے متصل جماعت خانہ پر مینار اور رہائش کی تعمیر؟

**سوال (۱۲۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ضرورت پڑنے کی بنیاد پر جماعت خانہ کے اوپر رہائشی تعمیر کر سکتے ہیں یا پھر وہ جگہ مسجد کے

حکم میں آجائے گی؟

مسجد کی خوبصورتی کے لئے دوکانوں کے اوپر مینار کی تعمیر کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، یا پھر مینار مسجد کے ساتھ ہی خاص ہے؟ براہ کرام جلد جواب عنایت فرمائیں؛ کیوں کہ تعمیر ان سوالات کے جوابات پر موقوف ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** چوں کہ جماعت خانہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں کیا گیا ہے، اس لئے اس پر مزید تعمیرات کی گنجائش ہے، اور اس پر مینار بھی بنایا جاسکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۲۱/۱۵، احسن الفتاویٰ ۶/۲۵۹)

ولا بأس بنقشه خلا محرابه بخص و ماء ذهب لا من مال الوقف؛ فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل (الدر المختار) وأما من مال الوقف، فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقاً؛ لعدم الفائدة فيه، خصوصاً إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف، كما شاهدناه في زماننا. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره الخ ۶۵۸/۱ كراچی، وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۵۲ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / فصل: كره غلق المسجد ۱۰۹/۱ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۵/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے اندر کسی کے نام کا کتبہ لگانا؟

**سوال (۱۲۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب کا لڑکا ایک سال قبل بازار کے اندر دوکانوں میں آگ لگنے کی وجہ سے نذر آتش ہو گیا، حکومت کی طرف سے معاوضہ کے طور پر مبلغ ۵۰ ہزار روپے اُن صاحب کو ملے تھے، اُس

نے اس روپے کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، اب ان صاحب کی خواہش ہے کہ اپنے بچے کی یاد تازہ رکھنے کے لئے مسجد کے اندر ایک پتھر اس مرحوم کے نام سے نصب کر دیں، تو شرعاً ان روپیوں کا لگانا کیسا ہے؟ اور مسجد کے اندر کسی کے نام کا پتھر لگانا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ روپے مسجد میں لگانا درست ہے، اور کتبہ لگانے سے

اگر شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

عن علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم: ۱ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم رقم: ۱۹۰۷ بيت الأفكار الدولية)

فيه أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال أنه مما يجري

للإنسان أجره بعد موته. (عمدة القاري / باب بنيان مسجداً ۲۰۹/۴ بيروت)

والمراد بوجه الله ذات الله وابتغاء وجه الله في العمل هو الإخلاص وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من دون رياء وسمعة، حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص.

(عمدة القاري ۲۱۳/۴ بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۸/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد یا مدرسہ کی تعمیر کے بعد دروازہ پر نام کا پتھر نصب کرنا؟**

**سوال (۱۲۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کسی مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی عمارت یا تعمیر جدید کرنے کے بعد اُس کی دیواریا دروازہ پر بنوانے والے کا نام لکھنا یا جس متولی و ٹرسٹی کے زمانہ میں اُس کی تعمیر ہوئی ہے، اُس کا نام لکھنا درست ہے یا نہیں؟ اس طرح کے ناموں کا مقصد عموماً اپنی شہرت اور یا ہوتی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی اجر و ثواب کامل ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** ایصالِ ثواب کے لئے مسجد بنوادینا اور اس نیت سے پتھر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھ کر میت کے لئے خصوصیت سے ایصالِ ثواب کرے تو درست ہو سکتا ہے، اور شہرت کی بنا پر نام کھدوانا درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۵۱۴، ڈبھیل)

عن سلمة قال: سمعت جندباً رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرأني يرأني الله به. (صحيح البخاري، كتاب الرقاق / باب الرياء والسمعة رقم: ۶۴۹۹ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم رقم: ۲۹۸۶ بيت الأفكار الدولية)

عن علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم: ۱ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم رقم: ۱۹۰۷ بيت الأفكار الدولية)

فيه أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال أنه مما يجري للإنسان أجره بعد موته. (عمدة القاري / باب بنيان مسجداً ۲۰۹/۴ بيروت)

والمراد بوجه الله ذات الله وابتغاء وجه الله في العمل هو الإخلاص وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من دون رياء وسمعة، حتى قال

ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص.  
(عمدة القاري ۲۱۳/۴ بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۱/۶/۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## درس گاہ میں مسجد کے صحن کی طرف کھڑکی کھولنا؟

**سوال (۱۲۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ سے متصل مسجد ہے، مسجد کے صحن کی جانب درس گاہ ہے، اس میں دو کھڑکی روشنی و ہوا کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں، محلّہ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی جانب کھڑکی نہیں ہونی چاہئے، اُن کو بند کرادیا جائے، مدرسہ والے کہتے ہیں کہ اس سے طلبہ کو پریشانی ہو جائے گی، بعض اوقات بجلی غائب ہو جاتی ہے، جس وگرمی ہو جاتی ہے، پڑھنا پڑھانا مشکل ہے، ایسی صورت میں مدرسہ والے کیا کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال اور معلومات میں مسجد کی جانب کھڑکی کھولنا جائز نہیں، اس لئے فتویٰ لے لیجئے، اگر جائز ہو تو مضائقہ نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد اور مدرسہ دونوں عام مسلمانوں کے دینی فائدہ کے لئے ہیں؛ لہذا صورتِ مسئلہ میں اہل مسجد کو دیوار میں ہوا کے لئے کھڑکی کھولنے پر اعتراض نہ کرنا چاہئے، اگر وہ اعتراض نہ کریں تو مدرسہ کی کھڑکی کھولنے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ويسع الذي محمله أن ينتفع به عالم يضر بالمسلمين؛ لأنه له حق المرور ولا ضرر فيه في معناه به إذ المانع متعنت، فإذا أضر بالمسلمين له كره له ذلك لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". (المهذب ۵۷۵/۴) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۷/۲/۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## MLA کا اپنے امدادی فنڈ سے عید گاہ یا مسجد میں رقم دینا؟

**سوال (۱۲۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے MLA نے اپنے فنڈ سے بطور امداد کچھ رقم عید گاہ کو وسیع کرنے، فرش ڈالنے، یا پتھر بچھانے، یعنی اس کو خوب صورت بنانے کے لئے دئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ: کیا اس رقم کو ہم اپنی عید گاہ میں فرش ڈالنے یا پتھر بچھانے کے استعمال میں لاسکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس پیسے سے بنائے گئے فرش پر عید کی یا جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر سرکاری ضابطہ کے مطابق MLA اپنے امدادی فنڈ سے عید گاہ یا مسجد وغیرہ میں رقم دیتا ہے، تو اُس کی شرعاً گنجائش ہے، بشرطیکہ اس دینے کی وجہ سے آئندہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۷/۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، فتاویٰ رحیمیہ ۲۳۲/۹) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۹/۱۲۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی دونوں جانب روشن دان اور کھڑکیوں کی جگہ چھوڑنا؟

**سوال (۱۲۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں کی پرانی مسجد کافی بوسیدہ ہو چکی ہے، جس کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے، مسجد کے دائیں بائیں متصل گاؤں کی آبادی ہے، اس لئے مسجد کی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دائیں بائیں کھڑکیاں اور روشن دان کے لئے تین چار فٹ جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیا شریعت کی رو سے جو جگہ مسجد کی تحویل میں تھی، ایسی ضرورت کے پیش نظر اُس کو خالی چھوڑ دینا درست ہے؟ جب کہ اُس کا احاطہ کر دیا جائے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں دائیں بائیں جانب جس حصہ کو



چھوڑنے کا ارادہ ہے، اگر وہ پہلے ہی سے جماعت خانہ میں شامل نہیں تھا، یعنی مسجد شرعی کے حدود سے باہر تھا، تو اسے چھوڑنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ حصہ پہلے سے مسجد کے اصل جماعت خانہ میں اور مسجد شرعی میں داخل ہے، تو اب اُسے مسجد سے باہر نہیں کیا جاسکتا، اب کھڑکیاں اور دروازے آپ کہیں بھی لگائیں اُس حصہ کو مسجد سے باہر نہیں قرار دیا جائے گا، اور احترام بدستور ضروری ہوگا۔

وإن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وإنه صحيح. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الفصل الحادي والعشرون في المساجد، نوع منه: في الإضافة إلى ما بعد الموت ۱۵۸/۱ رقم: ۱۱۵۰۱ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۲/۱۴۳۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد مدرسہ کے پرانے تعمیری میٹیریل کو فروخت کرنا؟

**سوال (۱۳۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد مدرسہ کا پرانا میٹیریل اینٹ، روڑی اور مٹی وغیرہ اگر ضرورت نہ ہو یا ضرورت سے زائد ہو، تو اس کو فروخت کر کے وہ رقم مسجد مدرسہ میں لگا دی جائے تو کیا حکم ہے؟ مسجد مدرسہ کا میٹیریل مسجد مدرسہ کے فرش، راستے اور غسل خانہ وغیرہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کا پرانا یا زائد از ضرورت سامان فروخت کر کے مسجد کی ضروریات میں صرف کرنا جائز ہے۔

سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولي أن يبيعها ويشتري بثمانها أخرى؟ قال: نعم. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۲/۵ زكريا، وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد

قال الموفق في المغني: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه لم تمكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز ببعده لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه، قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما و صرف ثمنها عليه. لا نزاع فيه فإن بيع الآلات المستغني عنها يجوز اتفاقاً. (إعلاء لسنن / باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد

إلى ملك الواقف ولا يباع ۲۴۳/۱۳ تحت رقم: ۴۵۷۱ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۵/۳۰/۱۳۳۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجدِ ضرار کی تعریف

**سوال (۱۳۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد کے ہوتے ہوئے قریب ہی میں دوسری مسجد تعمیر کرنا مسجدِ ضرار کے حکم میں داخل ہوگی یا نہیں؟ نیز مسجدِ ضرار کی تعریف اور اُس کے شرائط کیا ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر ضرورۃً دوسری مسجد بنائی جائے، تو وہ مسجد؛ مسجدِ ضرار نہ کہلائے گی، مسجدِ ضرار کا اطلاق اصطلاح شرع میں اُس خاص مقام پر کیا جاتا ہے جو منافقین نے مسجدِ قبا کے مقابلہ میں مسلمانوں میں انتشار اور دشمنوں کو پناہ دینے کے لئے متعین کیا تھا، اور جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا تھا، آج کل جو مسجدیں مسلمان بناتے ہیں خواہ وہ دوسری مسجدوں کے قریب ہوں یا دور، وہ مسجدِ ضرار کی تعریف میں داخل نہیں ہیں؛ البتہ بلا ضرورت ایک مسجد کے رہتے ہوئے دوسری مسجد کی تعمیر نہ کرنی چاہئے۔ (مستفاد: معارف القرآن ۴/۶۳۶)

وقیل: کل مسجد بنی مباحةً أو ریاءً وسمعةً، أو لغرض سوی ابتغاء وجه اللہ، أو بمال غیر طیب، فهو لاحقٌ بمسجد الضرار. (تفسیر المداک، ۶۵۱/۱، التوبة: ۱۰۷، وکلنا فی روح المعانی ۲۱/۱۱ التوبة: ۱۰۷، دار احیاء التراث العربی بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۲/۱۴۱۳ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی مسجد منہدم کر کے اونچی بنانا؟

**سوال (۱۳۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سرزمین ادو بی شریف پر سڑک کے کنارے سو ڈیڑھ سو سال پرانی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بستی کے کچھ افراد رائے دیتے ہیں کہ مسجد کو منہدم کر کے لیول اونچا کر لیا جائے، پھر فوری تعمیر جدید ہو جائے، کچھ افراد مسجد کے صحن پر سائبان (برآمدہ) بنانے کی رائے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسجد کو منہدم کر کے تعمیر جدید نہ کی جائے، ہم جملہ متعلقین مسجد انتظامیہ پس و پیش میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مسجد کی بقاء کے لئے کون سا راستہ اپنایا جائے؟ سڑک اور مسجد کے فرش کا لیول فی الحال برابر ہے؛ لیکن سڑک مزید اونچی ہو جائے کچھ نہیں کہا جاسکتا، مسجد کی تین دوکانیں بھی ہیں، جن کا فرش مسجد کے فرش سے اونچا ہے؛ لیکن رخ مسجد کی طرف نہیں ہے، مسجد کی نالی بہت کم گہری رہ گئی ہے، اس کے باعث وضو کرتے وقت چھینٹیں پڑتی ہیں، مسجد کے آس پاس مسلمانوں کے مکانات پیشتر پہلی ہی منزل پر مسجد کی چھت سے اونچے ہیں، مسجد کی کچھ رقم منتظمین کی تحویل میں موجود ہے، اگر پھر سے مسجد تعمیر ہو تو فوری تعمیر عمل میں آسکتی ہے، تیز ہوائیں چلنے پر گرد و غبار کوڑا کرکٹ اور غلاظت مسجد میں لیول نیچا ہونے کے باعث داخل ہوتی ہے، آیا مسجد منہدم کر کے اس کا لیول اونچا کر کے تعمیر جدید ہو سکتی ہے یا مسجد کی تعمیر جدید نہ کی جائے؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ضرورت کی بنا پر مسجد منہدم کر کے اس کی کرسی اونچی

بنا کر مسجد کی نئی تعمیر کرنا درست ہے۔

مسجد بابہ علی مہب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيفسد الباب  
ويشقق على الناس الدخول في المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب المسجد  
من غلة الوقف. (الفتاوى الهندية، الباب الحادي عشر / الفصل الثاني من كتاب الوقف ۴۶۱/۲ زكريا)  
ذكر ابن سماعه عن محمد رحمه الله في رجل بنى مسجداً ثم مات فأراد  
أهل المسجد أن ينقضوه ويزيدوا فيه فلهم ذلك. (الفتاوى الهندية / الباب الحادي عشر  
من كتاب الوقف ۴۵۷/۲ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۴/۱۴۱۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد سے ملحق مکانات کو مسجد میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۳۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ہمارے محلہ میں ایک مسجد ہے، محلہ میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہے، اس محلہ کے دو حصے  
ہیں، ایک حصہ قدرے دوری پر ہے، اس حصہ کے لوگوں کو جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اسی حصہ  
میں مسجد کے کچھ مکان ہیں، یہاں کے مسلمان چاہتے ہیں کہ کرایہ داروں سے مکان خالی کر کے  
یہاں ایک دوسری مسجد کی تعمیر کر لیں، متولی صاحب بھی رضامند ہیں، از روئے شرع کیا ایسا کیا  
جاسکتا ہے؟ کیا پریشانی کے پیش نظر مسجد کے مکانوں کو مسجد کی شکل دی جاسکتی ہے، یعنی ان مکانوں  
کو منہدم کر کے مسجد بنائی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ضرورت کے وقت اہل محلہ اور ذمہ داران مسجد کے مشورہ  
سے ان مکانات کی جگہ نئی مسجد تعمیر کرنے کی گنجائش ہے؛ تاہم یہ نئی مسجد انتظام میں پہلی مسجد کے تابع  
رہے گی، یعنی دونوں مسجدوں کا متولی ایک ہی شخص ہوگا؛ تاکہ جہت وقف کی رعایت رکھی جاسکے۔

في الفتح: ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه، زاد في البحر عن الخانية: بأمر القاضي، وتقييده، بقوله: وقف عليه: أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفاً على غيره لم يجز لكن جواز أخذ المملوكة كرها يفيد الجواز بالأولى؛ لأن المسجد لله تعالى، والوقف كذلك. (شامي، كتاب لوقف / مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً ٥٧٦-٥٧٧ زكريا) فقط واللّه تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۹/۱۱ھ

## مدرسہ کے کمرے کو مسجد میں شامل کرنا

**سوال (۱۳۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم گاؤں والوں نے مشورہ کیا ہے کہ مدرسہ کے کمرہ کو شہید کر کے مسجد میں شامل کریں، اور مسجد میں ۲۰ یا ۲۵ فٹ کا اضافہ کرنا ہے تو یہ درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ نقشہ میں مدرسہ کے نام سے جو کمرہ بنا ہوا ہے اگر یہ مسجد ہی کی ملکیت ہے تو اُس کو توسیع مسجد میں شامل کرنا بلاشبہ جائز ہے، شرعاً اُس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰۰/۱)

أرض وقف على مسجد، والأرض بجنب ذلك المسجد، وأرادوا أن يزيّدوا في المسجد شيئاً من الأرض جاز. (الفتاوى الهندية / الباب الحادي عشر في المسجد ٤٥٦٢، خلاصة الفتاوى / الفصل الرابع في المسجد وأوقافه ٤٢١٤ رشيدية، فتاوى قاضي

خان / باب الرجل يجعل داره مسجداً ٢٩٣٣ زكريا) فقط واللّه تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۵/۷/۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی قبر کو برابر کر کے مسجد میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: صوبہ راجستھان کی ایک تحصیل چھپا بڑو ضلع باران میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور اب وہ نمازیوں کے لئے ناکافی ہے، اور مسجد کی دیوار سے متصل ایک پختہ قبر ہے، جو تقریباً سو سال سے ہے، اور موجودہ لوگوں میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی قبر ہے، اور اب لوگ مسجد کو وسیع و کشادہ کرنا چاہتے ہیں کہ پختہ قبر کو توڑ کر مسجد کے احاطہ میں لے لیں، تو کیا از روئے شرع اس طرح کر سکتے ہیں؟ اور مسجد کے احاطہ میں کر کے اس جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر جلد ہونے والی ہے، جواب جلد مرحمت فرمادیں نوازش ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر یہ قبر مسجد کی مملو کہ زمین کے احاطہ میں ہے یا مملو کہ قبرستان میں ہے اور مالکین اس کو مسجد کی حدود میں شامل کرنے پر راضی ہیں، تو اس قدیم پختہ قبر کو برابر کر کے اُسے مسجد میں شامل کرنا اور اس جگہ نماز پڑھنا بلاشبہ درست ہے۔

قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً، لم أر بذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناها على هذا واحد. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري/

باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ۱۷۹/۴ إدارة الطباعة المنيرية دمشق)

جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وصار تراباً الخ. (الدر المختار ۱۴۵/۳ زكريا)

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة / باب الجنائز ۵۸۹/۱ كراچی، وكذا في الفتاوى الهندية، الباب الحادي

والعشرون في الجنائز / الفصل السادس في القبر والدفن الخ ۱۶۷/۱ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۲/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی قبروں پر لینسٹر ڈال کر مسجد میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۳۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد کے صحن میں کچھ پرانی قبریں ہیں، مگر اب نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد تنگ پڑنے لگی ہے، جس کی وجہ سے سبھی نمازیوں کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ قبروں کے اوپر لینسٹر ڈال کر صحن کو کشادہ کر لیا جائے، تاکہ مسجد کی تنگی کی پریشانی ختم ہو جائے؛ کیوں کہ سال کے آٹھ مہینے ایسے گذرتے ہیں کہ چار یا تین وقت کی نماز صحن میں پڑھی جاتی ہے، تو مسجد کے نمازیوں کا یہ عمل درست ہوگا یا غلط؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبریں اگر پرانی اور بوسیدہ

ہو جائیں اور مسجد میں توسیع کی ضرورت ہو، تو ان قبروں کے آثار کو مٹا کر اُس جگہ کو مسجد میں شامل کرنے کی گنجائش ہے، یہ جزئیہ کتب فقہ میں موجود ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے ضرورت کے وقت پرانی قبروں پر لینسٹر ڈال کر اُس کے اوپر نماز پڑھنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ

۴۰۹/۶، عزیز الفتاویٰ ۱/۵۹۳)

قال ابن القاسم رحمه الله: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناها على هذا واحد. (عمدة القاري / باب: هل تبش قبر

مشرکي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ۱۷۹/۴ إدارة الطباعة المنيرية دمشق) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ ۱۴۲۶/۳/۱۸

## غسل خانہ کی جگہ کو صف میں شامل کرنا

**سوال (۱۳۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی مسجد میں تین غسل خانے ہوں، اور ان کا استعمال صحیح نہ ہوتا ہو، جیسے کہ لوگ اس کو کبھی کبھی پاخانہ کی جگہ بھی استعمال کسی کو بتائے بغیر چپکے سے کر جاتے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان میں سے دو غسل خانوں کو شہید کر کے اس جگہ کو نمازیوں کے استعمال میں لانے کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ یا اس کو محلہ والے ہی شہید کرا کر اپنی مرضی سے ٹھیک کرا سکتے ہیں؟ اور ایک ہی غسل خانہ سے کام چلا سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اہل محلہ اگر مناسب سمجھیں اور مسجد میں ضرورت بھی نہ ہو، تو آپسی مشورہ سے ضرورت کے مطابق مسجد کے غسل خانوں میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

ثم ذكر الشرنبلالي أن هذا في المسجد بخلاف حوض و بئر، فقد ذكر في التاتارخانية وغيرها جواز نقلها. (شامي / مطلب في مالو حرب المسجد أو غيره ۳۶۰/۴ کراچی، ۵۵۰/۶ زکریا)

أرض وقف على مسجد والأرض بجانب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئاً من الأرض جاز. (الفتاوى الهندية / الباب الحادي عشر ۴۵۶/۲ زکریا، البحر الرائق / فصل في أحكام المسجد ۲۵۶/۵ کوئٹہ، الدر المختار مع الشامي / مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً ۳۷۹/۴ دار الفکر بیروت، ۵۷۶/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۳/۲/۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## کیا بیت الخلاء کو مسقف کر کے مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے؟

**سوال (۱۳۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے محلہ میں ایک مسجد ہے، جس میں نیچے کی منزل مدرسہ کے ہال اور کمروں پر مشتمل ہے، بالائی منزل میں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن جمع کی کثرت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نماز دھوپ میں پڑھنی پڑتی ہے، اب بجائے آگے کے حصہ کے مسقف کرنے کے مسجد کی داہنی طرف تقریباً ۱۲-۱۳ فٹ جگہ ہے، اور تقریباً ۸-۹ فٹ کی دوری پر بیت الخلاء واقع ہے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر مسجد کو بارہ یا تیرہ فٹ بڑھایا جاتا ہے تو اس حالت میں بیت الخلاء مسجد کے نیچے کے حصہ میں آجاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ یا پھر بیت الخلاء والی جگہ کو مسجد میں شامل نہ کر کے ۸/۹ یا ۹/۸ فٹ مسجد کو بڑھایا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے بیت الخلاء کی چھت کو مسجد کی توسیع میں شامل

کیا جاسکتا ہے۔

لو جعل الواقف تحته بیتاً للخلاء هل يجوز؟ كما في مسجد محلة الشحم في دمشق لم أره صریحاً. (شامی، کتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱ کراچی، ۴۲۸/۲ زکریا) وقال الرافعي: ثم رأيت في غاية البيان ما يفيد الجواز. (تقریرات الرافعي ۸۵/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۲/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## استنجاء خانے کو توڑ کر مسجد کے صحن میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۳۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے صحن سے باہر ایک استنجاء خانہ ہے، جس کو توڑ کر کارکنان مسجد کے صحن کی توسیع کے

لئے صحن میں داخل کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** استنجاء خانہ کو توڑ کر صحن مسجد کی توسیع میں شامل کرنا شرعاً درست ہے؛ لیکن اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ استنجاء خانہ کی جگہ پر بدبو وغیرہ بالکل باقی نہ رہے، مسجد میں شامل کرنے سے پہلے ہی اس کو دور کرنا ضروری ہے۔

ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض يدخل فيه. (شامی / مطلب في جعل شيء من

المسجد طريقاً ۵۷۶/۶ زکریا)

وفي الكبرى: مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجداً والمسجد رحبةً، وأرادوا أن يحدثوا له باباً، وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك، فإن اختلفوا، نظر: أيهم أكثر وأفضل، فلهم ذلك، كذا في المصمرات.

(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۵۶/۲ زکریا، الفتاوى

الناتارخانية، كتاب الوقف / أحكام المساجد ۸۴۱/۵ إدارة القرآن کراچی، ۱۵۷/۸ رقم: ۱۱۵۰۰

زکریا، وكذا في البزازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الربع في المسجد وما يتصل به

۲۶۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۳/۲۰۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## رفاہ عام کے کنویں کو مسجد میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۴۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: ایک مسجد میں مصلیان کی ضرورت کے لئے کنواں تھا، سارے مصلی و وضو غسل کی ضرورت پوری کرتے تھے، وہ تو بند کر کے نل لگوادیا گیا، اس کنواں کے علاوہ ایک کنواں مسجد کے گیٹ کے سامنے تھا، اس سے محلہ کے افراد مسلم غیر مسلم اپنی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔

دریافت کرنا یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کنواں اور کنواں والی جگہ مسجد میں لے لی جائے اور کچھ حضرات منع کر رہے ہیں کہ نہیں اس جگہ کو مسجد میں نہیں لے سکتے؛ کیوں کہ مسجد کو ایسی جگہ نہیں چاہئے، اگر مسجد کی توسیع کرنی ہے تو ایک صاحب کی جگہ جو کہ مسجد کے برابر میں ہے، اس کو خرید لو، ہم برابر مسجد کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور مسجد کی برابر والی جگہ اگر سبھی حضرات خریدنا چاہیں، تب مسجد کو جگہ مل جائے گی۔ معلوم کرنا یہ ہے کہ مسجد کے گیٹ کے سامنے جو کنواں ہے جس سے مسلم غیر مسلم اپنی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، وہ جگہ مسجد میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو کنواں مسجد کی حدود کے اندر اور مسجد کی ملکیت میں تھا، اُسے پاٹ کر مسجد کی توسیع میں شامل کرنا بلاشبہ درست ہے، اور جو کنواں مسجد کے گیٹ کے باہر تھا جس سے عام لوگ بلا امتیاز پانی لیا کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کاغذات میں وہ مسجد کی ملکیت میں داخل ہو تو اُسے مسجد کے اندر شامل کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر وہ کاغذات میں مسجد کی ملکیت میں داخل نہ ہو تو بظاہر یہ جگہ میونسپلٹی یا گرام پंचایت کی ملکیت ہوتی ہے، تو اُس کی اجازت کے بغیر اس جگہ کو مسجد کی توسیع میں شامل کرنا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۰۰۱)

وفي الكبرى: مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدًا والمسجد رحبة، وأرادوا أن يحدثوا له بابًا، وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك، فإن اختلفوا، نظر: أيهم أكثر وأفضل، فلهم ذلك، كذا في المصمورات.

(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۰۶/۲ زكريا، الفتاوى الساترخانية، كتاب الوقف / أحكام المساجد ۸۴۱/۵ إدارة القرآن كراچی، ۱۵۷/۸، رقم: ۱۱۵۰۰ زكريا، وكذا في البزازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الربع في المسجد وما يتصل به ۲۶۸/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مسجد کی توسیع کے بعد محراب کہاں بنائیں؟

**سوال (۱۴۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محراب کو اپنی سابقہ جگہ سے ہٹا کر مسجد کے بیچ میں لانا پڑے گا یا دہنی جانب صقوں کے بڑے ہونے کی کوئی گنجائش ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ صورت میں محراب بدل کر بیچ میں بنانی چاہئے۔

السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد، وهي قد عينت لمقام الإمام. (شامی، کتاب الصلاة / باب الإمامة، مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب ۵۶۸/۱ کراچی، ۳۱/۲، ۳۱ زکریا، کذا فی الفتاویٰ

التاتاریخانیة / ما یکره للمصلی وما لا یکره ۵۶۸/۲ إدارة القرآن کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۳/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## قدیم مسجد میں قبلہ سے معمولی انحراف مضر نہیں

**سوال (۱۴۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے یہاں کی جامع مسجد جو کہ قدیمی تعمیر ہے، گا ہے بگا ہے اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، مگر موجودہ وقت میں جگہ کی قلت کی بنیاد پر پھر اُس کی توسیع کا مرحلہ درپیش ہے، قدیمی تعمیر میں قطب نما سے دیکھنے پر قبلہ تھوڑا دہنی طرف ہے، کیا قدیمی تعمیر کے رخ پر ہی اُس کی توسیع کر دی جائے یا درست کر لیا جائے، درستگی میں پوری مسجد شہید کر دی جائے، پھر اُس کی تعمیر جدید ہو یا جدید کی درستگی اور قدیم اپنی حالت پر چھوڑ دی جائے، نچلے حصہ میں تہ خانہ بنانے کا ارادہ ہے، اور اوپر مسجد، کیا تہ خانہ میں رہائشی کمرے، دوکانیں، گودام مدرسہ، پارکنگ، ہال اعلیٰ یا عوامی ضرورت کے لئے یا کرایہ پر اور کسی ضرورت کے لئے تہ خانہ کا استعمال درست ہے؟ اور مذکورہ ضرورتوں کے

لئے مسجد کے نیچے تہہ خانہ بنایا جاسکتا ہے، مسجد کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** قطب نما کے اعتبار سے اگر مذکورہ مسجد کے قبلہ میں معمولی فرق ہے، تو اُس کی وجہ سے جہت قبلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا؛ لہذا اگر پرانی بنیادوں پر ہی مسجد کی جدید تعمیر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر باسانی قطب نما کے مطابق قبلہ کی جہت بنائی جاسکے تو اُس کی بھی گنجائش ہے، اور مسجد میں جو جگہ پہلے سے نماز پڑھنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے اُس کے نیچے اگر تہہ خانہ تعمیر کیا جائے تو لازم ہوگا کہ اُسے صرف نماز ہی کی ضرورت کے لئے استعمال کریں، پارکنگ، دوکان اور ہال وغیرہ کے لئے اُس تہہ خانہ کو استعمال نہیں کیا جاسکتا؛ البتہ اگر مسجد کے ارد گرد کی جگہ (جماعت خانہ کے علاوہ) کے نیچے تہہ خانہ بنایا جائے، تو اُسے مسجد کے مفاد میں مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۴۱۲، فتاویٰ رحمیہ ۲۵۱/۹، کفایت المفتی ۳۳۷/۷، ۲۸/۷)

فیعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرفاً لا تزول منه المقابلة بالكلية

جاز. (شامی، کتاب الصلاة / بحث استقبال القبلة ۱۰۹/۲ زکریا)

قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفًا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية. (شامی، کتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۵۴۷/۶ زکریا) فقط  
واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۲۷/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجدِ شرعی

## مسجد کا اطلاق کن کن حصوں پر ہوتا ہے؟

**سوال (۱۴۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کسے کہتے ہیں؟ احاطہ مسجد کے مختلف حصوں کو الگ الگ ناموں سے موسوم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً جماعت خانہ، صحن مسجد، متعلقات مسجد، خارج مسجد وغیرہ، اگر کیا جاسکتا ہے، تو احکام مسجد کے پیش نظر داخل مسجد کی حدود متعین کرنا وہاں کوئی علامت اسٹیکر کالی یا ہری پٹی کے ذریعہ نشان دہی کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اصلاً مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں:

(۱) مسجدِ شرعی، جسے جماعت خانہ بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ پورا حصہ ہے، جہاں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، جس میں اندورنی و بیرونی سب حصے شامل ہیں۔

(۲) ملحقاتِ مسجد، جسے متعلقاتِ مسجد یا خارج مسجد وغیرہ بھی کہا جاسکتا ہے، اس سے مراد وہ تمام مسجد کے ملحق حصے ہیں، جو جماعت خانہ اور مسجدِ شرعی سے الگ ہیں، جن میں وضو خانہ، امام و مؤذن کے کمرے چٹائی وغیرہ رکھنے کے اسٹور اور جماعت وغیرہ سب شامل ہیں، اور مسجدِ شرعی کے امتیاز کے لئے کوئی بھی علامت لگانا شرعاً منع نہیں ہے؛ بلکہ بہتر ہے؛ تاکہ محکمکفین کے لئے سہولت ہو۔ (امداد الفتاویٰ ۷۳۷/۶۳۹-۶۳۹، فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۳۱۸ ذی بحیل)

لا یظن أن ما حول بئر زمزم یجوز الوضوء أو الغسل من الجنابة فیہ؛ لأن حریم زمزم یجری علیہ حکم المساجد، فیعامل بمعاملتها: من تحریم البصاق،

والمکث مع الجنابة فيه، ومن حصول الاعتكاف فيه، واستحباب تقديم اليمينی،  
بناء على أن الداخل من المسجد لمسجد یسن له ذلك. (شامی، باب ما یفسد  
الصلاة وما یکره فيها / مطلب في رفع الصوت بالذكر ۴۳۴/۲ زکریا)

یکره التوضوء في المسجد إلا إذا كان فيه موضع أعد لذلك؛ لأنه  
مستثنى منذ حیثئذ. (الحلی الكبير ۶۱۱ لاہور)

ولا بأس بأن يتخذ في المسجد بیت یوضع فيه الحصر، ومتاع المسجد  
به جرت العادة من غیر نکر. (الحلی الكبير ۶۱۲ لاہور)

وكذا الخياطة فيه تکره إلا إذا كان لضرورة حفظه عن الصبيان  
ونحوهم. (الحلی الكبير ۶۱۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۳/۲۰۱۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے دور ہونے کی وجہ سے عید گاہ کو مسجد بنانا؟

**سوال (۱۴۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: ہمارے گاؤں جس میں تقریباً تین ہزار لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اُس میں تین مسجدیں بھی  
ہیں؛ لیکن ہمارے محلہ سے وہ تینوں مسجدیں کافی دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے محلہ کے تقریباً سبھی  
افراد اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر لیتے ہیں، اور دور ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں،  
ہاں ہمارے محلہ میں ایک عید گاہ ہے جو اب آبادی میں آگئی ہے، اور اس کو ہمارے محلہ کے لوگ مسجد  
بنانا چاہتے ہیں، تو کیا اُس عید گاہ کو مسجد بنانا جائز ہے، فی الحال پنجوقتہ نمازیں ادا کی جائیں گی اور  
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی اسی میں ادا کی جائیں گی، تو کیا اس طرح عید گاہ کو مسجد بنانا جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عام اہل محلہ و اہل شہر کے مشورہ سے اُس عید گاہ کو مستقل

مسجد بنانے کی شرعاً گنجائش ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: 'يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا'. قالوا: لا والله! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. (صحيح البخاري، كتاب الوصايا / باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ۳۸۸/۱ رقم: ۲۷۷۱ دار الفكر بيروت)

فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تملكه لأحد فمعناها على هذا واحد. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري / باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية الخ ۱۷۹/۴ دمشق) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۱۱/۱۳۱۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## کیا عید گاہ کا میدان مسجد شرعی کے حکم میں ہے؟

**سوال (۱۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا عید گاہ کے میدان کو مسجد کہا جا سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عید گاہ کا اصل میدان شرعاً مسجد کے حکم میں ہے۔

إن مصلى العيد له حكم المساجد. (شامی / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱

کراچی، ۲۰۱۲ء زکریا)

اور وہ ملحقہ میدان جو اصلی حدود میں واقف نے شامل نہیں کیا ہے، اُس کا حکم مسجد کے مانند

نہیں ہے، وہ فناء مسجد کے حکم میں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۳۱۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانے سے مسجد شرعی بن جاتی ہے

**سوال (۱۴۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں ایک جگہ ایک شخص نے دینی کام کرنے کے لئے دی تھی، اس میں مدرسہ کا اجراء کر دیا گیا، گاؤں میں ایک مسجد تھی، دوسری کی ضرورت بھی سمجھی گئی، تو اس زمین میں آدھی میں مدرسہ اور آدھی میں مسجد بنادی گئی، سال دو سال نماز پڑھتے ہوئے اس مسجد میں ہو گئے، تو گاؤں والوں میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ صرف مدرسہ کے لئے ہے، مسجد دوسری جگہ بناو، تو اب جب کہ اس میں سالوں سے نماز اور اذان جماعت امام رکھ کر نماز ہو رہی ہے، اس جگہ کو مسجد سے خالی کیا جاسکتا ہے، یا وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہوگئی؟ اس کو خالی نہ کیا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ جگہ مسجد ہوگئی ہے اُسے خالی نہ کرایا جائے، مسجد بنانا

مدرسہ کے وقف کے منافی نہیں ہے۔ (مستفاد: یعنی بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۱/۵۸۷، ۱/۴۸۷، ۱/۴۸۸، ۱/۴۸۹)

ويبدأ من غلته بعمارتہ، ثم ما هو أقرب لعمارتہ كإمام مسجد و مدرس  
مدرسة (الدر المختار) قوله: شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة،  
وأعم للمصلحة، كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة.....، ثم السراج  
والبساط، كذلك إلى آخر المصالح. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب: يبدأ بعد العمارة  
الخ ۳۶۶/۴ كراچی، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۶/۵ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب  
الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۶۲/۲ زكريا)

مدرسة ما بينى لكنى طلبه العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس، لكن  
إذا كان فيها مسجد، فحكمه كغيره من المساجد، ففي وقف القنية: المساجد  
التي فيها المدارس مساجد؛ لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها، وإذا أغلقت  
يكون فيها جماعة من أهليها. (شامي، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها / مطلب في أحكام

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۱/۲۳ھ

## مسجد کی دوکانوں کو مسجد میں شامل کرنے سے اُس پر بھی مسجدِ شرعی کے احکام جاری ہوں گے

**سوال (۱۴۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک بڑی جامع مسجد ہے، جس کی حدود میں کئی دوکانیں قدیم زمانہ سے بنی ہوئی تھیں، اور اُن کا کرایہ مسجد میں آتا تھا، بعد میں مسجد کی توسیع ہوئی اور مسجد کے صحن میں قدیم تعمیر شدہ دوکانوں کی چھت کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چھت کا حصہ مسجدِ شرعی میں شامل سمجھا جائے گا یا نہیں؟ مثلاً معتکف اگر وہاں تک آئے تو اُس کا اعتکاف فاسد تو نہ ہوگا؟ اور کیا اس جگہ نماز پڑھنے سے مسجد کے ثواب میں کچھ کمی تو نہ آئے گی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں توسیع شدہ مسجد کا حصہ مسجدِ شرعی قرار دیا جائے گا؛ کیوں کہ نیچے کی دوکانیں پہلے سے مسجد پر وقف ہیں، اور مصالحِ مسجد کے لئے مستعمل ہیں۔ (امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۳)

وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفاً عليه صار

مسجداً. (شرنبلالیہ . شامی / مطلب فی احکام المسجد ۳۰۷/۴ کراچی، ۵۴۷/۶ زکریا)

بریں بنا اس اضافہ شدہ حصہ تک معتکف آسکتا ہے، اور وہاں نماز پڑھنے سے ثواب میں کمی

نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۱/۵ھ

## مسجد شرعی قائم ہونے کے بعد اُس حصہ پر دوکان بنوانا؟

**سوال (۱۳۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی زمین کو برائے مسجد وقف کیا، اور اس زمین پر چھپر پوش عمارت بنا کر لوگ ایک لمبے عرصہ تک نمازیں بھی پڑھتے رہے، درمیان میں اس جگہ نماز کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب لوگ چاہتے ہیں کہ مذکورہ زمین پر اچھی شکل میں مسجد قائم ہو جائے، چوں کہ اس جگہ مسجد کی اشد ضرورت ہے؛ لیکن اس محلہ کے چند افراد یہ چاہتے ہیں کہ مذکورہ مسجد کی زمین سے متصل مکان مالک کے حوالے مسجد کی زمین کو کر دیا جائے، اس طور پر کہ وہ شخص نیچے کے حصہ میں اپنی دوکان تعمیر کر لیں اور اس کے اوپر اس زمین کے عوض نماز گاہ بنادیں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کی مذکورہ زمین جس میں ایک لمبے عرصہ تک نمازیں بھی ہوئی ہیں، نیچے کے حصہ کو اس شخص کے حوالہ کر دینا کہ وہ نیچے حصہ میں دوکان بنالیں، اور اوپر کے حصے کو اس کے عوض نماز گاہ بنادیں، شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ نیز مسجد کی زمین کو اس طرح لینا شرعاً کیسا ہے؟ جواب باصواب سے رہنمائی فرمائیں، کرم ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو جگہ مسجد کے لئے وقف کی جا چکی ہے اور وہاں عرصہ دراز تک نماز بھی ادا کی جاتی رہی ہے، اس جگہ کو کسی دوسرے شخص کے حوالہ کر کے وہاں دوکان وغیرہ بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، اس جگہ اوپر سے نیچے تک مسجد ہی کے استعمال میں لانا لازم ہے، اُس حصہ میں دوکانیں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار، كتاب الوقف

/ مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله: موقوفة وقوله: فموقوفة على فلان ۳۵۱/۴ کراچی، ۵۳۹/۶ زکریا)

قلت: وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقيم التسليم بلا خلاف حتى أنه

إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة؛ فإنه يصير مسجداً. (شامی /

مطلب في أحكام المسجد ۵۴۵/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۱۳/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجدِ شرعی کے حصہ میں دوکان بنانا درست نہیں

**سوال (۱۴۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد نئی بازار محمود آباد کی قدیم ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جس میں چند دوکانیں تھیں، اور وہ دوکانیں کافی بوسیدہ ہو کر گر گئیں، چونکہ مسجد تنگ ہونے کی وجہ سے ان دوکانوں کی جگہ کو مسجد میں داخل کر لیا گیا ہے، اور اب مکمل طور پر اس حصہ میں نماز ہو رہی ہے، کیا اب اس جگہ دوکانیں بنوانا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد سے ملحق دوکانیں چونکہ اب مسجدِ شرعی میں داخل

کر لی گئی ہیں، اور وہاں نماز بھی ہو رہی ہے؛ لہذا اب اس جگہ پر دوکانیں بنانا قطعاً جائز نہیں۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف

/مطلب في أحكام المسجد ۵۴۸/۶ زکریا)

قيم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فناءه؛ لأن

المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكناً تسقط حرمة وهدأ لا يجوز. (الفتاوى الهندية،

الباب الحادي عشر / مطلب لوقف على عمارته ومصالحه سواء على الأصح ۴۶۲/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۸/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نئی انتظامیہ کا مسجدِ شرعی کی متعینہ حدود میں رد و بدل کرنا جائز نہیں

**سوال (۱۵۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: پنجابی مسجد محلہ نیل گراں شہر بے پور کے تفصیلی حالات استفتاء لکھ کر مختلف معتبر دارالافتاء سے فتویٰ منگا لیا گیا ہے، جس کی ایک فوٹو کاپی اس استفتاء کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے؛ لیکن اس کے باوجود نیت پر بات اٹکادی گئی کہ گذشتہ انتظامیہ نے جب اصل مسجد تیرہ صفوں تک بنائی تھی، تو کیا داخل مسجد کی نیت کی تھی یا نہیں؟ جب کہ صورت حال یہ ہے کہ گذشتہ انتظامیہ کے اکثر لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ حضرات ابھی موجود ہیں، وہ حضرات ابھی تک کچھ واضح نہیں کر پارہے ہیں، جدھر کا دباؤ بڑھے گا، ادھر کی بات کہی جاسکتی ہے، جب کہ تیرہ صفوں تک متعینہ اصل مسجد و داخل مسجد ہونے پر عوام و خواص میں اتفاق رہا ہے، آج تک کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، نہ پچھلی انتظامیہ نے نہ نئی انتظامیہ نے جو تین سال سے کام کر رہی ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کو تیرہ صفوں تک جانے سے کسی نے نہیں روکا اور یہ نہیں کہا کہ آٹھ صفوں تک تو داخل مسجد ہے اور باقی متعلقہ مسجد نہ پچھلی انتظامیہ نے جس نے مسجد بنائی تھی اور نہ نئی انتظامیہ نے جو مسجد تیرہ صفوں سے گھٹا کر آٹھ صفوں تک رکھنا چاہتی ہے، اور باقی پچھلی صفوں میں وضو خانہ وغیرہ بنانا چاہتی ہے، جب پچھلی انتظامیہ نے تیرہ صفوں تک مسجد بنائی تھی، تو سب نے ہی داخل مسجد تیرہ صفوں تک سمجھا تھا، انتظامیہ نے بھی اور عوام و خواص نے بھی، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ معتکفین کو تیرہ صفوں تک نفلی نمازوں اور کھانے پینے کے لئے آنے جانے پر کبھی روک نہیں لگائی گئی، اگرچہ پچھلی انتظامیہ نے تحریری طور پر اپنی نیت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ مانگ پر اپنی نیت کا اعلان کیا تھا، اور نہ نیت بتانے کے لئے کسی تقریب و دعوت کا اہتمام کیا تھا؛ لیکن تیرہ صفوں تک اس طرح مسجد بنا دی تھی کہ ہر عام و خاص مسجد دیکھ کر یہی سمجھ گا کہ تیرہ صفوں تک داخل مسجد ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ گذشتہ انتظامیہ کا تیرہ صفوں تک اصل مسجد بنا دینا، اور عوام و خواص کا تیرہ صفوں تک داخل مسجد سمجھ لینا، اور اب تک انتظامیہ وغیرہ میں سے کسی کا اس پر انکار نہ کرنا، کیا اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ تیرہ صفوں تک اصل مسجد ہے، متعینہ مسجد ہے، داخل مسجد ہے، کیا نیت کا اعلان و اہتمام یا تحریر ضروری ہے؟ دوسری بات یہ کہ مسجد کا واقف کون ہے کسی کو معلوم نہیں؟

اور نہ کسی زمانے میں مسجدِ شرعی کا متولی رہا ہے، مسجد کی انتظامیہ بحیثیتِ خادمِ خدمت کرتی آ رہی ہے جو بدلتی رہتی ہے، اب جب کہ نہ واقف معلوم ہے اور نہ متولی، تو اب داخل مسجد و خارج مسجد کی نیت کا حق کس کو حاصل ہے؟ کیا انتظامیہ کے ممبران کو یا عرف عام کو؟ اور جب کہ تیرہ صفوں تک اصل مسجد بنا دی گئی اور عوام و خواص، انتظامیہ وغیر انتظامیہ نے عملاً تیرہ صفوں تک مسجد سمجھی، جو نیت کی واضح دلیل ہے، اس کے خلاف گذشتہ انتظامیہ کے کچھ ممبران جو زندہ ہیں، اگر وہ اب نیت کا اعلان کریں یا نیت بدل دیں کہ تیرہ صفوں تک مسجد نہیں مانتے؛ بلکہ آٹھ صفوں تک کی ہی ہم نیت کرتے ہیں، جب کہ اب تک سب کے سب عملاً مانتے رہے کہ تیرہ صفوں تک متعینہ مسجد ہے، تو کیا ایسے ممبران کی نیت کا کوئی اعتبار ہوگا؟

حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تفصیلی سوال کی روشنی میں جو صورت حال کھل کر واضح ہوتی ہے، اس سے متعلق شریعت کی پوری رہنمائی مفصل اور واضح الفاظ میں فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جن تیرہ صفوں تک مسجد مذکورہ میں عرصہ دراز سے مسجدِ شرعی والا معاملہ کیا جاتا رہا ہے، یعنی وہاں تک باقاعدہ نماز ہوتی ہے، اور معتکف حضرات بلا روک ٹوک وہاں آتے جاتے ہیں، تو یہ تعامل اس جگہ کے مسجدِ شرعی میں داخل ہونے کے لئے کافی ہے، نئی انتظامیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس جگہ یا اس کے کسی حصہ کو مسجد سے خارج قرار دے، احتیاط اسی میں ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع، ولو قال عنيت بذلك لم يصدق. (الدر المختار) أي بالقول على المفتي به أو بالصلاة فيه على قولهما.

(الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ٥٤١٦/٥ ذكرها) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۳/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجدِ شرعی میں دائیں بائیں خالی جگہ چھوڑ کر صرف بچھانا؟

**سوال (۱۵۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجدِ شرعی ہے، اگر اس مسجد کے اندر کے حصے میں یا مسجدِ شرعی کے کسی بھی حصہ میں دونوں طرف خالی چھوڑی جائے اور بیچ میں صف بچھادی جائے، تو ایسا کرنے میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس طرح صفیں بچھانے میں تو کوئی خرابی نہیں آئے گی؛ البتہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کے ثواب میں مجموعی طور پر کمی آجائے گی؛ کیوں کہ اگر صفیں پوری بچھائی جائیں، تو اگلی صف میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور دونوں طرف جگہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو جاتی ہے۔

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "وعلى الثاني". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سُوُواْ صَفُوْفِكُمْ، وَحَاذُواْ بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُواْ فِيْ أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسَدُواْ الْخَلَلَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ"، يعني أولاد الضأن الصغار. (رواه أحمد والطبراني، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب الصلاة / الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والترص فيها الخ ص: ۱۱۸ رقم: ۷۰۶ بيت الأفكار الدولية)

وفي القنية: والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني، وفي الثاني أفضل من الثالث هكذا؛ لأنه روي في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولاً على الإمام، ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول، ثم إلى

الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني، وروى عنه عليه السلام أنه قال: يكتب للذي خلف الإمام بحدائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة، وللذي في الجانب الأيسر خمسون صلاة، وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة. (بحر الرائق / كتاب الصلاة ۳۰۴/۱ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۷/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے بالائی حصہ کا رقبہ اگر تختانی حصہ سے زائد ہو، تو وہ مسجد شرعی میں داخل ہوگا یا نہیں؟

**سوال (۱۵۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جس کے نیچے کا حصہ ۳۰×۳۰ کا ہے، شمال اور جنوب میں ۲۰×۲۰ کے کمرے ہیں اور مسجد کا اوپر حصہ ۵۰×۵۰ کا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کے اوپر کا حصہ ۵۰×۵۰ پورا مسجد میں شامل ہوگا یا نہیں؟ اور نیچے کے مقابلے میں اوپر کا جو حصہ زائد ۲۰×۲۰ ہے، اس میں اعتکاف کیا حکم ہوگا؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر مسجد کے اوپر منزل کے ۲۰×۲۰ زائد حصہ کے نیچے کا رقبہ مسجد ہی کی ملکیت میں داخل ہے یا مسجد پر وقف ہے اور اوپر کے پورے رقبہ کو مسجد کے متولی یا کمیٹی نے مسجد شرعی میں داخل کر لیا ہے، تو یہ پورا رقبہ اصل مسجد میں داخل مان لیا جائے گا اور معتکف کے لئے وہاں آنا جانا درست رہے گا؛ لیکن اگر اس زائد رقبہ کا نچلا حصہ مسجد کی ملکیت یا اس پر وقف نہیں ہے یا وقف تو ہے؛ لیکن ذمہ داران نے اوپر کے پورے حصے کے مسجد ہونے کی نیت نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ زائد حصہ مسجد شرعی میں شامل نہیں ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۳/۲۵۷)

وإذا بنى مسجداً لا يصير مسجداً، حتى يقر بلسانه أنه مسجد لا يباع



ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث وفتح الباب وأذن فيه وأقيم وأذن للناس بالدخول فيه عامةً فيصير مسجدًا إذا صلى بجماعة فيه. (الفتاوى الشارعية ۱۰۶/۸ رقم: ۱۱۴۹۵ زكريا، ونحو ذلك في الشامي، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۴۵/۶-۵۴۶ زكريا، مجمع الأنهر / كتاب الوقف ۵۹۳/۲، بدائع الصنائع / كتاب الوقف ۳۲۸/۵، البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۴۸/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۷/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عارضی جگہ پر نماز پڑھنے سے وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتی

**سوال (۱۵۳):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک جگہ میں عارضی طور پر نماز اور تراویح ہوتی رہی، پھر باقاعدہ مسجد بنانے کے لئے دوسری جگہ ملی اور وہاں مسجد بنائی گئی، اب مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو کیا پہلی جگہ میں کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ رہ سکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** کسی زمین پر عارضی طور پر چند ماہ نماز پڑھنے سے اس

پر مسجد شرعی کے احکامات جاری نہیں ہوں گے؛ لہذا بعد میں اس جگہ کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ ۱۵۸۲، کفایت المفتی ۵۵/۷)

وإما أن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة ففي هذا الوجه لا تصير

الساحة مسجدًا. (الفتاوى الهندية، الباب الحادي عشر / الفصل الأول ۴۵۵/۲)

رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قومًا أن يصلوا فيها ..... وإن أمرهم

بالصلاة شهرًا أو سنةً، ثم مات يكون ميراثًا عنه؛ لأنه لا بد من التأبید، والتوقيت

يُنافي التأبید. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره

مسجدًا الخ ۲۹۰۱۳ - ۲۹۱ زکریا، وکذا فی الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / الباب الحادی عشر،  
الفصل الأول ۴۵۵۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ  
۱۴۲۶/۱/۶ھ

## فیکٹری کے ایک کمرہ کو مسجد کے نام سے موسوم کرنا؟

**سوال (۱۵۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں ایک فیکٹری میں ایک کمرہ مسجد کے نام سے موسوم ہے اور نماز کے لئے خاص کر دیا گیا ہے؛ لیکن اس کی چھت پر شعبہ ادویات قائم ہے، کیا یہ جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں فیکٹری میں نماز کے لئے مخصوص کمرہ مسجد شرعی کے حکم میں نہ ہوگا، وہاں نماز پڑھنا اگرچہ بلا کراہت درست ہے؛ لیکن اُسے مسجد شرعی نہیں کہا جائے گا اور وہاں اعتکاف بھی درست نہ ہوگا۔

ولایکمرہ ما ذکر فوق بیت جعل فیہ مسجد بل ولا فیہ؛ لأنہ لیس بمسجد شرعاً. (الدر المختار، کتاب الصلاة / مطلب: فی أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، ۴۲۹/۲ زکریا)  
قال فی الدر: ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بیتاً وجعل باب المسجد إلى طریق وعزله عن ملکہ لا یکون مسجداً.....، کما لو جعل وسط داره مسجداً وأذن للصلاة فیہ حیث لا یکون مسجداً. (الدر المختار علی الشامی، کتاب الوقف / مطلب فی أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ  
۱۴۲۱/۸/۱ھ

## گورنمنٹ کا آفسوں میں نماز پڑھنے کے لئے ہال بنانا؟

**سوال (۱۵۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: بہت سے گورنمنٹ آفسوں میں اسٹاف کے نماز پڑھنے کے لئے ایک ہال الگ کر دیا گیا ہے، کیا ایسے ہال کو مسجد کے زمرہ میں شامل کیا جاسکتا ہے؟ کیا اُن ہالوں میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب ملے گا؟ کیا مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے لئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اُن ہالوں میں داخلے اور نکلنے کے لئے اُن دعاؤں کو پڑھنا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** گورنمنٹ آفسوں میں ملازمین کے لئے جو ہال نماز پڑھنے کے لئے الگ کر دئے جاتے ہیں، وہ ہال مسجد شرعی نہیں ہیں، اور نہ ہی مسجد کے لئے وقف ہیں؛ بلکہ وہ صرف ملازمین کی سہولت کے لئے عارضی عبادت خانہ کے طور پر علیحدہ سے بنا دئے جاتے ہیں؛ لہذا اس کی وجہ سے وہ ہال شرعی مسجد نہیں بنتے ہیں، اور نہ ہی اُس میں نماز پڑھنے سے مسجد شرعی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؛ البتہ اُس ہال میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے والی دعائیں پڑھ لینی چاہئے۔

عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. (سنن الترمذي، أبواب الصلاة/ باب ما يقول عند دخوله المسجد ۷۱/۱)

وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثم مات يورث؛ لأنه لا بد من التأييد والتوقيت ينافيه، ومقتضى هذا أن لا يصير مسجداً فيما إذا أطلق. (فتح القدير ۲/۱۸۶ زكريا)

منسذوب لكل مسلم أن يعد في بيته مكاناً يصلّى فيه إلا أن هذا المكان لا يأخذ حكم المسجد على الإطلاق؛ لأنه باق على حكم ملكه له أن يبيعه. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في المسجد ۳۲۰/۵ كونه، المحيط البرهاني، كتاب الكراهية / الفصل الخامس في المسجد ۵۱۸ ذابھيل)

لو كان له ساحة لا بناء فيها - إلى قوله - وإن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنةً ثم مات تكون ميراثاً عنه؛ لأنّه لا بد من التأييد والتوقيت ينافي التأييد.

(البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۲۴۸/۵ کوئٹہ، فتاویٰ قاضی خان علی الہندیہ،

كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۰/۳ کوئٹہ، النهر الفائق، كتاب الوقف / فصل

۳۲۸/۳ دار الکتب العلمیہ بیروت، بحوالہ: فتاویٰ محمودیہ ۲۵۰/۲۱ میرٹھ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۸/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## صحن اور فناء مسجد کسے کہتے ہیں؟

**سوال (۱۵۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مساجد میں صحن اور فناء کسے کہیں گے؟ اور دونوں ایک ہی ہیں یا علاحدہ علاحدہ؟ دونوں کا حکم کیا ہے؟ اور کبھی کسی حالت میں یہ مسجد سے خارج ہوتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** صحن سے مراد مسجد شرعی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر

چھت نہ ہو، اور فناء کا اطلاق اس حصہ پر ہوتا ہے جو مسجد شرعی سے خارج ہو، مگر اس کے اور مسجد شرعی کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، فناء کے حصہ تک مختلف کے لئے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جنبی و حائضہ وغیرہ فناء کے حصہ میں جاسکتے ہیں؛ کیوں کہ اس کو مسجد شرعی کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۶۳۶/۲)

الفناء هو المكان المتصل به ليس بينه وبين طريق. (الحلي الكبير ۶۱۴ لاہور)

وينبغي أن يختص بهذا الحكم دون حرمة المرور الجنب ونحوه. (الحلي

الكبير ۶۱۴ لاہور)

فهو كالمستخدم لصلاة جنازة، أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء، وحل

دخوله لجنب ونحوه. (شامي / مطلب في أحكام المسجد ۴۳۰/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۸/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## فناء مسجد میں نماز اور تراویح کا حکم؟

**سوال (۱۵۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں محلہ گولا گنج چندوسی میں کبھی قدیمی قبرستان تھا، مگر اب اس جگہ نئی مسلم آبادی قائم ہو گئی ہے، اس کے وسط میں ہم لوگوں نے ایک جگہ مدرسہ اور مسجد کے واسطے لی ہے، نیچے مدرسہ ”واصل العلوم“ کے نام سے اور اس کے بالائی حصہ پر مسجد تعمیر کرنے کا خیال ہے، اب نیچے کی چہار دیواری مکمل ہو چکی ہے، مگر پیسہ کی کمی کے باعث ابھی لٹر نہیں پڑا ہے، اگر لٹر پڑ گیا ہوتا، تو اوپر باؤنڈری کروا کر مسجد قائم کر لیتے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہاں سے مسجدیں کچھ دوری پر ہیں؛ لہذا رمضان شریف کے مبارک ماہ میں عارضی طور پر ہم لوگ نیچے کے حصہ میں پانچوں وقت کی نماز و تراویح قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اس جگہ نماز و تراویح پڑھنا درست ہے؛ لیکن مسجد کا

ثواب نہ ملے گا۔

كفناء مسجد ورباط و مدرسة. (الدر المختار / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱

کراچی، ۲۰۱۲/۴۳۰ زکریا)

وإذا بنى مسجدًا، لا يصير مسجدًا حتى يقرّ بلسانه ..... وفتح الباب وأذن

فيه وأقيم، وأذن للناس بالدخول فيه عامةً، فيصير مسجدًا إذا صلى بجماعة فيه.

(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / مسائل وقف المساجد ۷۴۰/۱۵ إدارة القرآن کراچی ۱۵۶/۸ زکریا)

رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قومًا أن يصلوا فيها ..... وإن أمرهم

بالصلاة شهرًا أو سنةً، ثم مات يكون ميراثًا عنه؛ لأنه لا بد من التأبید، والتوقيت

يُنافي التأبید. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره

مسجدًا الخ ۲۹۰/۳-۲۹۱ زکریا، وكذا في الفتوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر، الفصل

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۸/۱۴۱۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## کیا جماعت خانہ اور مسجد میں اتصال شرط ہے؟

**سوال (۱۵۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پہلی منزل میں دوکانوں کے اوپر جماعت خانہ بنوایا جا رہا ہے، جمعہ و عیدین وغیرہ میں مصلیوں کی کثرت کی بنا پر مسجد کے امام کی اقتداء میں جماعت خانہ میں نماز پڑھنے والوں کی نمازیں درست ہوں گی؟ یا پھر آفس کے درمیان میں حائل ہو جانے کی وجہ سے نمازوں میں فساد یا کراہت آجائے گی؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں چوں کہ جماعت خانہ اور مسجد کے درمیان آفس کی جگہ حائل ہو رہی ہے؛ لہذا صفیں متصل نہ کرنے کی وجہ سے جماعت خانہ میں پڑھنے والوں کی نماز امام کے ساتھ درست نہ ہوگی؛ البتہ اگر کسی طرح صفیں متصل کرنے کی صورت نکال لی جائے اور آفس کو اس طرح بنایا جائے کہ اتصال صفوف میں خلل نہ ہو، تو پھر سب کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔

ويمنع من الاقتداء بطريق تجري فيه عجلة أو نهر تجري فيه السفن، إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً. (الدر المختار مع الشامي، باب الإمامة / مطلب الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه الخ ۳۳۰-۳۳۳ زکریا)

والمانع من الاقتداء في الفلوات قدر ما يسع فيه صفين. (الفتاوى الهندية ۸۷۱)  
وسمعت بعض المشايخ يقولون: الطريق الذي في الجامع يمنع الاقتداء؛  
لأنه طريق عام. (الفتاوى التاتارخانية ۲۶۸/۲ رقم: ۲۳۹۰ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۵/۱۴۲۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے صحن کو خارج مسجد قرار دے کر اُس کو مسافر خانہ بنانا؟

**سوال (۱۵۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی کمیٹی نے مسجد بنائی، مسجد کا اندر کا حصہ اور برآمدہ مسجد میں شامل رکھا، اور صحن کے حصہ کو بنیاد مسجد ہی کے وقت سے خارج از مسجد، جب کہ چھت پورے حصہ (مسجد کا اندرونی حصہ، برآمدہ صحن) پر ایک ہی ہے، شروع ہی سے نیت یہ تھی کہ صحن کے حصہ کو خارج کر کے مختلف استعمال میں لایا جائے، مثلاً جنازہ کی نماز وغیرہ اور اس حصہ کی چھت پر مسافر خانہ بنایا جائے گا، جو مسجد کی آمدنی کے لئے کرایہ پر ملے گا۔ صورت کچھ اس طرح ہے:

|             |
|-------------|
| اندرونی حصہ |
| برآمدہ داخل |
| صحن خارج    |

سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورت درست ہے؟ اور صحن کو (جب کہ شروع ہی سے یہ نیت تھی) خارج از مسجد مانا جائے گا یا وہ مسجد ہی ہے؟ کیا اس میں نماز جنازہ صحیح ہے؟ کیا اس پر مسافر خانہ بنانا درست ہے؟ اگر وہ مسجد میں شامل نہیں، تب تو ظاہر ہے کہ صحیح ہے، سوال اس صورت میں ہے جب کہ خارج مسجد نہ ہو؛ بلکہ وہ مسجد ہی ہو، تو کیا مسجد کی چھت پر مسافر خانہ بنا سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو حصہ شروع ہی سے خارج مسجد ہے، اُس میں مسجد کی آمدنی کے لئے مسافر خانہ بنانا، نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ جائز ہے، محض چھت ایک ہونے کی وجہ سے وہ حصہ مسجد شرعی میں داخل نہیں مانا جائے گا۔

فحل دخوله لجنب و حائض كفناء مسجد (الدر المختار) هو المكان

المتصل به ليس بينه وبينه طريق. (الدر المختار مع لشامي / مطلب في أحكام المسجد ۴۳۰/۲ زكريا)

يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجنابة وخرج بالمسجد غيره لمصلي العيد والجنائز والمدرسه والرباط يمنعان من دخولها. (البحر الرائق / باب الحيض ۱۹۵/۱ كوثه، الدر المختار مع الشامي، كتاب الطهارة / مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة ۳۱۱/۱ زكريا، الفتاوى الهندية، كتاب لطهارة / الباب لسادس، الفصل الرابع في أحكام الحيض ۳۸۱ كوثه)

وفناء المسجد له حكم المسجد، حتى لو اقتدى بالإمام منه يصح ..... دون حرمة مرور الجنب ونحوه. (الحلي الكبير / فصل في أحكام المسجد ۶۱۴ لاهور، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / فصل: كره غلق باب المسجد ۱۰۹/۱ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲۱۹/۲/۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## قدیم مسجد کے صحن میں ایک حصہ کو جوتا چیل رکھنے کی جگہ بنانا؟

**سوال (۱۶۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جدید مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی قدیم مسجد تھی جو شہید کر دی گئی ہے، اور اس قدیم مسجد کے صحن کے اکثر حصوں کو پہلے ہی مسجد جدید کے صحن میں داخل کر لیا گیا ہے، اب قدیم مسجد کے صحن اخیر کے کچھ حصوں کو شمال و جنوب دونوں جانب جہاں کبھی نماز پڑھی گئی تھی، جوتا چیل رکھنے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، کیا شریعت اس طرح کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جس جگہ مسجد بنائی جائے وہ قیامت تک کے لئے مسجد بن جاتی ہے، اُس میں سے کل یا بعض حصہ کو مسجد سے نکالنا شرعاً جائز نہیں؛ لہذا قدیم مسجد کے صحن کے شمالی و جنوبی حصہ کو جوتا چیل رکھنے کی جگہ بنانا شرعاً درست نہ ہوگا۔

أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء منع، فإذا كان هذا في الواقف فكيف

بغيره فيجب هدمه. (الدر المختار / قبيل مطلب فيما لو حبر المسجد أو غيره ۵۴۸/۶ زكريا)



إذا خرب وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية ..... قال أبو يوسف: هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميرًا ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى. (البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۲۵۱/۵ كوثه، الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۳۵۸/۴ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۳/۱۴۲۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## چھوٹی بڑی مسجد کا کیا معیار ہے؟

**سوال (۱۶۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: چھوٹی بڑی مسجد کا معیار کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** فقہاء کرام نے بڑی مسجد کی تحدید صحیح قول کے اعتبار

سے چالیس ہاتھ ۶۰ فٹ سے کی ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس پر چھوٹی مسجد کا اطلاق کیا جائے

گا۔ (فتاویٰ محمودیہ ۳۸۴/۱۲، ایل، الاوزان الممودة ۸۳)

المسجد الكبير هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر، والصغير

بعكسه - إلى قوله - أفاد أن المختار الأول. (طحطاوي على المراقي ۳۴۲ أشرفية)

ومسجد صغير هو أقل من ستين ذراعًا، وقيل: أربعين وهو المختار، كما

أشار إليه في الجوهر. (شامي / باب الإمامة ۳۹۸/۲ زكريا)

بمسجد كبير هو ما كان أربعين ذراعًا فأكثر والصغير ما كان أقل من

ذلك، وهو المختار الخ. (طحطاوي على الدر ۲۶۸/۱ كوثه)

الذراع إثنان وثلاثون إصبعًا، والمحدثون يقولون: أربع وعشرون إصبعًا.

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۳/۵/۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کبیر: ۴۰ ذراع لمبی اور ۴۰ ذراع چوڑی؟

**سوال (۱۶۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جو مسجد ۴۰ ذراع لمبی اور ۴۰ ذراع چوڑی ہو، وہ مسجد کبیر ہے، تو اس کی تصریح عربی فتاویٰ کی کتابوں سے مطلوب ہے کہ جس میں طولاً و عرضاً دونوں کی صراحت کی گئی ہو؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس سلسلہ میں متون کی جو عبارات دستیاب ہوئیں ان

میں مطلقاً چالیس کا ذکر ہے، طول و عرض کی صراحت نہیں ہے؛ لیکن بعض فقہی عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد طول و عرض ہی ہے، جیسا کہ ماہ کثیر کے معاملہ میں وہ درودہ کی صراحت فقہ میں موجود ہے۔ عبارات درج ذیل ہیں:

المسجد الكبير هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر والصغير

بعكسه ..... وأفاد أن المختار الأول. (طحطاوي على المراقي ۳۴۲)

مسجد صغير هو أقل من ستين ذراعاً، وقيل: من أربعين، وهو المختار

كما أشار إليه في الجواهر. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب

إذا قرأ قوله تعالى: جُدُّك - بدون ألفٍ لا تفسدُ ۳۹۸/۲ زكريا)

وقال الرافعي: وفي حاشية عبد الحلیم: الصغير ما يكون أقل من جريب

كما في البرجندي. والجريب ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى سبع

قبضات. (تقريرات الرافعي ۸۳/۲ زكريا)

وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من

العوام، فلہذا أفتی به المتأخرون الأعلام أي في المربع بأربعين، وفي المدور بستة وثلاثين، وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعًا وخمسة بذراع الكرباس. (الدر المختار، كتاب الطهارة / باب المياہ ۱۱۱-۳۴۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۴/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ۱۰۰ ارفٹ چوڑی اور ۵۰ ارفٹ لمبی مسجد کا حکم؟

**سوال (۱۶۳):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد جو شمال و جنوب کے اعتبار سے ۱۰۰ ارفٹ چوڑی اور مشرق و مغرب کے اعتبار سے ۵۰ ارفٹ لمبی ہو، آیا بڑی مسجد میں داخل ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حضرات فقہاء کرام نے بڑی مسجد کی تعریف کرتے

ہوئے لکھا ہے کہ جس مسجد کا رقبہ ۴۰ زراع مربع ہو، یعنی موجودہ حساب کے اعتبار سے وہ مسجد کم از کم ۶۰ ارفٹ چوڑی اور ۶۰ ارفٹ لمبی ہو، تو اس پر مسجد کبیر کا اطلاق ہوگا۔ اس اعتبار سے سوال میں جس مسجد کا ذکر ہے وہ چوڑائی میں تو مسجد کبیر کی تعریف پر منطبق ہوتی ہے؛ لیکن لمبائی میں مسجد کبیر سے کم ہے؛ لہذا اس پر مسجد کبیر کا حکم جاری نہ ہوگا، اور چھوٹی مسجد کے احکام اس پر جاری کئے جائیں گے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۳۴/۱ میرٹھ)

المسجد الكبير هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر، والصغير

بعكسه ..... أفاد أن المختار الأول. (طحطاوي على المراقي ۳۴۲ أشرفية)

بمسجد كبير هو ما كان أربعين ذراعًا فأكثر، والصغير ما كان أقل من

ذلك وهو المختار. (طحطاوي على الدر ۲۶۸/۱ كوئته)

الصغير ما يكون أقل من جريب كما في البرجندي، والجريب ستون

ذراعاً في ستين. (التقريرات الراعي ۸۳۱۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۵/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا منبر محراب کے کس جانب ہونا چاہئے؟

**سوال (۱۶۴):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا میں مساجد میں جو منبر بنایا جاتا ہے، وہ محراب کے دائیں جانب اور سیڑھیاں سامنے کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی امام صاحب مشرق کی جانب سے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں، تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور جانب مشرق رخ ہوتا ہے منبر کی یہی صورت زمانہ رسالت مآب سے چلی آرہی ہے؛ لیکن پچھلے چند سال سے بعض جگہ جدید ذہنیت کے حامل انجینئرس و آرکیٹیکٹ بعض جدید مساجد کے نقشے بناتے وقت منبر کو تبدیل کر رہے ہیں، محراب کے اندر سے سیڑھیاں بنائی جا رہی ہیں، اور امام صاحب جانب جنوب سے چڑھ کر ایک پلیٹ فارم (چبوترے) پر آ کر مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے اور دو خطبوں کے درمیان کرسی پر بیٹھتے ہیں، یہ شکل شرعاً کہاں تک درست ہے؟ کیا خلاف سنت نہیں ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ بحوالہ جواب عنایت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** خطبہ کے لئے منبر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امام قدرے بلند جگہ پر کھڑا ہو؛ تاکہ دور تک وہ نظر آسکے اور یہ مقصد ہر اس صورت میں پورا ہو جائے گا، جس میں امام کے کھڑا ہونے کے لئے اونچی جگہ بنائی جائے؛ لیکن سنت متوارثہ یہی ہے کہ محراب کے دائیں جانب تین سیڑھیوں پر مشتمل منبر بنایا جائے، اس کے خلاف جو طریقہ سوال میں درج کیا گیا ہے، وہ خلاف اولیٰ اور خلاف سنت متوارثہ ہوگا اس جدت سے احتراز بہتر ہے۔

ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن يكون على

يسار المحراب ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المساة بالمستراح. (شامي، باب الجمعة / مطلب في حكم الموتى بين يدي الخطيب زكريا ٣٩١/٣ زكريا) ومنبره صلى الله عليه الصلاة والسلام كان ثلاث درجات. (شامي / باب الجمعة ١٦١/٢ دار الفكر بيروت)

قال العيني: ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حالة ثلاث درجات. (بذل المجهود / باب اتخاذ المنبر ١٧٨/٢ المكتبة الإمدادية ملتان، ٧٧٦/٦ لكتاؤ) ولم يزل المنبر على حالة ثلاث درجات، حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. (فتح الباري، كتاب الجمعة / باب الصلاة على المنبر والسطوح ٥٠٧/٢ قديمي، ٣٩٩/٢ دار الفكر بيروت)

قلت: ويدل على كون منبره - صلى الله عليه وسلم - ثلاث درجات ما أخرجه الحاكم بسنده الصحيح ١٥٣/٤ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احضروا المنبر"، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله! لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه؟ قال: إن جبرئيل عليه السلام عرض لي، فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يُغفر له، قلت: آ/ين، فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده، فلم يصل عليك، فقلت: آمين، فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبُر عنده أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة قلت: آمين. (الترغيب والترهيب مكمل، كتاب الصوم / الترغيب في صيام رمضان احتساباً وقيام ليله سيماليلة القدر وما جاء في فضله ص: ٢٣١ رقم: ١٤٩٩ بيت الأفكار الدولية) ذهب الفقهاء إلى أن اتخاذ المنبر سنة، مجمع عليها كما أنه يسن أن تكون الخطبة على المنبر، ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب بالنسبة للمصلين. (الموسوعة الفقهية ٨٥/٣٩ كويت)

المنبر في اللغة: مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ ليخاطب الجمع

وسمى منبراً لإرتفاعه وعلوه. (الموسوعة الفقهية ۸۴/۳۹ كويت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۷/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غضب کردہ زمین پر مسجد بنانا؟

**سوال (۱۶۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید کے پاس کل تیرہ آنہ مالیت کی زمین ہے، جس میں آٹھ آنہ زمین غاصبانہ ہے، پانچ آنہ زمین زید کی اپنی جائزہ ہے؛ لیکن چک بندی میں چک بندی والوں نے زید کی جائز زمین کو اور جو غاصبانہ زمین تھی، دونوں کو یکجا جمع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جائز اور غاصبانہ دونوں خلط ملط ہو گئی ہیں، زید اپنے اس چک میں ایک جانب مسجد بنانا چاہتا ہے، کیا مسجد بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نماز ہوگی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** پہلے مغصوبہ زمین کے بقدر یا اُس کی قیمت مالک حقیقی

یا اُس کے ورثہ کو ادا کرے، اس کے بعد اس جگہ مسجد بنوانا درست ہوگا۔

وعلى الغاصب ردّ العين المغصوبة، فإن أخذه فليرده عليه.....، ورد

القيمة مخلص خلفاً. (الهداية ۳۷۳/۳ مکتبہ بلال دیوبند)

أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكة وقت الوقف ملكاً باتاً ولو بسبب

فاسد، وأن لا يكون محجوراً عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب،

لم يصح، وإن ملكه بعد براءة أو صلح. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: قد يثبت

الوقف بالضرورة ۳۴۱/۴-۳۴۹ کراچی، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۱۴/۵ زکریا، الفتاوى الهندية،

كتاب الوقف / الباب الأول ۳۵۳/۲ زکریا)

ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / باب التعزير، مطلب: في التعزير بأخذ المال ۱۰ ۶/۶ زكريا، الفتاوى الهندية، كتاب الغصب / الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير ۱ ۶۷/۲ زكريا، البحر الرائق، كتاب الحدود / باب حد القذف، فصل في التعزير ۶۸/۲ زكريا، النهر الفائق، كتاب الحدود / باب حد القذف ۱۶۵/۳ إمداديه ملتان) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۵/۱۷ھ

## مغصوبہ زمین میں مسجد بنانا؟

**سوال (۱۶۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے پاس کل تیرہ آنہ مالیت کی زمین ہے، جس میں آٹھ آنہ غاصبانہ زمین ہے اور پانچ آنہ زید کی اپنی جائز زمین ہے؛ لیکن دونوں خلط ملط ہے، زید نے اپنی اسی زمین میں سے پانچ آنہ مالیت کی زمین بیچ بھی دی ہے، اور پانچ آنہ اسی مالیت کی اپنی جائز زمین زید کی بھی تھی، زید اپنی اسی زمین میں جو آٹھ آنہ مالیت کی بچی ہے، اسی میں ایک جانب مسجد بنوانا چاہتا ہے، جب کہ جن لوگوں کی زید اور زید کے والد وغیرہ نے غاصبانہ زمین لی ہے، اُن کے ورثہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اتنی زمین زید اور زید کے والد وغیرہ نے لی ہے، اور زید خود بھی اعتراف کرتا ہے؛ لیکن دینا نہیں چاہتا ہے، اب زید اپنی اسی زمین میں ایک جانب مسجد بنوانا چاہتا ہے، کیا جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب کہ زید اپنے حصہ کے بقدر زمین فروخت کر چکا ہے، تو مالقیہ ساری زمین مغصوبہ سمجھی جائے گی، اس کا مالک پر لوٹانا ضروری ہے، اس میں زید کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے۔

عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. (صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب / باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض رقم: ۲۴۵۴ دار الفكر بيروت، مشكاة المصابيح، كتاب البيوع / باب الغصب والعارية ۲۵۴)

و على الغاصب ردّ العين المغصوبة. (الهداية / كتاب الغصب ۳۵۷/۳)

و کذا تکره في أماكن: کفوق کعبه..... و أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مکروبة (الدر المختار) وفي الواقعات: بنی مسجداً في سور المدينة، لا ينبغي أن يصلی فيه؛ لأنه حق العامة، فلم یخلص لله تعالى کالمبنى في أرض مغصوبة..... فالصلاة فيها مکروهة تحريمًا في قول، و غیر صحیحة له في قول آخر. (رد المحتار، کتاب الصلاة / مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ۳۸۱/۱ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۵/۱۷ھ

## سوتیلی والدہ کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنانا

**سوال (۱۶۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بکر نے نکاح ثانی ایسی عورت سے کیا تھا جس کے پاس تقریباً دس بیگھہ اراضی بیع نامہ تھی، جب کہ اس سے پہلی زوجہ سے تین اولاد تھیں، دو لڑکے تلن و شہاب الدین ایک صاحبزادی سعیدین اس کے بعد زوجہ ثانی جو کہ اس آراضی کی مالک تھی، جو اس کے والد سے ملی تھی، اس سے بھی ایک لڑکی ہاجرہ نامی پیدا ہوئی، بکر کے انتقال کے بعد بڑے صاحبزادے تلن جو کہ پہلی زوجہ سے تھے، انہوں نے دوسرے بہن بھائیوں کو محروم کر کے اپنی سوتیلی والدہ سے جبراً و قہراً ساری آراضی اپنے نام کرائی، جب کہ گاؤں کے بہت لوگ گواہ ہیں، آئندہ چل کر تقریباً تلن نے سوا بیگھہ آراضی مدرسہ کے نام ہبہ کر دی، اس میں دینی ادارہ چل رہا ہے، ضرورت کے تحت اس میں مسجد کی تعمیر بھی ہو چکی ہے، نماز بھی ادا کی جاتی ہے، آیا اس مسجد میں نماز جائز ہے، اگر ناجائز ہے، تو پھر جائز کی کیا شکل ہوگی؟ اور اور پڑھی گئی نمازیں ادا ہو گئیں یا اعادہ کرنا ہوگا؟



**الجواب وباللہ التوفیق:** بر تقدیر صحت سوال تلن کا اپنی سوتیلی والدہ سے اس کی پوری جائیداد اپنے نام کرا کر اس پر قبضہ کر لینا درست نہیں تھا؛ لیکن اگر ہبہ کے بعد باقاعدہ قبضہ کر لیا گیا تو اس کی ملکیت شرعاً تام ہو چکی ہے؛ لہذا وہ اس میں سے مدرسہ یا مسجد کے نام کر سکتا ہے، اور ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا درست ہے۔

عن عبد اللہ بن السائب بن زید عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لأعباء ولا جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليبردها إليه. (سنن الترمذي، أبواب الفتن / باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً ۳۹/۲ رقم: ۲۲۴۹، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب / باب من يأخذ الشيء على المزاح ۶۸۳/۲ رقم: ۵۰۰۳)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. (شامي / كتاب الهبة ۹۳/۸ زكريا)

ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل، ويقوله: جعلته مسجداً عند

الثاني. (شامي / مطلب: إذا وقف كل نصف على حدة صار وقفين ۵۴۴/۶ زكريا)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مكتبة اتحاد ديوبند،

الأشباه والنظائر، كتاب الغصب / الفن الثاني، الفوائد: ۴۴۴/۲ رقم القاعدة: ۱۷۱۲ زكريا، وكذا في الدر

المختار / كتاب الغصب ۲۰۰/۶ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۲۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مشترکہ غیر منقسم زمین پر ایک فریق کا مسجد بنانا؟

**سوال (۱۶۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید کی مشترکہ زمین ہے، زید اپنے دیگر شرکاء کو دینا نہیں چاہتا تھا؛ لیکن زید کے شرکاء نے

موجودہ عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، عدالت نے زید کے شرکاء کے حق میں ڈگری کر دی؛ لیکن ابھی حصہ کشی نہیں ہوئی ہے، زید اسی مشترکہ زمین میں بلا اپنے شرکاء سے اجازت لئے ہوئے ایک جانب مسجد بنوانا چاہتا ہے، جب کہ احتمال ہے کہ جہاں مسجد بنے گی، وہاں عدالت زید کے شرکاء کا حصہ متعین کر دے گی؛ کیوں کہ حصہ کشی کا مقدمہ موجودہ عدالت میں دائر ہے، تو کیا زید کا مسجد بنوانا جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** زمین کی باقاعدہ تقسیم سے پہلے زید کو اس میں تصرف کرنا درست نہیں ہے، دوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر اس زمین کے کسی بھی حصہ میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔

فشرکة الأملاك العين يرثها رجلان ويشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه.....، ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور، ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط؛ فإنه لا يجوز إلا بإذنه. (الهداية / أول كتاب الشركة ۶۰۵/۲)

كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم، فليس أحدهم وكيلاً عن الآخر، ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. (شرح المحللة ۶۰۱/۱ رقم المادة: ۱۰۷۵ المكتبية الحنفية كوثه)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح المحللة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مكتبة إتحاد ديوبند)

كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملك أجنبي في نصيب الآخر، حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمينها الوكالة. (مجمع الأنهر / كتاب الشركة ۴۳/۲ ۵ المكتبية الغفارية كوثه، وكذا في رد المحتار ۲۰۰/۶ كراچی)

وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه.

وإذا بنى أحد الشركاء في الملك المشترك القابل القسمة بدون إذن الآخرين، ثم طلب الآخرون القسمة تقسم، فإن خرج ذلك البناء في نصيب بانيه فيها، وإن خرج في نصيب الآخر، فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعها. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۴۷/۱ رقم المادة: ۱۱۷۳ المكتبة الحنفية كوئته، تنقيح الفتاوى الحامدية / كتاب الشركة ۸۸/۱ المكتبة لميمنية مصر، وكذا في الدر المختار / كتاب القسمة ۲۶۸/۶ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۵/۱۷ھ

## مالکان اور میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر بورڈ کی جگہ مسجد بنانا؟

**سوال (۱۶۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک جگہ ایسی ہے جس میں کچھ حصہ میونسپلٹی کی ملک ہے، اور بقیہ حصہ متعدد افراد کی ملکیت میں ہیں، تو اُس جگہ مسجد کا قیام بغیر مالکان کے درست اور وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مالکان اور میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر وہ جگہ شرعی مسجد نہیں بن سکتی؛ بلکہ وہاں نماز پڑھنا بھی اجازت ملنے تک مکروہ ہوگا۔

أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالکة وقت الوقف ملکًا باتًا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورًا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغضوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح. (ردالمحتار، كتاب الوقف / مطلب: قد ثبت الوقف بالضرورة ۳۴۰/۴ - ۳۴۱ - كراچی)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مكتبة اتحاد ديوبند، الأشباه والنظائر، كتاب الغصب / الفن الثاني، الفوائد: ۴۴۲/۲ رقم القاعدة: ۱۷۱۲ زكريا، وكذا في الدر

ومن شرائطه المملک وقت الوقف، حتی لو غصب أرضاً فوقها ثم ملکها لا یكون وقفاً. (مجمع الأنهر / کتاب الوقف ۶۷۲/۵-۶۸۵ المکتبۃ الغفریة کوفه، البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۱۴/۵ زکریا، وکذا فی الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الوقف / الباب الأول ۳۵۳/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۳/۱۴۱۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## جس مسجد کی بلڈنگ کی قیمت دلال نے مالک کو نہ دی ہو اس میں نماز کا حکم؟

**سوال (۱۷۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد اقصیٰ سے متصل سروے نمبر ۵۲۹ سے سروے ۵۳۰ مارواڑی کی پلاننگ تھی، جس کا دلال بابو خاں ولد نصر اللہ تھا پلاٹ کی قیمت ۷۰/۷ ہزار روپے طے کی گئی تھی، جس میں سے تقریباً ۵۵/۷ ہزار روپے بابو خاں کو پہنچ گئے ہیں، جس کا خود اس دلال نے اقرار کیا ہے، اس مارواڑی کا کہنا ہے کہ یہ پلاٹ کی رقم مجھ تک نہیں پہنچی۔

اب اگر دلال کو رقم پہنچ جانے کی بنیاد پر ہم اس زمین پر مسجد کا تعمیری کام جاری کر لیں اور مالک زمین باوجود یہ کہ زمین کی اصل رقم دلال سے مجھ تک نہیں پہنچی، دباؤ وغیرہ میں آکر اس کام کو نہ روکے، تو ایسی صورت میں یہ تعمیر کردہ مسجد صحیح کہلائے گی یا نہیں؟ اور ایسی مسجد میں نماز ادا کرنے سے نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں اصل بیع کا معاملہ تو منعقد ہو چکا

ہے، صرف رقم کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، دلال نے اصل مالک کو موصولہ رقم ادا نہ کر کے غیر ذمہ داری

کا ثبوت دیا ہے، اس پر دباؤ ڈال کر وہ رقم اہل مالک تک پہنچانی لازم ہے، اور اگر وہ ادا نہ کرے تو اہل مسجد یہ رقم مالک کو دیں اور اپنی دی ہوئی رقم دلال سے واپس لے لیں؛ تاہم اس جگہ تعمیر شدہ مسجد میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب ملے گا؛ کیوں کہ اصل معاملہ شرعی طور پر درست ہے۔

ويجوز البيع بثمان حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً. (الهداية / كتاب

اليوع ۲۱/۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۹/۱۲/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے بنائی ہوئی مسجد مسجد شرعی نہیں

**سوال (۱۷۱)۔** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محمد شفیع کی آراضی ۳۵ گز پر قاسم کے گروپ کے آدمیوں نے عارضی طور پر نماز پڑھنے کی جگہ بنالی، اور نماز پڑھنے لگے، ادھر جب شفیع کو پتہ چلا تو شفیع نے فون کے ذریعہ سے منع کر دیا، اور ایک عالم سے بھی کہلوایا کہ میری جگہ میں عارضی طور پر بھی نماز نہ پڑھیں؛ کیوں کہ قاسم کا ذہن بریلوی مسلک کا تھا، اور گاؤں میں دو مساجد کی بھی بالکل ضرورت نہیں تھی، شفیع کی اس بات پر قاسم نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے ٹھیک ہونے پر آپ کی جگہ خالی کر دوں گا، اسی دوران شفیع کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ اپنی جگہ خالی کر لینا، کچھ دن کے بعد قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، قاسم کی ایک لڑکی ہے شفیع کے ورثہ نے قاسم کی لڑکی سے جگہ خالی کرنے کو کہا تو اُس نے جواب دیا کہ جو بھی مفتی حضرات کہیں گے، میں اُس پر عمل کروں گی۔

ایک مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا گیا، تو زمین لوٹانے کی بات طے ہوئی، اس پر قاسم کی لڑکی نے کہا کہ مجھے دو ماہ کا ٹائم دیں ہم نے وقت منظور کر لیا، پھر اُس لڑکی نے اپنے گروپ کے آدمیوں کے سامنے بات رکھی جس کو اُن کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جب کہ پہلے سبھی

لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر قاسم یا اُن کی لڑکی کہہ دے گی تو ہم زمین خالی کر دیں گے۔

اُن کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ مسجد ٹھیک ہے، اور اس پر اب شفیع کی اولاد کا بھی حق نہیں ہے، اور نہ ہی قاسم کی لڑکی کو کوئی حق ہے، جب کہ قاسم کی لڑکی مسجد میں کافی خرچ کرتی رہتی ہے، کیا شفیع کی اجازت کے بغیر شفیع کی زمین پر عارضی یا قطعی طور پر مسجد بنا سکتا ہے؟ کیا شفیع کی مرضی کے بغیر نماز ہوگی؟ کیا شفیع کی زمین پر اُس کی اولاد کا حق ہوگا یا نہیں؟ کیا گاؤں کے ذمہ دار کا پوچھا ہوا مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط؟ کیا شفیع کی زمین شفیع کے لڑکے کو ملنی چاہئے؟ اور جھگڑا کر کے دو مسجد بنانا ٹھیک ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بر تقدیر صحت سوال و بعد ادائے حقوق محمد شفیع کی جگہ

میں اُس کی اجازت کے بغیر جو مسجد بنائی گئی ہے، وہ مسجد شرعی نہیں ہے، جب تک محمد شفیع کے سب وارثین اپنی مرضی سے اُسے مسجد نہ بنائیں، اس جگہ کو مسجد قرار نہیں دیا جاسکتا؛ لہذا جن لوگوں نے اُس جگہ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اُن پر لازم ہے کہ وہ اپنا قبضہ ختم کریں، اور یہ جگہ محمد شفیع کے وارثین کے حوالہ کر دیں۔

أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكة وقت الوقف ملكاً باتاً ولو بسبب فاسدٍ، وأن لا يكون محجوراً عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح. (ردالمحتار، كتاب الوقف / مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة ۱/۴-۳۴۹-۳۴۹، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب لوقف / الباب الأول ۳۵۳/۲ زكريا)

وكدنا نكره في أماكن: كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ..... وأرض مغصوبة أو للغير (الدر المختار) وفي الواقعات: بنى مسجداً على سور المدينة، لا ينبغي أن يصلى فيه؛ لأنه حق العامة، فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في أرض مغصوبة الخ ..... فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول، وغير صحيحة له في

قول آخر . (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة الخ ۳۸۱/۱ كراچی)

الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً فوقفها ثم اشتراها من مالکها و دفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفاً ..... فلو استحق الوقف بطل . (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۱۴/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی توسیع زینہ راستہ وغیرہ مغصوبہ زمین پر بنانا؟

**سوال (۱۷۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سائل کی ایک موروثی زمین ہے، جس کو سائل کے والد جناب عبدالکیم مرحوم نے خرید لی تھی، زمین مذکورہ کے بعض حصہ پر مکان اور بعض حصہ کھلا ہوا آسائش اور آئندہ تعمیر کے لئے چھوڑ رکھا تھا، زمین کے پورب اتر ایک مسجد ہے، بعد کے لوگوں نے سائل مذکور کی کھلی زمین پر جب ہم سائل نے تعمیر کرنی چاہی، تو مسجد والوں نے رکاوٹ پیدا کی اور قانونی کارروائی بھی کی۔

صورتِ مسئلہ میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مسجد کی توسیع زینہ راستہ اور وضو خانہ کسی مغصوبہ زمین پر بنانا جائز ہے؟ اس حصہ پر نماز درست ہوگی؟ اور کیا مسجد والوں کو سائل کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کرنا درست ہے؟

واضح ہو کہ سائل کی زمین کا خرید کردہ رقبہ موقع پر کم ہو گیا ہے، اور پیمائش سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، متعلقہ اور مسجد کا رقبہ اپنے مندرجہ رقبہ کا غذات سے کافی زائد ہو گیا ہے، اور پیمائش سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، متعلقہ کا غذات سوال کے ساتھ منسلک ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** دوسرے کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر مسجد کی

توسیع اور ضروریات مسجد، زینہ وغیرہ کی تعمیر شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر مسجد شرعی کی حدود میں

مغضوبہ حصہ آتا ہے، تو اُس حصہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا؛ لہذا زائد غیر موقوفہ حصہ اصل مالک کو واپس کیا جائے، یا اُس کی مناسب قیمت ادا کر دی جائے، اور جو حصہ اُس وقت اصل مالک کے قبضہ میں ہے، اُس میں تصرف اور تعمیر میں وہ خود مختار ہے، اہل مسجد کو بلا وجہ اُس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصاً بغير طيب نفس منه. قال: ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. (صحيح ابن حبان رقم: ۱۱۶۶، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب البيوع / باب الترهيب من غضب الأرض ۴۲۱ رقم: ۲۹۰۴ بيت الأفكار الدولية)

وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان، أما في ما وراء ذلك فيتحقق، ألا ترى أنه يتحقق في الرد. (الدر المختار) أي في وجوب رده على مالكة. (شامي / كتاب الغصب ۲۷۲/۹ زكريا)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل ذلك كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱ رقم: ۹۶)

ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / باب التعزير، مطلب: في التعزير بأخذ المال ۱۰۶/۶ زكريا، الفتاوى الهندية، كتاب الغصب / الباب السابع، فصل في التعزير ۱۶۷/۲، البحر الرائق، كتاب الحدود / فصل في التعزير ۶۸/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۳/۲۰ھ

## مسجد کی تعمیر کے لئے غیر مسلم سے چندہ لینا؟

سوال (۱۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں



کہ: مسجد کی تعمیر کے لئے غیر مسلم سے چندہ لینا یا غیر مسلم کا روپیہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی تعمیر کے لئے غیر مسلم سے چندہ کا مطالبہ تو نہیں کرنا چاہئے؛ لیکن اگر کوئی غیر مسلم خود اپنی خوشی سے مسجد میں کوئی رقم دے اور اس رقم کو مسجد میں لگانے سے آئندہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، تو اُس کی دی ہوئی رقم مسجد میں لگانا درست ہے۔ (کفایت المفتی ۷۷۷، فتاویٰ رشیدیہ ۵۳۷)

قال اللہ تعالیٰ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْبُهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ﴿فہی فی ہذہ الآیۃ من موالاتہ الکفار واکرامہم..... ونہی عن الاستعانۃ بہم فی أمور المسلمین، لما فیہ من العز وعلو الید، وکذلک کتب عمر إلی أبی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ ینہاہ أن یستعین بأحد من أهل الشریک فی کتابتہ. (أحكام القرآن، البراءة / مطلب فی تميز الطبقات ۹۹/۳ دار لکتاب العربی بیروت) و مصرف الجزیة والخراج و مال التغلیبی و ہدیتہم للإمام إنما یقبلہا إذا وقع عندهم أن قتلنا للدين لا الدنيا، و ما أخذ منهم بلا حرب..... مصالحنہ خیر مصرف، کسد ثغور و بناء قنطرة و جسر و کفایة العلماء (الدر المختار) و فی الشامی: و مثله بناء مسجد و حوض. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب فی مصارف بیت المال ۸۱۶-۳۴۹-۳۴۹ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۷/۲/۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۱۷۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگانے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، تو وہ بھی

ظاہر فرمادیں؛ کیوں کہ غیر مسلم کا پیسہ مشکوک ہوتا ہے، اور مسجد میں پاک آمدنی کا پیسہ لگایا جاتا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** غیر مسلم کا روپیہ پیسہ مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے؛  
ہاں البتہ اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی آمدنی یا مسجد میں دیا ہوا پیسہ حرام طریقہ سے  
حاصل کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں مسجد کے اخراجات میں اس پیسہ کو خرچ کرنا ناجائز نہیں، محض  
شک کی وجہ سے ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ ۵۳، امداد الفتاویٰ ۶۶۴۲،  
فتاویٰ محمودیہ ۱۲۱/۲۲ میرٹھ، ایضاح المسائل ۱۳۶)

ولو أوصى بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبنى به مسجد  
للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية. (الفتاوى الهندية، كتاب  
الوصايا / الباب الثامن في وصية النمي والحربي ۱۳۲/۶)

إن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء  
أو على مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف / مطلب قد ثبت الوقف بالضرورة ۵۲۴/۶ زكريا،  
البحر الرائق / كتاب الوقف ۱۸۹/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۸/۱۸ھ

## غیر مسلم کا دیا ہوا پیسہ مسجد میں کہاں لگ سکتا ہے؟

**سوال (۱۷۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: غیر مسلم کا دیا ہوا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اور لگ سکتا ہے تو کس جگہ پر لگ سکتا ہے؟  
قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل و مدلل جواب تحریر فرمائیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر کوئی غیر مسلم بخوشی مسجد کا تعاون کرے، تو اُس کا دیا

ہو اور وہیہ مسجد کی ضروریات و تعمیر وغیرہ میں خرچ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ آئندہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔  
(احسن الفتاویٰ، ۳۳۹/۶، کفایت المفتی، ۷/۷۷)

وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً  
عندنا وعندهم. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۱۸۹/۵ كوئٹہ، وكذا في مجمع الأنهر / كتاب الوقف  
۵۶۸/۲ المكتبة الغفارية كوئٹہ)

بدليل صحته من الكافر، وفي الشامية: فهو بدونها مباح حتى يصح من  
الكافر كالعق والنكاح. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يحز  
۵۲۱/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۵/۱۴۲۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر مسلم کا اپنے پیسے سے مسجد بنوانا؟

**سوال (۱۷۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں اپنا چندہ دے رہا ہے تو کیسا ہے؟ اور اگر غیر مسلم اپنے پیسے سے  
اس نے مسجد تعمیر کروادی، تو اس میں نماز پڑھنا گناہا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسلمان شخص کے لئے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا بڑے  
ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم شخص کا رخیہ سمجھ کر مسجد بنوائے اور بعد میں کسی فتنہ کا اندیشہ بھی نہ  
ہو، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۱۴۱/۱۵۱ جمیل)

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً صغيراً كان أو  
كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة. (سنن ترمذي، أبواب الصلاة / باب ما جاء في فضل بنين المسجد ۷۳/۱)  
شرط وقف الذمي أن يكون قربةً عندنا وعندهم، كالوقف على الفقراء،

أو علی مسجد القدس . (شامی، کتاب الوقف / مطلب قد ینبت الوقف بالضرورة ۵۲۴/۶ زکریا)  
 وأما الإسلام فلیس من شرطه فصیح ووقف الذمی بشرط کونه قربة عندنا  
 وعندهم، كما لو وقف علی أولاده أو علی الفقراء، أو علی فقراء أهل الذمة.  
 (البحر الرائق ۱۸۹/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۷/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر مسلم کے پیسے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا؟

**سوال (۱۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر شاہجہاں پور میں ایک نیابائی پاس روڈ تعمیر ہوا ہے، جو سینٹا پور بریلی کو شہر سے باہر گاڑیوں کے لئے بنا ہے، اس روڈ پر اہل ہنود نے ایک مسجد اپنی زمین پر اپنے پیسے سے تعمیر کرائی ہے، جس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اُن کی خواہش ہے کہ مندرجہ بالا مسجد میں مسلمان آ کر نماز باجماعت ادا کریں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ از روئے شرع مسجد میں نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو شرعاً وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے مسجد آباد ہو جائے؟ وہ طریقہ مع حوالہ کتب فقہ تخریر فرمائیں؟

**نوٹ :-** مندرجہ بالا اہل ہنود پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر اور غریب پرور ہے، اکثر بلا تخصیص مذہب غرباء کی مدد کرتا ہے، عرصہ ۴-۵ سال سے ڈاکٹر صاحب روزہ افطار کی دعوت بھی کرتے ہیں، خود شریک افطار ہوتے ہیں، بعد افطار آخری صف میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر نقل نماز بھی کرتے ہیں، اور دیگر کام جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہیں، وہ بھی کرتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مذکورہ غیر مسلم اس زمین اور اس پر تعمیر شدہ عمارت

کو مسجد کے لئے وقف کر کے مسلمانوں کے قبضہ میں دیدے، اور بعد میں کسی فتنہ اور غیروں کی دخل اندازی کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، تو یہ جگہ مسجد شرعی بن جائے گی، اور وہاں نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہ ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۷۷، امداد ریہلتان، احسن الفتاویٰ ۶/۶۳۹)

والمراد أنه ليس موضوعاً للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من الكافر أصلاً؛ بل التقرب به موقوف على نية القربة، فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعق و النكاح . (شامی، کتاب الوقف / مطلب لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يحز ۵۲۱/۶ زکریا)

ولو أن ذمياً أو وصى بأن يشتري بثلث ماله رقاباً، وتعق عنه بأعيانهم أو بغير أعيانه، أو أو وصى بأن يتصدق بثلث ماله على الفقراء والمساكين، أو أن يسرح به في بيت المقدس، أو يبنى فيه، أو يغزى به الترك أو الديلم، والموصى من النصارى، فالوصية صحيحة ..... ولو أو وصى بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين، أو يبنى به مسجد للمسلمين، إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية، وتعتبر تمليكاً لهم، وكانوا بالخيار: إن شاءوا أحجوا به، وبنوا المسجد، وإن شاءوا لا. وإن كان ذلك لقوم غير معينين، فالوصية باطلة. (الفتاوى الهندية، كتاب الوصايا / الباب الثامن في وصية النمي والحري ۱۳۱/۶-۱۳۲ زکریا، البحر الرائق، كتاب الوصايا / باب وصية النمي ۳۰۳/۹-۳۰۴ زکریا، وكذا في فتح القدير، كتاب الوصايا / باب وصية النمي ۴۹۳/۱۰-۴۹۴ مصطفى الباي الحلبي مصر)

وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لا تخلوا: إما إن كان الموصى به أمراً هو قربة عندنا وعندهم، أو كان أمراً هو قربة عندنا لا عندهم، وإما إن كان أمراً هو قربة عندهم لا عندنا، فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا وعندهم بأن أو وصى بثلث ماله أن يتصدق به على الفقراء المسلمين، أو على فقراء أهل

الذمة، أو بعثت الرقاب، وبعماراة المسجد الأقصى ونحو ذلك، جاز في قولهم جميعاً؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة..... الخ . (بدائع الصنائع في

ترتيب الشرائع / كتاب الوصايا ٥٠٠/١٠٠ دار الكتب العلمية بيروت، ٤٣٩/٦ زكريا، رد المحتار، كتاب

الوصايا / فصل في وصايا النمي وغيره ٦٩٦/٦ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ٢٠٢٨/٢/٢٢ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# سرکاری زمین مسجد میں استعمال کرنا

## سرکاری زمین کو مسجد میں شامل کرنا؟

**سوال (۱۷۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سرکاری زمین کو مسجد میں شامل کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سرکار کی اجازت کے بغیر جو جگہ مسجد میں شامل کر لی گئی

ہے وہ مسجد شرعی کے حکم میں نہ ہوگی، اور وہاں نماز پڑھنے سے مسجد شرعی کا ثواب نہ ملے گا۔ (مستفاد:

فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۷۸۱ اڈا بھیل، کفایت المفتی ۷/۴۹، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۲/۱۳۸)

قلت: وهو كذلك، فإن شرط الوقف التأبید. والأرض إذا كانت ملكاً

لغيره، فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء. وكذا لو كانت ملكاً له؛ فإن

لورثته بعده ذلك، فلا يكون الوقف مؤبداً. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: مناظرة

ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء ۴/۳۹۰ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۳/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری دی ہوئی زمین میں مسجد بنانا اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟

**سوال (۱۷۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: قصبہ چکھیمہ بازار ضلع بہرائچ یو پی میں ایک جامع مسجد ہے، جس کی زمین تقریباً سو سال سے

زیادہ عرصہ قبل سرکار نے دی تھی، اور اس کے کاغذات موجود ہیں، تو کیا سرکار کی اس دی ہوئی زمین پر مسجد بنانا اور اس میں پنجوقتہ نماز جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال جب کہ مذکورہ زمین پر سرکاری اجازت سے مسجد بنائی گئی ہے، اور سو سال سے وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے، تو وہاں نماز پڑھنا بلاشبہ بلا کراہت جائز اور درست ہے۔

وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى انه اذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً. (شامی ۳۵۶/۴ کراچی، ۵۴۵/۶ زکریا)

سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلد حوانيت موقوفة على المسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم، ينظر: إن كانت البلدة فتحت عنوةً يجوز أمره إذا كان لا يضرّ بالمارة؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوةً، صارت ملكاً لسغزاة، فجاز أمر السلطان فيها. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول ۴۵۷/۲ زکریا، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / أحكام لمسجد ۸۴۳/۵ کراچی، وکنا فی البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۴۱۷/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۹/۷/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری زمین پر زبردستی مسجد مدرسہ بنانا؟

**سوال (۱۸۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سرکاری وہ زمین جس کی ملکیت کا پٹہ نہیں دیا جاتا ہے، جسے گوجر (زمین) کہتے ہیں؛ البتہ اگر کوئی جبراً عمل دخل کر لے تو سالانہ کچھ جرمانہ کی پاوی (دستاویز) دی جاتی ہے، اور سرکار جب



چاہے دوبارہ اس زمین پر قبضہ کر لے اور واپس لے لے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی زمین پر کچھ لوگ جبراً دخل کر کے مسجد و مدرسہ کی تعمیر کر لیتے ہیں، تو اب ایسے جبراً عمل دخل کرنے والوں اور اس کی تعمیر کرانے والوں و امداد کرنے والوں پر شرعاً کیا حکم صادر ہوتا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اس جگہ مسجد و مدرسہ کی

تعمیر ہرگز جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۸۸۱-۱۷۹-۱۸۱ اڈا بھیل)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامی،  
کتاب الغصب / مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير ۲۹۱/۹ زکریا، الأشباه والنظائر / الفن الثاني  
۴۴۴/۲ إدارة القرآن کراچی)

قلت: وهو كذلك، فإن شرط الوقف التابيد، والأرض إذا كانت ملكاً  
لغيره، فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: مناظرة  
ابن شحنة ۳۹۰/۴ کراچی)

المستفاد: لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا  
يقبله. (شامی ۴۳۱/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۳/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## گرام سماج کی زمین مسجد کو دینا؟

**سوال (۱۸۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: مسجد کے کنارے ایک زمین ہے جس کو عوام الناس گرام سماج کی بتاتے ہیں، اس زمین میں  
کنواں ہے، اس زمین کے بارے میں محلہ والے چاہتے ہیں کہ مسجد کو مل جائے؛ لیکن قریب والا  
شخص چاہتا ہے کہ اُسے مل جائے، ایسی تنازعہ زمین پر مسجد کو قبضہ کرنا کیسا ہے، جس میں کچھ فتنہ کا بھی  
اندیشہ ہے؟

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر گرام سماج کی طرف سے اجازت مل جائے تو مسجد

کے لئے مذکورہ زمین پر قبضہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا اجازت قبضہ نہ کیا جائے۔

المستفاد: لأن اللہ تعالیٰ لا یقبل إلا الطیب فیکره تلویث بیتہ بما لا

یقبلہ. (شامی ۴۳۱۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۵/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گرام سماج کی زمین پر مسجد کیلئے دوکان بنانا؟

**سوال (۱۸۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: گرام سماج کی اراضی پر یعنی سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد کے نام سے اس مقبوضہ اراضی پر دوکان تعمیر کرنا کیا اس کی مذہب اسلام اجازت دیتا ہے، جب کہ چیرمین وغیرہ سے کوئی اجازت نہیں لی، نیز اراضی کو مسجد کی اراضی شمار کیا جائے یا نہیں، اس دوکان سے جو آمد ہوگی اُس کا استعمال مسجد کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی، تو جو رقم مسجد کی اس دوکان میں مسجد کے مہتمم صاحب نے اپنی صواب دید پر خرچ کی شرعاً اس کا جواب دہندہ کون ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** گرام سماج کی زمین پر سرکاری اجازت کے بغیر مسجد

کے نام سے دوکان بنانا شرعاً جائز نہیں، اور اُس کی آمدنی بھی مسجد کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور متولی مسجد نے دوکان بنانے کے لئے جو رقم خرچ کی ہے اُس کا ضامن وہی ہوگا۔ (مستفاد:

فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۷۷۷/۱۵، فتاویٰ رحیمیہ ۱۵۹/۲)

سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلدة حوانيت موقوفةً على

المسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم، ينظر: إن كانت البلدة فتحت عنوةً،

یجوز أمره إذا كان لا يضرب بالمارة؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوة، صارت ملكاً للغزاة فجاز أمر السلطان فيها. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول ۵۷/۲ زكريا الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۸۴۳/۵ إدارة القرآن كراچی، ۱۶۱/۸ زكريا، وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۴۱۷/۵ زكريا) قلت: وهو كذلك، فإن شرط الوقف التأييد. والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك استردادها، وأمرهم بنقض البناء. وكذا لو كانت ملكاً له، فإن لورثته بعده ذلك، فلا يكون الوقف مؤبداً. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: مناظرة

ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء ۳۹۰/۴ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹/۳/۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گرام سماج کی زمین پر پردھان کی اجازت سے مسجد بنانا؟

**سوال (۱۸۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے گاؤں دھرواں میں قبرستان کی کچھ جگہ گرام سماج میں نکل گئی تھی، جس کی رسید موجودہ پردھان نے مسجد کے نام بنا دی تھی، چنانچہ ذمہ داران نے اپنی تحویل میں لے کر تقریباً دس سال بعد ۲۰۰۳ء میں علماء کرام سے مسجد کی بنیاد رکھوادی، جس جگہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہاں ایک گڈھا تھا جس میں پانی بھرا رہتا تھا، عمر دراز لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ نہ تو اس جگہ پر مردے دفن ہوئے اور نہ ہی قبروں کے نشانات موجود تھے، کچھ دنوں بعد تعمیر کام شروع ہوا، اس وقت دیواریں لیننٹر کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور بفضلہ تعالیٰ گذشتہ تقریباً دو سالوں سے پنجوقتہ نماز بھی جماعت سے ادا کی جا رہی ہے؛ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان اور گرام سماج کی زمین میں مسجد نہیں بن سکتی، جب کہ وہ حصہ گرام سماج میں نکل گیا تھا، اور گرام سماج کی زمین کا پردھان ہی مالک ہوتا ہے، وہ جس کو دیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، تعمیر ہو جانے کے بعد سرکار بھی واپس نہیں لیتی جو

لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا کریں مسجد مذکورہ کا شرعاً حکم کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ومفصل جواب مرحمت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال چونکہ گرام سماج کی زمین پر پردھان

کی تحریری اجازت سے مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور حسب دستور مسجد کی تعمیر کے بعد اس جگہ کو سرکار واپس نہیں لے سکتی، اس لئے اس جگہ پر شرعی مسجد بنانا بلاشبہ درست ہو گیا، اور وہاں نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ اس مسجد کو آباد رکھنا لازم ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۷۸۱ اڈا جیل)

سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلدة حوانيت موقوفة على المسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم، ينظر: إن كانت البلدة فتحت عنوةً يجوز أمره إذا كان لا يضرّ بالمارة؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوةً، صارت ملكاً للغزاة، فجاز أمر السلطان فيها. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، لفصل الأول ۵۷۱۲ زكريه، الفتاوى لتاتارخانية، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۸۴۳۱۵ إدارة القرآن كراچی، ۱۶۱۸ زكريه، وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۴۱۷۱۵ زكريه) فقط والله تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۰/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نگر پالیکا کی اجازت سے خالی زمین کو مسجد میں لینا؟

**سوال (۱۸۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے، مسجد کے سامنے نگر پالیکا کی آراضی ہے، اس آراضی میں ایک طرف ایک پاکھڑا درخت ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا نقشہ سے ظاہر ہے، اس آراضی میں جہاں محلہ ومسجد کے سالانہ اجلاس وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، وہیں برعوام الناس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلاً گاڑی وغیرہ کھڑی کردی اور اسی طرح رنج وخوشی کے موقع پر بستر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور سے اس

درخت کے سایہ میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور نگر پالیکا نے اس درخت کے چاروں طرف مٹ پاتھ بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا احترام اور نماز کا احترام عام طور پر کھو بیٹھتے ہیں۔ دریافت یہ کرنا ہے اگر نگر پالیکا بورڈ اجازت دے دے، تو آراضی مسجد میں ڈال کر مسجد کو کشادہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو فیہا اور اگر نہیں کیا جاسکتا، تو اسی سوال کی دوسری شق یہ ہے کہ مسجد کو وہیں رکھا جائے جہاں ہے، جیسا کہ نقشہ سے ظاہر ہے، مسجد کے اندر جو حجرہ سہ دری ہے اور وضو خانہ ہے، اُس کو مسجد میں ڈال کر مسجد کشادہ کر دی جائے اور اس آراضی میں مسجد کی جملہ ضروریات مثلاً وضو خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء اور پیشاب گھر وغیرہ بنا دئے جائیں۔ تو کیا صحیح ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** نگر پالیکا بورڈ کو اگر قانونی طور پر مذکورہ زمین مسجد کو ہمیشہ کے لئے دینے کا اختیار حاصل ہو، اور ضابطہ کے مطابق وہ منظوری دے دے، تو اس جگہ کو مسجد میں لینا جائز ہے، اب اُس میں حسبِ مصلحت مسجد کی کمیٹی کے حضرات تصرف کر سکتے ہیں، خواہ اُسے مسجد کے صحن میں شامل کریں یا اُس پر مسجد کی ضروریات تعمیر کریں، دونوں کی گنجائش ہے۔

مستفاد: سلطان اذن لأقوام أن يجعلوا أرضاً من أرض الكورة في مسجدہم، ويزيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدہم؟ قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: إن كانت البلدة فتحت عنوة جاز أمرہ. (الفتاوى التاتارخانية ۱۶۰/۸

زکریا، کذا فی الفتاویٰ الہندیہ ۴۵۷/۲، شامی ۳۹۴/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۴/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**وقف بورڈ کی زمین پر مسجد بنا کر اُسکے نیچے پارکنگ و تہہ خانہ بنانا؟**

**سوال (۱۸۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر بنگلور کا مشہور و معروف محلہ ”لشکر شیواجی نگر“ جو قلب (وسط) شہر بھی ہے، اس علاقہ میں حضرت سلطان شاہؒ سے منسوب ایک مزار ہے، اور اس سے متصل اوقاف کی ایک وسیع جگہ تھی

جو عرصہ دراز سے غیر قانونی طور پر مختلف لوگوں کے ذاتی تصرف اور استعمال میں تھی، کچھ حصے کھیل کود کے لئے استعمال ہو رہے تھے، شہر چوں کہ تیزی سے ترقی کرتا رہا اور جگہ کی قیمت بے انتہاء بڑھ گئی، اس جگہ کو قبضہ کرنے اور ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرنے کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی، چوں کہ جگہ قلبِ شہر میں واقع ہے، اس لئے اتنی آسانی سے حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران چند دینی فکر رکھنے والے احباب نے راتوں رات اس جگہ پر شیڈ ڈال کر نماز شروع کر دی، نماز شروع کرنے کی وجہ سے کافی دشواریاں پیش آئیں، بہر حال اللہ کا کرم کہ جگہ محفوظ ہو گئی، پھر اس عارضی شیڈ کی توسیع ہوتی رہی، اور کئی بار ہوئی، یہ سب وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر ہوا، اسی حصہ کے سامنے ایک خالی شیڈ تھا، آہستہ آہستہ اسے بھی حاصل کر لیا گیا، پھر مکمل جگہ کو وقف بورڈ سے ایک ٹرسٹ کے نام پر رجسٹرڈ کر لیا گیا، اور وقف بورڈ سے اس جگہ پر مسجد و مدرسہ اور دیگر تعمیرات کی اجازت لی گئی، اس جگہ پر ایک مدرسہ بھی قائم ہے، اور ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے، جس میں شہر کا بڑا مجمع شریک ہوتا ہے، اب تعمیرات کا پلان منظور ہو چکا ہے، اور بڑی لاگت سے بلند پیمانے پر اس کی تعمیر کا ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔

یہ کل رقبہ 183×160 فٹ ہے، جس میں سے 90×110 فٹ پر انشاء اللہ مسجد تعمیر ہوگی، اور اطراف میں کمرے بنیں گے، جس میں طلبہ اور آنے والے مہمانوں کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کا نظم ہوگا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جس حصہ میں مسجد بنے گی اس کے نیچے (دو انڈر گراؤنڈ) تہہ خانے بنیں گے، جو پارکنگ اور مسجد کی دیگر ضروریات کے لئے استعمال ہوں گے، ذمہ داران مسجد ان تہہ خانوں کو مسجد میں شامل نہیں کرتے ہیں، ان دو تہہ خانوں پر مسجد ہوگی جو انشاء اللہ چار منزلہ ہوگی، ان چار منزلوں کو مسجد شمار کرتے ہیں۔

**غور طلب نکتے:-** جب شیڈ ڈالا گیا تھا تو وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر ڈالا گیا تھا، شیڈ ڈالنے والوں کی نیت جگہ محفوظ کرنا تھا، اب وقف بورڈ سے اس جگہ کو ایک ٹرسٹ کے نام پر رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے، چوں کہ جگہ وقف بورڈ کی ہے؛ اس لئے وقف بورڈ کی حیثیت مالک کی ہے۔ کیا نیچے کی دو تہہ خانوں کو جن کو ذمہ داران مسجد میں شمار نہیں کرتے ہیں، بطور پارکنگ و دیگر ضروریات

مسجد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں؟ تمام تر تعمیرات، مسجد و مدرسہ اور مہمانوں کی ضروریات کے لئے ہیں، اس میں آمدنی کی کوئی صورت نہیں ہے، پارکنگ کی جگہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی ایک مستقل ضرورت ہے، اکثر لوگ اپنی سواری کا راور اسکوٹر پر آتے ہیں، ان سواریوں کی پارکنگ کا انتظام اسی جگہ میں کرنا ہے، باہر یا راستوں میں پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے گاڑیوں کو راستے کے کنارے پر پارکنگ کرنے کی ممانعت بھی ہے، ان راستوں پر آمد و رفت کافی زیادہ ہے، اس کے علاوہ چوری کا خطرہ بھی ہے، گاڑیوں کی چوری کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، یہ پارکنگ خالص مسجد میں آنے والوں کے لئے ہوگی، کرایہ پر نہیں دی جائے گی۔

**ملاحظہ:-** کسی بھی ایسی بڑی عمارت میں جس کا عوام کے لئے استعمال ہوتا ہے، پارکنگ کے لئے بڑی جگہ کا مخصوص کرنا قانوناً لازمی ہے، اس کے بغیر حکومت عمارت کا نقشہ منظور نہیں کرتی ہے۔ موجودہ عمارت کے نقشے میں تہہ خانے کا مکمل دوسرا حصہ پارکنگ بتلایا گیا ہے، اور پہلا حصہ مسجد کی دیگر ضروریات کے لئے بتلایا گیا ہے، اوپر کے باقی حصے مسجد بتلائے گئے ہیں، اس نقشے کو وقف بورڈ اور حکومت دونوں نے منظور کیا ہے۔

**نوٹ:-** اس مسئلہ کو وضاحت اور دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں، اور عند اللہ ماجور ہوں۔

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وقف بورڈ کی ابتدائی اجازت کے وقت جس حصہ پر باقاعدہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، وہ حصہ مکمل شرعی مسجد بن چکا ہے، اب بعد میں اُس کے نیچے پارکنگ وغیرہ بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ پورا حصہ فوقانی ہو یا تحتانی، صرف نماز کے لئے ہی خاص کرنا ضروری ہے؛ البتہ اگر اس حصہ کی مزید توسیع کا ارادہ ہو جس میں شروع ہی سے نیچے پارکنگ بنانے کی نیت کی جائے تو صرف توسیع شدہ حصہ کے نیچے پارکنگ بنانے کی اجازت ہوگی، نیز مدرسہ کے لئے مختص جگہ کے نیچے بھی پارکنگ بنائی جاسکتی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۷۰۷)

**قال الشامی:** قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف

حتى أنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة؛ فإنه يصير مسجدًا،

وفي الدر المختار: وإذا جعل تحتہ سردابًا لمصالحه أي المسجد جاز كمسجد القدس.....، فرع: لو بنى فوقه بيتًا للإمام لا يضر؛ لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع، ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. (الدر المختار/ قبيل مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره ٥٤٧/٦-٥٤٨ زكريا ٣٥٨/٤ كراحي) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۵/۱۴۲۰ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## نگر پالیکا کی زمین میں بغیر اجازت مسجد کا ”کولہو“ لگانا؟

**سوال (۱۸۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے محلہ تقی سرائے میں ایک مسجد ہے، اس میں کچھ زمین نگر پالیکا کی ہے، سامنے سڑک کا پختہ راستہ عام ہے، صدر مسجد نے اس زمین میں گنے پلینے کا ایک کولہو لگایا ہے، جس سے مسجد کے لئے کھوئی آتی ہے، جس سے مسجد میں وضو کے لئے پانی گرم ہوتا ہے، اور باقی آمدنی جو کھوئی سے ہوتی ہے، وہ مسجد کے ضروری صرفہ میں لگا دی جاتی ہے، کولہو کی لاٹ سڑک پر گھومتی ہے، راستہ چلنے والوں کو سخت پریشانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے نگر پالیکا والوں نے صدر مسجد کو کولہو نہ چلانے کا نوٹس دے دیا ہے، اس کولہو میں آدھے گنے کی پلائی چوری کے گنے کی ہوتی ہے، جس کھوئی سے وضو کیا جاتا ہے، یعنی گرم پانی ہوتا ہے، اسی سے نمازی نماز ادا کرتے ہیں، کیا یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے؟  
 کیا دوسرے کی آراضی پر بلا اجازت مالک کے کسی مسجد کے لئے آمدنی کرنی جائز ہے، اس کا حاصل کیا ہو اور پیسہ کیا کیا جائے؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** غیر کی ملکیت پر مالک کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت کے بغیر کاروبار روکنے سے قبل اس زمین پر رہتے ہوئے جو آمدنی ہوئی ہو وہ جائز ہوگی اور اس کا امور مسجد میں صرف کرنا درست ہوگا، خاص کر ایسی حالت میں جب کہ وہ نگر پالیکا کی زمین ہو جس میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔



كما يستفاد من هذه العبارة: غصب من اخرج أرضاً فزرعها ونبت  
فلصاحبها أن يأخذ الأرض ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفرغاً لملكه.....، فإن لم  
يحضر المالك حتى أدرك الزرع فالزرع للغاصب. (الفتاوى الهندية / الباب العاشر  
في زراعة الأرض المغصوبة ۱۴۳۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۱۱/۱۴ھ

## نگر پالیکا کی زمین پر مسجد کا بورنگ لگانا؟

**سوال (۱۸۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ہم مدینہ مسجد کے ممبران ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری مدینہ مسجد کے متولی صاحب  
نے ممبران کے مشورہ کے بغیر مسجد کی ٹشکی کا بورنگ نگر پالیکا کی آراضی میں کرایا ہے، اور ٹشکی کے پانی  
سے نمازی وضو کرتے ہیں، تو اس صورت میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اور مسجد میں جزیٹر بھی ہے،  
جس کو متولی صاحب نے نگر پالیکا کی آراضی کو مسجد کے حدود میں لے کر اس میں جزیٹر رکھ دیا ہے،  
اب اس سے نکلے بھی چلتے ہیں اور بتی بھی، اس صورت میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** اگر نگر پالیکا کی طرف سے عرفاً اجازت ہو اور اس  
تصرف سے راہ گروں اور قریب میں رہنے والوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو اس زمین پر مسجد کا جزیٹر  
رکھ کر روشنی حاصل کرنا یا عارضی طور پر بورنگ فٹ کر کے مسجد کے لئے پانی حاصل کرنا درست ہے؛  
لیکن جب بھی نگر پالیکا سے خالی کرنا چاہے گی تو اس جگہ کو خالی کرنا ہوگا۔

ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين. (الهداية / باب ما يحدثه

الرجل في الطريق ۵۹۴/۴ مکتبہ بلال دیوبند)

فإن شرط الوقف التأييد والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك

استردادھا و أمره بنقض البناء. (شامی / مطلب مناظرۃ ابن الشحنة مع شیخه فی وقف البناء  
۳۹۰/۱۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۴۱۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری زمین میں چیئر مین کی اجازت کے بغیر مسجد کا سمرسیول لگانا؟

**سوال (۱۸۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ٹائڈہ بادی (راپور) میں ایک لال مسجد ہے، جس کے سامنے کافی بڑا میدان ہے جو سرکاری ہے، (اس میں چار درخت ہیں اور اسی میدان کے ایک کونے میں مسجد کے ذمہ دار نے ایک کمرے کی شکل میں کچھ تعمیر کر رکھی ہے۔ اس سے متعلق درج ذیل سوالات کے جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلوب ہیں:

(۱) تقریباً چودہ سال قبل مسجد کے ذمہ دار نے سرکاری اراضی میں بغیر چیئر مین کی اجازت کے نمازیوں کے لئے ایک سمرسیول کرایا، جس کے پانی سے بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، کیا اس کا پانی وضو کے لئے درست ہے؟ اگر نہیں تو کیا گذشتہ نمازیں لوٹانا ضروری ہیں؟

(۲) اسی سرکاری اراضی میں لگے ہوئے درختوں کی لکڑی کاٹ کر پانی گرم کیا جاتا ہے، جس سے نمازی وضو کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟

(۳) ابھی حال ہی میں اسی سرکاری اراضی میں لگے ہوئے درختوں میں سے ایک درخت مکمل طریقے سے کاٹ لیا گیا ہے، اور کچھ کو تھوڑا تھوڑا کاٹا گیا ہے، جس کی لکڑی تقریباً سو کھنٹل تھی، اس میں کچھ موٹی لکڑیوں کو فروخت کر دیا گیا ہے، اس کی رقم مسجد کے کسی کام میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۴) اسی سرکاری اراضی میں جہاں پر ذمہ داران مسجد نے ایک کمرہ تعمیر کر رکھا تھا، اس پرانی عمارت کو توڑ کر صرف چیئر مین صاحب اس کو نئے طریقے سے تعمیر کر رہے ہیں، اس عمارت

میں نگر پالیکا کا جز بیڑ ہوگا اور باقی جگہ مسجد کے کام آئے گی، جیسے:

(الف) اس میں مسجد کے پانی گرم کرنے کا ٹینک ہوگا۔

(ب) اس میں مسجد کا جز بیڑ ہوگا۔

(ج) اسی عمارت کی چھت پر مسجد کے ٹینک رکھے جائیں گے اور دیگر کام بھی اسی عمارت

میں ہوں گے، تو کیا اس عمارت کا استعمال ان سب چیزوں کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

(۵) اس سرکاری اراضی پر جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس پوری عمارت میں رقم بھی

نگر پالیکا کی صرف ہوگی۔ کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل

جواب سے نوازیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱-۲) بر تقدیر صحت سوال اگر سرکاری زمین میں

چیز زمین کی اجازت کے بغیر سمرسیول لگایا گیا ہے تو ایسا کرنا غلط ہوا، اور اب اس کی اجازت باقاعدہ

میونسپلٹی سے حاصل کر لینی چاہئے؛ لیکن بہر حال اس سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور

اس کا استعمال ممنوع نہیں کہلائے گا، اور اس سے نماز وغیرہ پڑھنا درست ہوگا، اور سرکاری اراضی

میں لگے ہوئے درختوں کی لکڑیوں کو کاٹ کر بلا اجازت سرکار مسجد کا پانی گرم کرنے کے لئے

استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسجد کے ذمہ داران مؤاخذہ دار ہوں گے؛ لیکن اس

سے جو پانی گرم کیا گیا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کے وضو سے پڑھی گئی نمازیں درست ہیں۔

(مستفاد: جامع الفتاویٰ ۳/۶۲۰، فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۱۳، ۱۵/۱۱۵، منتخبات نظام الفتاویٰ ۲/۳۱۶)

(۳) جو لکڑیاں فروخت کی گئی ہیں اس کی قیمت حکومت کو ادا کئے بغیر اس کی رقم کو مسجد میں

لگانا جائز نہیں ہے۔

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا أذنه أو وكالة منه أو ولاية

عليه، وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶/۱۱ رقم المادة: ۹۶)

(۳-۵) مسئلہ صورت میں جب کہ خود میونسپلٹی کا چیئرمین کمرہ بنا کر اس جگہ کو مسجد کی ضروریات میں استعمال کے لئے اجازت دے رہا ہے، تو اس میں مسجد کا جزیرہ، گرم پانی کا ٹینک وغیرہ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۱۷۷-۱۷۹-۱۸۱ ذیل، کفایت المفتی ۷۷/۷۷ زکریا)

سلطان اذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلدة حوانيت موقوفة على المسجد ..... فجاز أمر السلطان فيها. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول ۵۷۲/۴، شامی، كتاب الوقف / مطلب في أوقف لملوك والأمراء ۳۹۴ کراچی)

سلطان اذن لأقوام أن يجعلوا أرضاً من أرض الكورة في مسجدهم ويزيدوا فيه، ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدهم ..... جاز أمره إذا كان ذلك لا يضر بالمارة. (الفتاوى التاتارخانية ۱۶۰/۱۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۳۵/۱۴

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری رقم سے مسجد کی زمین میں کنواں کھدوانا؟

**سوال (۱۸۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہزار افراد پر مشتمل ایک گاؤں ہے، جہاں نصفاً نصف مسلم آبادی ہے، اس گاؤں کے رہنے والے زید نے اپنی زمین سے متصل مسجد بنوائی، اور اس مسجد کی زمین میں سرکاری کنواں کھدوایا؛ لیکن پانی نہیں نکلا، زید نے محلہ کے عام مسلمانوں کی جمع شدہ چندہ کی رقم سے اپنی مرضی سے کنواں میں بورنگ ڈلوائی؛ تاکہ زیادہ پانی نکلے، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، مزید زید نے کنواں کے بیچ میں اوپر سے دیوار بنوادی؛ تاکہ مسجد کے اندر کے حصہ سے نمازی حضرات پانی نکالیں، اور باہری حصہ سے ہندو مسلمان سبھی پانی نکالیں، تو مسجد کی زمین میں سرکاری کنواں کھدوانا کیسا ہے، اور بغیر اجازت عام مسلمانوں کی مسجد کے چندہ کی رقم کا سرکاری کنواں کے بورنگ میں لگانا کیسا ہے، اور کنواں کے بیچ میں دیوار ڈلوانا کیسا ہے؟ مسلمانوں میں نا اتفاقی ہو رہی ہے؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** نمازیوں کی ضرورت کے پیش نظر سرکاری رقم سے مسجد کی زمین میں کنواں کھدوانا اور اس میں پانی کے حصول کے لئے چندہ کی رقم سے بورنگ لگانا ممنوع نہیں ہے، اور اس پانی سے بلا امتیاز مسلم و غیر مسلم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دوابه. (البحر الرائق / مسائل الشرب من كتاب إحياء الموات ۲۱۳/۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۵/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں سرکاری نل لگوانا؟

**سوال (۱۹۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سرکاری طرف سے جو عوام کے لئے نل دئے جاتے ہیں، تو کیا اُس کو مسجد یا مدرسہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر خلاف قانون نہ ہو اور سرکاری طرف سے اجازت ہو، تو سرکاری نل مسجد و مدرسہ میں لگانا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۱۵/۱۵ جیل) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۳/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری فنڈ سے مسجد میں ”نل“ لگوانا؟

**سوال (۱۹۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عرض یہ ہے کہ ہمارے محلہ بروالان وارڈ ۲۵ کے سچا سچ جناب خورشید احمد صاحب نے ”مراد آباد سنگٹھن سمیٹی“ کی جانب سے تین ”ہنڈ پائپ“ پاس کرائے ہیں، ان میں سے نیتاجی نے ایک نل مسجد میں لگوانے کے لئے ”مراد آباد سنگٹھن سمیٹی“ کی جانب سے اجازت لے لی، سمیٹی کو اس

پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نل لگ بھگ آدھا گڑ چکا ہے، اس نل پر محلہ کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اُن کا کہنا ہے کہ یہ نل مسجد میں لگانا جائز ہے، اور کام روک دئے ہیں؛ لہذا اس پر علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ یہ نل لگوانا جائز ہے یا ناجائز؟ واضح رہے کہ سمیتی ایک سرکاری کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے لئے باہر ملکوں سے جو امداد کے طور پر پیسہ آتا ہے، اس سے یہ سمیتی نل وغیرہ لگواتی ہے، نل لگوانے کے بعد سمیتی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف وہ اپنی تختی سمیتی کے نام سے لگاتے ہیں؛ تاکہ یہ پتہ رہے کہ یہ نل سنگٹھن سمیتی نے لگوایا ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر نل لگوانے کے بعد مذکورہ کمیٹی کا کوئی عمل دخل مسجد میں نہیں رہتا، اور اس میں کسی فتنہ کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو مذکورہ کمیٹی کی طرف سے مسجد میں نل لگوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔

أما الإسلام فليس من شرطه فصيح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا  
وعندهم. (البحر الرائق ۱۸۹/۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۷/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد یا عید گاہ کے اندر سرکاری ہینڈ پائپ استعمال کرنا؟

**سوال (۱۹۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد یا عید گاہ کے اندر سرکاری ہینڈ پائپ جو کسی پردھان یا دودھا یک یا ضلع پریشد یا ایم پی وغیرہ کے ذریعہ لگوایا گیا ہو، تو اس ہینڈ پائپ کا کیا حکم ہے؟ آیا نمازیوں کا اس سے فائدہ اٹھانا، وضو وغیرہ کرنا، یا عوام کا اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** سرکاری رقم سے مسجد یا عید گاہ میں رفاہ عام کی غرض سے

جو بینڈ پائپ وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس سے نمازیوں کو فائدہ اٹھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔  
 عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما تأتيهما هدايا  
 المختار فيقبلانها. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأفضية / من رخص في جوائز الأمراء  
 والعمال ۵۶۵/۱۰ رقم: ۲۰۷۰۳)

عن إبراهيم قال: لو أتيت عاملاً فأجازني لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت  
 المال يدخله الخبيث والطيب، وقال: إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير  
 في جائزته، وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته. (المصنف لابن أبي شيبة،  
 كتاب البيوع / من رخص في جوائز الأمراء والعمال ۵۶۸/۱۰ رقم: ۲۰۷۲۰)

عن أبي مجلز قال: قال علي رضي الله عنه: لا بأس بجائزة العمال، إن له  
 معونة ورزقاً، وإن ما أعطاك من طيب ماله. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع  
 والأفضية / من رخص في جوائز الأمراء والعمال ۵۶۸/۱۰ رقم: ۲۰۷۱۹)

وهديّة أهل الحرب، وما أخذ منهم بغير قتال الخ. (شامي، كتاب الزكاة / باب  
 العشر، قبيل باب المصروف ۲۸۲/۳ زكريا) فقط واللّه تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۳۶/۱۱/۱۹ھ

## میونسپلٹی اور محکمہ بجلی والوں کا مسجد کو مفت بجلی دینا؟

**سوال (۱۹۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
 میں کہ: ایک مسجد میونسپلٹی کی طرف سے بجلی لگی ہوئی ہے، میونسپلٹی کی طرف سے بجلی لگنے کی وجہ سے  
 اس کا بل ادا نہیں کیا جاتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو میونسپلٹی کے لوگ اُسے درست کر دیتے ہیں؛  
 لیکن مسجد سے بجلی کا بل نہیں لیتے ہیں، اور پڑوس میں امام باڑہ بھی ہے، اس سے بھی بل نہیں لیتے،  
 مفت میں بجلی دیتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ میونسپلٹی والوں نے جو کنکشن دیا ہے اس سے بلب سچھے  
 وغیرہ مسجد میں جلانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** میونسپلٹی اور محکمہ بجلی کے ذمہ داران اگر اپنے محکمہ کے قانون کے موافق مسجد کو باضابطہ بخوشی بجلی دیتے ہیں، اور اس سے مسجد کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، تو اس بجلی کا استعمال مسجد کے لئے ہر طرح درست ہے؛ لیکن اگر محکمہ بجلی کا کوئی ملازم غیر قانونی طور پر مسجد کو بجلی کا کنکشن اپنی طرف سے لگا دیتا ہے اور محکمہ کی طرف سے باقاعدہ اسے منظوری نہیں ہوئی، تو اس بجلی کا استعمال درست نہ ہوگا، اب صحیح صورت حال معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۳/۲۴۵، فتاویٰ محمودیہ ۱۰/۱۹۷) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۲/۲۰۲۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گورنمنٹ کی اینٹوں کو پردھان کا مدرسہ یا مسجد میں دینا؟

**سوال (۱۹۴):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: راستہ میں جو اینٹیں گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئیں، اس اینٹ کو کوئی ممبر یا پانچایت پردھان کسی مدرسہ یا مسجد یا عید گاہ میں لگانے کے لئے دیدے، تو اس اینٹ کو مذکورہ مقام پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

(۲) کوئی ممبر یا پردھان اگر سرکاری مال مدرسہ یا مسجد میں دینا چاہے، تو اس کو لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

(۳) اینٹیں پہلے سے راستہ پر بچھی ہوئی تھیں، دوبارہ اس راستہ کو درست کرنے کے لئے نئی اینٹیں بچھا دی گئیں، اب ان پرانی اینٹوں کو محلہ والے یا پانچایت والے مسجد یا مدرسہ میں دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس کو لینا درست ہے؟



باضابطہ اس طرح کا سامان مسجد یا مدرسہ میں دینے کی اجازت ہے، تو اس کی طرف سے یہ چیزیں لیٹانی نفسہ جائزہ ہوگا؛ لیکن اس کا انتظام پہلے کر لیا جائے کہ اس تعاون کی وجہ سے وہ پردھان یا ممبر مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں دخل اندازی نہ کرے۔

عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية / من رخص في جوائز الأمراء والعمال ۵۶۵/۱۰ رقم: ۲۰۷۰۳)

عن إبراهيم قال: لو أتيت عاملاً فأجازني لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال يدخله الخبيث والطيب، وقال: إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته، وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع / من رخص في جوائز الأمراء والعمال ۵۶۸/۱۰ رقم: ۲۰۷۲۰)

عن أبي مجلز قال: قال علي رضي الله عنه: لا بأس بجائزة العمال، إن له معونة ورزقاً، وإن ما أعطاك من طيب ماله. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية / من رخص في جوائز الأمراء والعمال ۵۶۸/۱۰ رقم: ۲۰۷۱۹)

وهدية أهل الحرب، وما أخذ منهم بغير قتال، أي للإمام وإلا فهي للآخذ فقط كما سيأتي في باب المغنم. (شامي، كتاب الزكاة / باب العشر، قبيل باب المصروف ۲۸۲/۳ زكريا، تقريرات الرافي ۱۳۹) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۲/۱۴۳۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مساجد کی تولیت

## مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟

**سوال (۱۹۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کا متولی شرعاً کیسا ہونا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا متولی دین دار، دیانت دار اور با شرع ہونا چاہئے۔

لا یولیٰ إلا امین قادر بنفسہ أو بنائہ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر،  
ولیس من النظر تولیة الخائن؛ لأنه یخل بالمقصود، و کذا تولیة العاجز؛ لأن  
المقصود لا یحصل بہ. (البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۷۸/۵ زکریا، کذا فی رد المحتار، کتاب  
الوقف / مطلب فی شروط المتولی ۳۸۰/۴ کراچی، ۵۷۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۵/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی کمیٹی اور نگران کا امانت اور دیانت دار ہونا ضروری ہے

**سوال (۱۹۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: کیا اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف کام کرنے والے رشوت خور و دھوکہ باز یا جھوٹا حلف  
اٹھا کر ۶۰ آرمیوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرتے ہیں، تو کیا ایسا شخص انتظامیہ کمیٹی کا عہدہ دار ہو سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اسلامی شریعت میں مسجد کی کمیٹی اور نگران کا امانت دار

اور دیانت دار ہونا ضروری ہے، مذکورہ اوصاف سے متصف لوگ کمیٹی کے ممبر بننے کے لائق نہیں ہیں۔

لا یولی إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر،  
وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن  
المقصود لا يحصل به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۷۸/۵ زكريا، كذا في رد المحتار، كتاب

الوقف / مطلب في شروط المتولي ۳۸۰/۱۴ کراچی، ۵۷۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۵/۷ھ

## حساب میں خرد برد کرنے والا مسجد کی کمیٹی میں رہنے کا اہل نہیں؟

**سوال (۱۹۷):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید اور بکر دونوں مسجد کے ذمہ دار ہیں، زید بکر کے بارے میں کہتا ہے کہ بکر مسجد کا چندہ چراتا ہے، زید کہتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ اس کی انکوائری کی ہے اور یہ بات درست ہے، زید خود بھی مسجد کا باقاعدہ تحریری حساب و کتاب نہیں رکھتا، سارا حساب و کتاب زبانی جمع خرچ پر ہے، زید سے نمازی حساب و کتاب مانگتے ہیں، زید اور بکر دونوں ایک آواز ہو جاتے ہیں، زید کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی حساب و کتاب نہیں، ان دونوں لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا ایسے افراد کو مسجد اور مدرسہ کی کمیٹی میں باقی رکھا جاسکتا ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو افراد مسجد کے مال میں خیانت کرتے ہیں اور حساب

میں خرد برد کرتے ہیں، وہ مسجد کی کمیٹی میں رہنے کے اہل نہیں ہیں۔

وينزع وجوباً لو غير مامون أو عاجزاً أو ظهر به فسق. (الدر المختار، كتاب

الوقف / مطلب بآئمة بتولية الخائن ۳۸۱/۴ کراچی، ۵۷۸/۶ زکریا)

قال في الإسعاف: ولا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية

مقیدہ بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به ..... والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة، وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا يعزل، كالتقاضي إذا فسق، لا يعزل على الصحيح المفتى به ..... الخ. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب في شروط المتولي ۳۸۰/۴ كراچی، ۵۸۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۰/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## خائن اور بدکلام متولی کو ہٹا کر دوسرا متولی بنانا؟

**سوال (۱۹۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حاجی چھدو صاحب نور پور سیدوں والی مسجد کے عرصہ بیس سال سے متولی چلے آ رہے ہیں، اُن کے حاکمانہ اور سخت و ست روئیہ کی بناء پر مولانا و ہاج الدین اعظمی اٹھارہ سال رہ کر طون جا کر مستعفی ہو گئے، مولانا اب تک لوگوں کے درمیان بلا اختلاف معتمد رہے، حساب و کتاب مسجد و مدرسہ کا انہیں کے سپرد تھا، متولی صاحب اپنی خیر خواہی کی بناء پر مسجد کی رقم لوگوں کو قرض دلایا کرتے تھے، اُن کے جانے پر جب حساب کی جانچ کا مسئلہ سامنے آیا، تو یہ تمام باتیں کھلیں اور راز فاش ہو گیا، ادھر پرانی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری تھا، متولی کے ان بے جا تصرفات کی بناء پر تعمیری کام بھی رک گیا، نو ہزار سات سو روپے کی رقم خود متولی صاحب کی طرف تھی، کمیٹی کے مطالبہ پر انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں یہ رقم کسی کو نہیں دوں گا، اپنی مرضی سے خود خرچ کروں گا اور پہلے مینار بناؤں گا، لوگوں نے ہر چند سمجھایا مگر متولی نہیں مانا، اور آج تک ماننے کو تیار نہیں، متولی گستاخ اتنا ہے کہ مولانا کی جگہ پر منتخب امام کی بھی بر ملا توہین کرتا ہے، بجائے شرمندگی کے اُن کو ہٹانے پر تلا ہوا ہے، جماعت ہوتے ہوئے بھی کئی دن تک پیچھے نماز نہیں پڑھی، متولی کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی بناء پر لوگوں میں بے انتہاء تفریق ہے اور دو پارٹی ہونے کو تیار ہیں، مگر متولی تو لیت

کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے، جب کہ اولاد بھی متولی سے نالاں ہیں، اب ایسے حالات میں شرعاً کیا کیا جائے؟ کیا الگ کمیٹی بنا کر اس مسجد کی تعمیر کو شروع کیا جائے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ یا پھر متولی کو اسی حال پر چھوڑ کر من مانی کرنے دیا جائے، پھر اور لوگ تو عند اللہ محرم نہیں، وضاحت فرمائیں؟ جس متولی سے لوگ بنیادی غلطیوں کی بناء پر ناراض ہوں، اور وہ زبردستی اپنے مفاد کے پیش نظر عہدہ کو چھٹے ہوئے ہو، نیز ایک عالم دین سے بدکلامی اور حاکمانہ انداز سے پیش آتا ہو اور کمیٹی کے مشورہ کے خلاف مسجد کا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا ثواب سمجھتا ہو، اور جو جوڑ توڑ کر کے مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیتا ہو، اور جماعت ہوتے ہوئے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو، کیا ایسے شخص کا متولی رہنا جائز ہے؟ بلا وجہ امام کو سخت وسست کہنا درست ہے؟ اپنی مرضی سے مسجد کا پیسہ خرچ کرنا صحیح ہے؟ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا جائز ہے؟ مینار کا پہلے بنانا زیادہ باعث ثواب ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں آپ ایسے شخص کے بارے میں واضح کریں، ایسا شخص کون ہے؟ ایسے متولی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تمام مسلکوں کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

### الجواب وباللہ التوفیق: حسب تحریر سوال جب کہ متولی مسجد کے مال میں

خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کی خیانت عام لوگوں پر آشکارا ہو چکی ہے، اور کوئی قاضی شرع بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو عام مسلمین اہل محلہ جنہوں نے اسے متولی بنایا تھا، وہ اسے ہٹا کر دوسرا متولی مقرر کر کے مسجد کا انتظام کر سکتے ہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۲۷۷)

قال في الشامي: وينزع وجوباً مقتضاه إثم القاضي بتركه، والإثم بتولية

الخائن. (شامي، كتاب الوقف / مطلب يائتم بتولية الخائن ۴/ ۸۰، كراچی، ۵۷۸/۶ زکریا)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

(الدرالمختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم

المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زکریا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني،

الفوائد: ۱۰۶/۲ إدارة القرآن كراچی، تنقیح الفتاویٰ الحامدیة ۱۲۶/۱ المكتبة المیمینة مصر

ولو أوصى الواقف إلى جماعة، وكان بعضهم غير مأمون، بدله القاضي

بمأمون. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۷۹/۵ زكريا)

الثالث إذا ظهرت خيانتها، فإن القاضي يعزله وينصب أميناً. (البحر الرائق /

كتاب الوقف ۳۹۱/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲/۵/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے حساب و کتاب میں خرد برد کرنے والے کا زبردستی

### رشوت دے کر سگریٹری بنے رہنا؟

**سوال (۱۹۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی سگریٹری یا مسجد کا منتظم مسجد کا خرچ صحیح طرح سے لکھ کر نہیں رکھتا ہو اور اپنی اس کمی کو چھپانے کے لئے وقف بورڈ کے انسپکٹر کو رشوت میں دو ہزار روپے دے کر اپنی جان بچالے اور صدر مسجد صرف دو سو روپے قبول کرتے ہوں، تو اس کے لئے اللہ کا کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے سگریٹری کو حساب کتاب صحیح رکھنا چاہئے اور

اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنا چاہئے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے اور زبردستی رشوت وغیرہ دے کر سگریٹری بنا رہے، تو وہ اپنے عہدہ پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔

وینزع.....، لو غیر مامون أو عاجزاً أو ظہور بہ فسق کشر ب خمرو ونحوہ.

(کذا فی التنبیہ الأوبار مع الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب یاثم بتولیة الخائن ۳۸۰/۴ کراچی، ۵۷۸/۶ زکریا)

وفي الإسعاف: لا یولی إلا أمين قادر بنفسه أو بئائبه، ویستوي فيه الذکر

والأنثی، وكذا الأعمی والبصیر. (الفتاویٰ الہندیة، کتاب الوقف / الباب الخامس فی ولاية

الوقف ۴۰۸/۲ زکریا، کذا فی البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۷۸/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۲/۱۳۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے ٹرسٹیوں اور متولیوں کے کیا کیا اختیارات ہیں؟

**سوال (۲۰۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مسجد کے ٹرسٹیان اور متولیان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ مسجد کے مالک ہیں جو کہ مالک الملک کا دربارعالیشان ہے، کیا اُن کو اموال مسجد میں تصرف کا حق حاصل ہے کہ جس کو چاہیں مسجد کی چند اشیاء استعمال کرنے کی اجازت دیں، اور جسے چاہیں منع کریں؟ ہمارے یہاں جو غسل خانہ تبلیغی جماعت کے لئے بنایا گیا ہے، یہ حضرات اُس میں جس کو اپنی نظر میں درست سمجھتے ہیں، نہانے کپڑے ڈھونے کی اجازت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں روکتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ٹرسٹیوں میں سے اگر ایک بھی بیکار بیٹھا رہے، تو مسجد کی لائٹ اور پنکھا چلائے رکھتا ہے، اور دوسرے نمازیوں کے لئے علاوہ نماز کے کچھ دیر بھی چلایا نہیں جاسکتا، اس کا کیا حکم ہے؟ عوام کے بااثر حضرات یا علماء کرام کو یہ سب خاموشی سے دیکھنا کیسا ہے؟ کیا بیت المال کا حساب لینے کی عامی کو اجازت نہیں؟ کیا متولی صرف اپنے علاقہ والوں کو بیت المال میں سے پیسے دے جب کہ یہ ملکیت اُمت کی ہے؟ ایسا امام اور مؤذن رکھنے پر جو شرعاً درست نہ ہوں یا منصب کے لائق نہ ہوں، متولیان اگر ایسے حضرات کا انتخاب کریں تو کیا گنہگار ہوں گے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے متولی مالک نہیں؛ بلکہ صرف منتظم ہیں، انہیں

مسجد کے مال کو ذاتی تصرف میں لانا جائز نہیں، جو غسل خانہ تبلیغی جماعت کے لئے بنایا گیا ہے، بہتر یہ ہے اُسے صرف جماعت والے یا مسافر یا امام و مؤذن ہی استعمال کریں، محلہ کا کوئی بھی فرد اُسے استعمال نہ کرے، اور اُس میں کوئی تفریق نہ کی جائے؛ تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہ ہو، مسجد کی

لائٹ اور سچے صرف نماز کے اوقات میں یا کسی دینی مجلس کے لئے استعمال کئے جائیں، کسی کے ذاتی فائدہ کے لئے خواہ وہ مسجد کا متولی یا ٹرسٹی ہی کیوں نہ ہو؟ بے ضرورت مسجد کی لائٹ استعمال نہ کی جائے، بیت المال سے اگر مسجد کا بیت المال مراد ہو، تو اُسے مسجد کے علاوہ کسی مصرف میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، اور اگر عام بیت المال ہے تو ذمہ داران کی رائے سے ضرورت مندوں اور مستحقین پر اُسے صرف کیا جاسکتا ہے، اور اس میں چندہ دہندگان کو حق ہے کہ حساب و کتاب کے بارے میں معلومات کا مطالبہ کریں، امام و مؤذن رکھنے کا حق متولیان کا ہے اور اُن کی ذمہ داری ہے کہ بہتر سے بہتر امام اور مؤذن کا انتخاب کریں، اگر وہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کریں، تو اہل محلہ کو حکمتِ عملی کے ساتھ ذمہ داران کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہئے، اور اختلاف سے ہر ممکن طور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے، عبارات علی الترتیب درج ذیل ہیں:

قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [جن، جزء آیت: ۱۸]

قال الشامي: فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالک، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (شامي، كتاب الوقف / مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۵۲۷/۶ زکریا)

ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل؛ بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه.....، أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا، كذا في البحر.

(الفتاوى الهندية / كتاب الوقف ۴۵۹/۲، امداد المفتين كامل ۷۸۲ زکریا)

قال الفقيه: سئل أبو جعفر عن هذه المسئلة، فأجاب هكذا ولكن الاختيار عندي أنه إذا علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد، والدار إلى أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء على ما شرط الواقف. (اتحاف الأبصار



والبصائر في ترتيب الأشباه والنظائر ۲۲۳ بحواله: امداد المفتين ص: ۷۶۸، كفايت المفتي ۱۶۱/۷  
 والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه  
 للفواحش الظاهرة. (شامي، باب الإمامة / مطلب: في تكرار الجماعة في المسجد ۲۹۴/۲ زكريا)  
 فإن قدموا غير الأولى أساوا بلا إثم. (شامي، باب الإمامة / قبيل مطلب البدعة  
 خمسة أقسام ۲۹۷/۲ زكريا)

ويستحب أن يكون المؤذن عالماً بالسنة تقياً، فيكره أذان الجاهل  
 والفاسق. (غنية المستملي ۳۵۹ بحواله: فتاوى دارالعلوم ۸۳۱۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۲/۱۴۲۷ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## متولی کا مسجد کے مکان میں ذاتی تصرف کرنا، اور الزام لگا کر امام کو نکالنا؟

**سوال (۲۰۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: ایک صاحب نے ایک گھر مسجد کے نام وقف کر دیا ہے جو مسجد سے کچھ فاصلہ پر ہے؛ لیکن ایک  
 مسجد کا متولی جس میں یہ گھر وقف ہے، اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اپنا گدھا باندھتا ہے، اپنی  
 ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اور مسجد کے سارے سچھے لوٹے فرش وغیرہ بیچ کر اپنے استعمال میں  
 لاتا ہے؛ لیکن جب حساب متولی سے مانگا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ دس پانچ ہزار کا سامان فروخت ہے،  
 جب کہ کافی روپے کا حساب ہے، جو تقریباً ۵۰ ہزار روپے تک ہے؛ لیکن عوام صحیح بات کے لئے  
 اس کے کاغذات لکھے ہوئے حساب و کتاب مانگتے ہیں، تو کہتا ہے کہ حساب و کتاب کے کاغذات  
 چوہے نے کاٹ کر بیکار کر دئے، دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا  
 کیا فیصلہ ہے؟ شریعت کی نظر میں ایسا شخص کیسا ہے؟

اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے بالکل برابر گھر بیچتا ہے، اور مسجد کے لوگ

گھر لینا چاہتے ہیں؛ لیکن مکان کافی رقم کا ہے، اور مسجد کا یہ گھر غیر قوموں کے لینے سے اس کی بے حرمتی ہو جانے کا خوف ہے؛ لہذا وہ گھر جو وقف کا ہے اس کو بیچ کر اس گھر کو بالکل مسجد کے برابر ہے، لینا چاہتا ہے، اسی مسجد کا امام اس وقف کے گھر کو ایک صاحب کو دلا دیتا ہے، اور اس رقم کو ذمہ دار حضرات کو دلا دیتا ہے، ذمہ دار حضرات اس پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب بھی اس وقف شدہ گھر کو بیچے تو کچھ عرصہ کے بعد اس مسلمان شخص کی تجارت میں نقصان پڑا، وہ قرض لے کر کاروبار کرتا تھا، جس سے قرض لیتا تھا اس نے اپنے روپے کی طلب کی، تو وہ شخص مجبوری اس وقف والے گھر کو جو لیا تھا، بیچنا چاہا اور اس امام سے کہہ دیا کہ جس نے گھر دلوایا تھا، امام نے مسجد کے ذمہ دار کو اس گھر کے بیچنے کے بارے میں کہہ دیا؛ لیکن اُن لوگوں نے تین ماہ تک جواب تک نہیں دیا، تو اُس شخص نے جو گھر لیا تھا ایک ہندو کے ہاتھ بیچ دیا، چونکہ اُس کا اصل گھر وہیں پر ہے، اپنی ضرورت کے لئے خرید لیا، اور اس بات کی خبر اُس امام کو جس نے گھر وقف کا دلوایا تھا، اُس کو اس نے بالکل خبر تک ہونے نہ دی، اب مقتدیان حضرات امام سے بدظن ہو کر کہ تم نے گھر ہندو کو دلوایا ہے، جب کہ امام قرآن تک اٹھانے کو تیار ہے؛ لیکن عوام نے اس امام کو اس بات پر مسجد سے نکال دیا، تو امام کا اس طرح نکالنا صحیح ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جو لوگ امام کو اس طرح نکالتے ہیں ان کا یہ فعل صحیح ہے؟ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** متولی مسجد کے لئے وقف شدہ مکان میں کسی طرح کے

تصرف کا حق نہیں ہے؛ کیوں کہ ہر ناجائز تصرف خیانت ہے، اور ہر خائن متولی واجب العزل ہے۔

متولی المسجد لیس له أن یحمل سراج المسجد إلی بیتہ. (حمانیة علی

الفتاویٰ الہندیة ۴/۳: ۲۹۴)

وفي الشامية: إذا كان ناظرًا علی أوقاف متعددة وظهرت خیانتہ فی

بعضہا أفتی المفتی أبوالمسعود بأنه یعزل من الكل. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فیما

یعزل به الناظر ۳۸۰/۴ کراچی، ۵۷۸/۶، زکریا، مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱/۶: ۴۱)

اور وقف کیا ہوا مکان بیچنا جائز نہیں، امام کا اس فروختگی میں تہا دخل نہیں ہے؛ بلکہ سبھی حضرات کے مشورہ سے یہ معاملہ عمل میں آیا ہے؛ لہذا اس حرکت پر امام کو نکالنا صحیح نہیں ہے، جنہوں نے امام پر غلط الزام لگایا ہے انہیں توبہ کرنی چاہئے۔

إذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف ولا يجوز بيعه. (بخانية على الفتاوى

(الهندية ۲۸۵/۳)

وفي الشامية: أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره؛ بل صار على حكم ملك الله تعالى، لا ملك فيه لأحد سواه - إلى قوله - أنه لا يباع ولا يوهب. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: لو وقف على الأغنياء وهدم لم يحز ۳۳۹/۶ کراچی، ۵۲۱/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۱۰/۲۰۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## متولی کا زمین غصب کر کے اُس کی آمدنی مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۰۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید چار بیکھہ پختہ اور کچھ ڈسمل کی آراضی کا بلا شرکت غیر مالک ہے، ایک بستی میں اس کے دو مکان ہیں جو کھنڈر ہو چکے ہیں، اس آراضی کا بھی وہ بلا شرکت غیر مالک ہے، بسبب چند وجوہات زید اپنی سکونت قدیم سے تقریباً ۳۲ کلومیٹر دور کام کاج کے لئے ہجرت کر گیا، اس کے جانے کے بعد بستی کے ایک آدمی نے زید کی چار بیکھہ آراضی پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اب یہ بتایا جاتا ہے کہ زید کی اس مقبوضہ جائیداد کی آمدنی ایک مسجد میں صرف کی جاتی ہے، قبضہ کرنے والا شخص خود کو متولی ظاہر کرتا ہے، اپنی جائیداد پر ناجائز قبضہ کا زید سخت مخالف ہے، کیا اس طرح زید کی زمین پر قبضہ کرنا اور اس کی آمد کو ایک مسجد میں خرچ کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟ دیگر حضرات اس حالت کو جانتے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟

**الجواب وبالله التوفيق:** دوسرے کی ملکیت پر غاصبانہ قبضہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور اس ناجائز آمدنی کو مسجد جیسی مقدس جگہ میں خرچ کرنا بھی ہرگز درست نہیں ہے، ہستی کے بااثر لوگوں کو اس ظلم اور ناانصافی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہئے اور مسجد کو ناحق آمدنی کے مصرف سے بچا کر اپنی نمازوں کو کراہت سے محفوظ کرنا چاہئے۔ قرآن کریم میں ہے:

قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة، جزء آیت:

[۱۸۸

عن سعید بن زید رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. (صحيح البخاري، باب ما جاء في سبع أرضين ۴۵۴/۱ رقم: ۳۱۹۸ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم ۳۳/۲ رقم: ۱۶۱۰ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح / باب الغصب ۲۵۴ المكتبة الأشرفية ديوبند، لمعات التنقيح ۶۱۵/۵ رقم: ۲۹۳۸ دار النوادر)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم رقم: ۴۹، سنن الترمذي رقم: ۲۱۷۲، سنن ابن ماجه رقم: ۱۲۷۵-۱۳، ۴۰، الترغيب والترهيب مكمل ۵۰۲ رقم: ۳۵۱۸ بيت الأفكار الدولية)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره. (صحيح البخاري، كتاب الإكراه / باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه الخ ۱۰۲۸/۲ رقم: ۶۹۵۲ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي رقم: ۲۲۵۵، الترغيب

والترہیب مکمل، کتاب القضاء وغیرہ ص: ۴۸۸ رقم: ۳۴۲۵ بیت الأفكار الدولیہ

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة ۶۵۸۱/۶۳۱۲، زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۵/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے خدمت گار متولی کا مسجد کی رقم سے ضرورت کے بقدر خرچ کرنا؟

**سوال (۲۰۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد کے متولی صاحب ہیں اور مسجد کا کام بہت دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہر وقت مسجد ہی کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور گھر کے معاشی حالات بہت کمزور ہیں، کیا وہ ضرورتاً مسجد کی رقم میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسجد کے دیگر لوگ اس بات پر رضامندی کا ثبوت دیتے ہیں، کہ آپ خرچ کر لیا کرو، کیا ان کو کمیشن کے طور پر معاوضہ دیا جائے یا بقدر ضرورت خرچ کرنے کا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بہتر یہ ہے کہ متولی صاحب کی باقاعدہ تنخواہ مسجد کی جانب سے متعین کر دی جائے؛ تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسجد کی خدمت انجام دے سکے، اس مقررہ تنخواہ سے زیادہ لینا متولی کے لئے جائز نہ ہوگا۔

سئل الفقیہ أبو القاسم عن قیم مسجد جعله القاضي قیماً علی غلاتها،

وجعل له شيئاً معلوماً يأخذه كل سنة حل له الأخذ كان مقدار أجر مثله، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية، كتاب الشهادات / فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه ۱/۲، فتاوى رحيمه ۸۱/۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۴/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی حدود متعین کرنے کا اختیار کس کو ہے؟

**سوال (۲۰۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احاطہ مسجد میں شامل تمام حصوں کے ممتاز کرنے کی ذمہ داری یا اختیار کس کو ہے؟ واقف مسجد یا بانی مسجد کو یا متولیان مسجد کو؟ بانی و واقف کے انتقال کے بعد متولیان مسجد حدود متعین کر سکتے ہیں یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ والتوفیق:** مسجد کی داخلی اور خارجی حدود متعین کرنے کا اختیار متولی یا اختیار کمیٹی کو حاصل ہے، خواہ واقف زندہ موجود ہو یا نہ ہو۔ (کفایت المفتی ۱۸۶/۷-۲۰۸)  
نعم! ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف. (تنقيح الفتاوى الحامدية / كتاب الوقف ۲۰۹/۱ المكبة الميمنة مصر)

نعم؛ لأن الناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث عرض المتولي المشروط له. (تنقيح الفتاوى الحامدية / الفتاوى الثالث في أحكام النظائر ۲۲/۱ المكبة الميمنة مصر بحواله: تعليقات فتاوى محموديه ۴/۳۱۴ ۳۴ ڈاھيل)

وفي الأصل: الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام أهل بيت الواقف من يصلح لذلك. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف ۴۱۲/۲ زكرياء، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۷۹/۵ زكرياء، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الولاية في الوقف ۷۴۳/۵ إدارة القرآن كراچی، ۶۱/۸ رقم: ۱۱۲۰۸ زكرياء)

رجلٌ بنى مسجداً وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بممرمته وعمارته

وبسط البواري والحصر والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً  
لذلك، فإن لم يكن فالرأي في ذلك إليه. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / فصل: كره  
غلق المسجد ۱۱۰۸ زكريا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف /  
باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۷/۳ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۳۰/۳/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## علماء ومفتیان کا حدودِ مسجد کو متعین کرنا؟

**سوال (۲۰۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ہمارے شہر مالیر گاؤں کے چند علماء بشمول مفتیان کرام شہر کی تمام مساجد کا سروے کر کے  
مساجد کی حدود کو ممتاز کرنے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ معتکفین کو لاحق پریشانی کا خاتمہ ہو اور  
دیگر احکام مسجد کی بجا آوری اور مسجد کی حرمت کا لحاظ ہو سکے، ان کا یہ اقدام کہاں تک درست ہے؟  
ضروری ہے یا نہیں اور یہ کام واقفین مسجد و بائعین مسجد کی عدم موجودگی کی صورت میں موجودہ  
ٹرسٹیاں و انتظامیہ سے گفت و شنید کر کے کیا جا سکتا ہے یا نہیں  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مساجد کی حدود متعین کرنے کا کام قابل ستائش ہے اور  
مسجد کی باختیار انتظامیہ سے معلومات حاصل کر کے اس عمل کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔  
(کفایت لہٰثقی ۱۸۶۷-۲۰۸)

رجلٌ بنی مسجدًا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته  
وبسط البواري والحصر والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً  
لذلك، فإن لم يكن فالرأي في ذلك إليه. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / فصل: كره  
غلق المسجد ۱۱۰۸ زكريا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف /

باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۷/۳ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۶/۳۰/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے انتظام میں اہل محلہ کی دخل اندازی کرنا؟

**سوال (۲۰۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد کا متولی وقف بورڈ سے نامزد ہے اور مسجد کا انتظام بھی کرتا ہے، متولی نے مسجد سے ملحق عمارت کے دو کمروں کو جو کہ انتہائی مخدوش حالت میں تھے، انہیں مسہار کر کے نئی تعمیر محلہ میں رہنے والے بچوں کی دینی تعلیم کے لئے مدرسہ کے طور پر استعمال کروانے کے بھی کروائی ہے، جس میں تقریباً پانچ لاکھ روپے خرچ ہوا تھا، مسجد کی چھت بھی کافی مخدوش حالت میں ہے، از سر نو تعمیر کروانے کی کوشش متولی کی طرف سے کی گئی، مگر محلہ کے افراد اس کے انتظام میں رخنہ انداز ہو رہے ہیں، متولی فساد اور شرفتنہ سے بچنے کے لئے کسی طرح کی رخنہ اندازی یا دراندازی کو نظر انداز کرتا رہا، جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے محلہ والے شورش پر آمادہ ہیں، اور مسجد میں بغیر متولی کی اجازت کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، مثلاً مسجد میں پانی کی ٹینکی ہونے کے باوجود مسجد کی چھت پر محلہ والوں نے بغیر متولی کی اجازت کے پلاسٹک کی ٹینکی رکھوا دی اور مسجد میں بغیر اجازت چوری سے بجلی کا استعمال کر رہے ہیں، جب کہ متولی کے ذریعہ قانونی طریقہ سے بجلی لگوانے کی کارروائی کو رکوا دیا، اور اب مسجد کی مرمت اور تعمیراتی کام بھی از خود بغیر متولی کی اجازت کے کروانا چاہتے ہیں، تو کیا محلہ والوں کی یہ حرکت غیر شرعی ہے یا نہیں؟ محلہ والے بغیر متولی کی اجازت کے مسجد کے انتظامی امور میں دخل اندازی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ از روئے شرع کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اُصولاً انتظام کا حق اگرچہ متولی کو حاصل ہے؛ لیکن اس

پر لازم ہے کہ وہ اہل محلہ کے مشورہ سے انتظامی ذمہ داری ادا کرے، اگر متولی محلہ کے ذمہ داروں کو



ساتھ لے کر کام کرتا، تو یہ نوبت نہ آتی جو سوال میں لکھی گئی ہے کہ محلہ والے متولی کو درکنار کر کے خود ہی مسجد کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور چوں کہ یہ ایک نزاعی معاملہ بن گیا ہے، جس کا دیر تک جاری رہنا مسجد اور اہل محلہ کسی کے لئے مفید نہیں ہے؛ اس لئے بہتر ہے کہ کسی مقامی معتبر عالم دین کو فیصل بنا لیا جائے جو فریقین کی باتیں سن کر مناسب فیصلہ کرے، اور سوال میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ چوری کی بجلی مسجد میں چلاتے ہیں، تو یہ واقعہ نا جائز ہے، فوری طور پر مسجد سے یہ سلسلہ ختم کرنا چاہئے۔

قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى، جزء آیت: ۳۸]

نعم! ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف. (تنقيح الفتاوى

الحامدية / كتاب الوقف ۲۰۹/۱ المكتبة الميمنة مصر)

قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا وما لا سببه الخبيث

والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا

يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱

كراچی، ۶۳۱/۲ زکریا، کذا فی حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلاة / باب ما یفسد

الصلاة وما یکره فیها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بیروت) فقط والله تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۰/۱۹/۱۳۳۱ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد کی آمدنی اور اُس کا مصرف

مسجد کے تعاون کے لئے رقم لکھوا کر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

**سوال (۲۰۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے یہاں ایک مسجد کا تعمیری کام شروع ہوا، اور خرچ تقریباً ۱۴ لاکھ روپے تھا، جوں جوں روپے آتے رہتے کام ہوتا رہتا، عوام الناس کی تشکیل کی گئی اور اصرار کر کے اُن کے پاس چندے کی رقم لکھوائی جاتی اور مختصر حضرات ۳-۴ ماہ کے اندر اندر وہ رقم پوری ادا کر دیتے، اب ایک صاحب استطاعت شخص کا مسجد کے تعمیری اراکین میں سے کسی سے جھگڑا ہوا، اور دوسرے لوگ اُن کے پاس بقیہ رقم کی وصولی کے لئے پہنچے، تو اُنہوں نے عذر فرمایا، جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اُن صاحب نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا تھا اور اُنہیں یوں جواب ملا تھا کہ مسجد میں لکھوائی رقم کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ کہہ کر بقیہ رقم دینے سے انکار کر دیا، اب تعمیری کام کرنے والے صاحب کا کہنا ہے کہ یہ شخص وعدہ کا پکا ہے، ذی وقار اور مالی حیثیت بھی ہے، اُن کے بھروسے پر مسجد کا کام جاری رکھا تھا اور اُن کے وعدہ پر لوہا، سیمنٹ وغیرہ قرض میں خریدا ہے، لہذا واجب نہ بھی ہو وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، ذاتی جھگڑے میں اللہ کے گھر سے دشمنی نہیں رکھنی چاہئے، جب کہ اُن صاحب نے مسجد کا کام پورا ہونے کے بعد بھی دو سے تین ماہ تک مسجد میں پیہر بھی نہیں رکھا، بعد میں کچھ سمجھا کر مسجد کے قریب کیا، اب یوں کہتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب فرمادیں کہ دینا ضروری ہے، تو میں بقیہ رقم بھی دوں گا، تو اس مسئلہ کی وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جن صاحب نے مسجد کے لئے رقم دینے کا وعدہ کر لیا تھا

اُن پر اگرچہ قانوناً رقم لینے کے لئے جبر نہیں کیا جاسکتا؛ لیکن اُن پر شرعاً و اخلاقاً ضروری ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ مول نہ لیں، احادیثِ شریفہ میں وعدہ پورا نہ کرنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان / باب علامة المنافق رقم: ۳۳ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق رقم: ۵۹ بيت الأفكار الدولية، مشكاة المصابيح ۱۷۱۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۱/۱۴۲۵ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام پر جمع کیا گیا چندہ متعلقات مسجد پر خرچ کرنا؟

**سوال (۲۰۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے نام پر وصول کیا گیا، چندہ متعلقات مسجد پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے لئے وصول کیا گیا، چندہ اس مسجد کی ملحق جگہوں پر بھی خرچ کیا جاسکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ ۶/۲۶۶، فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۱۵۱، جیل)

ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته، كما قام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (الدر المختار) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء، والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف. أي من غلته عمارته شرط الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة بصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر

المصالح. (الدر المختار مع الشامی ۵۰۹/۶-۵۶۱ زکریا، کذا فی البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۵۶/۵

زکریا، الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الوقف / مطلب: یبدأ من غلۃ الوقف بعمارتہ ۳۶۸/۲ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۶/۳/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے بیت المال کی رقم لوگوں کو قرض دینا؟

**سوال (۲۰۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے بیت المال کی رقم بطور قرض کاروبار کے لئے لوگوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی جمع شدہ رقم بطور قرض کاروبار کے لئے لوگوں

میں دینا جائز نہیں۔

مع أن القیم لیس له إقراض مال المسجد، قال فی جامع الفصولین: لیس

للمتولی یداع مال الوقف والمسجد إلا ممن فی عیالہ، ولا إقراضہ فلو أقرضہ

ضمن. (البحر الرائق / کتاب الوقف ۲۳۹/۵ کراچی)

وفی القنیة: ولا يجوز للقیم شراء شیء من مال المسجد لنفسه ولا البیع

له، وإن کان فیہ منفعة ظاهرةً للمسجد. (البحر الرائق / کتاب الوقف ۴۰۱/۵ زکریا)

والودیعة لا تودع ولا تعار ولا تواجر ولا ترهن، وإن فعل شیئاً منها

ضمن. (الفتاویٰ الہندیہ / الباب الأول من کتاب الودیعة ۳۳۸/۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۳/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین کی پیداوار کو فروخت کر کے روپیہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۱۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: زید نے مسجد کو ایک بیگھہ زمین وقف کر دی ہے، اس زمین سے جو غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے اس کو فروخت کر کے مسجد کی ضروریات میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؛ کیوں کہ عمر کا کہنا ہے کہ اس رقم کو مسجد کے کام میں صرف نہیں کر سکتے؛ لہذا حضور والا سے درخواست ہے کہ مفصل مدلل جواب عنایت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد پر موقوفہ زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے، اُس کو فروخت کر کے مسجد کی ضروریات مثلاً روشنی وغیرہ کے انتظامات میں صرف کر سکتے ہیں۔

مسجد له مستغلات وأوقاف، أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنًا أو حصيداً أو حصيداً أو حصيداً ..... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشتري للمسجد ما شاء.

(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد ۴۶۱/۲ زكريا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا أو خانًا الخ ۲۹۷/۳ زكريا)

المتولي إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد جاز. (الفتاوى

الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر من كتاب الوقف ۴۶۲/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۲/۱۴۲۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے پیسہ سے مسجد کے لئے مکان بنانا؟

**سوال (۲۱۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کا کچھ پیسہ ہے، جو مسجد ہی کے نام سے ہوا ہے، اس رقم کو کچھ لوگ مکان بنانے میں لگانا چاہتے ہیں؛ تا کہ مسجد میں انکم بڑھے، اور مسجد کی حالت بہت خستہ ہے، جس کا بنانا بہت ضروری ہے،

اگر نہ بنایا گیا، تو اس کا کچھ حصہ کرنے کا بھی اندیشہ ہے، تو کیا یہ رقم پہلے مکان میں استعمال کی جائے یا اللہ کا گھر درست کرایا جائے، اگر گنجائش ہو تو اس مسئلہ میں مسجد کی طرف رخ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں چوں کہ مسجد کی عمارت خود مرمت کی محتاج ہے؛ لہذا مسجد کی آمدنی مسجد کی تعمیر ہی میں لگائی جائے، اس سے مسجد کا مکان نہ بنوائیں، ہاں اگر مسجد کی مرمت وغیرہ سے بچ جائے تو وہ رقم دیگر مصالحِ مسجد میں خرچ کی جاسکتی ہے۔

ويبدأ من غلته بعمارتہ، ثم ما هو أقرب بعمارتہ، كإمام مسجد و مدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارتہ ۳۶۶۷-۳۶۶۸-۳۶۶۹، کراچی، ۵۶۰-۵۵۹/۶، وکذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثالث في المصارف ۳۶۸۲ زکریا)

لو وقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم الخ. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۴/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۲/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**موقوفہ جائیدادوں کو برادری کی ملکیت میں دینا اور فروخت کر کے رقم مسجد میں لگانا؟**

**سوال (۲۱۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گدی گودام ناگپور قریشی برادری کی جانب سے ہی ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ برادری کی دو جائیدادیں اور تھیں، ان کا نام عاشور خانہ (امام باڑہ) تھا، دوسری کا اکھاڑا انہیں بھی برادری کی جانب سے بنوایا گیا تھا، اس میں آج بھی گودام موجود ہے، کچھ عرصہ اس میں لائبریری چلائی گئی، اور کیرم وغیرہ بھی کھیلا گیا۔ ۱۹۵۳ء میں حکومت ہند کی جانب سے ایک نوٹس نکلا

کہ تمام مساجد، مندر، گرجاگر وغیرہ وقف ایکٹ کے تحت وقف بورڈ میں رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے، بقول عالی جناب الحاج شیخ حسین ابن حاجی علی صاحب جو اس وقت مسجد گڈی گودام ناگپور کے متولی ہیں، میرے (حاجی شیخ حسین) والد صاحب (مرحوم حاجی علی) ۱۹۵۳ء کے دوران شدید بیمار تھے، عالی جناب عبدالحمید ناگپوری جو کہ اس وقت مسجد گڈی گودام ناگپور کے متولی تھے، مرحوم شیخ چاند صاحب مرحوم عبدالوہاب وغیرہ اُن کی عیادت کے لئے آئے، اس وقت حاجی شیخ حسین بھی وہاں موجود تھے، مرحوم حاجی علی صاحب مرحوم عبدالحمید ناگپوری صاحب سے قبل مسجد گڈی گودام ناگپور کے متولی تھے، دورانِ گفتگو عیادت کو آنے والے لوگوں نے مریض حاجی علی صاحب سے فرمایا کہ وقف بورڈ سے نوٹس آیا ہے، اور مسجد گڈی گودام کو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ کروانا ہے، اس نوٹس کے ایک کالم میں مسجد کی پراپرٹی کا بیان بھی کرنا ہے؛ لہذا ان حضرات نے آپسی صلاح و مشورہ سے یہ طے کیا کہ مذکورہ عاشور خانہ (امام باڑہ) اور اکھاڑا کو نوٹس کے پراپرٹی کالم میں مسجد گڈی گودام ناگپور کی پراپرٹی بتادی جائے اور اس طرح مذکورہ پراپرٹی کو گڈی گودام مسجد کی پراپرٹی قرار دے دی گئی۔

اس کے کوئی کاغذات تحریری بیان وقف نامہ خرید و فروخت رسید وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، وقف بورڈ کے ریکارڈ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد کی پراپرٹی میں اکھاڑا اور ایک پکامکان ہے، جس کا کارپوریشن نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پکامکان ہے، جس کا کارپوریشن نمبر دیا گیا ہے، عاشور خانہ (امام باڑہ) ہی ہے، حاجی شیخ حسین صاحب نے بتایا کہ اس وقت یعنی ۱۹۵۳ء میں مذکورہ جائیدادوں کو مسجد پراپرٹی میں شامل کرنے کے لئے پوری برادری کی کوئی عام میٹنگ بلا کر منظوری نہیں لی گئی؛ کیوں کہ اس وقت برادری میں عموماً عام میٹنگ وغیرہ بلائی ہی نہیں جاتی تھی، مندرجہ بالا مذکورہ حضرات ہی برادری کے ذمہ دار اور معتبر حضرات تھے، یہ لوگ جو فیصلہ کرتے تھے برادری برادری عموماً اسے قبول کر لیتی تھی۔ ۱۹۵۳ء کے بعد بھی چند برسوں تک عاشور خانہ و اکھاڑا میں وہ تمام کام انجام دئے جاتے تھے، جو اس سے قبل ہوتے تھے؛ لیکن بعد میں عاشور

خانہ چڑے کے گودام کے لئے کرایہ سے دے دیا گیا ہے، جس کی آمدنی مسجد میں دی جاتی تھی، اور اس کے اخراجات ٹیکس وغیرہ بھی مسجد کی جانب سے ادا کئے جاتے تھے، اور آج بھی تمام یہ اخراجات مسجد ہی کی جانب سے ادا کئے جاتے ہیں، اس وقت عاشور خانہ کی آدھی سے زیادہ عمارت گر چکی ہے اور باقی عمارت میں چڑے کا گودام ہے، جس کا ماہانہ کرایہ ۲۵۰ روپے ہے، ۱۰۰ روپے تعمیری خرچ کاٹ کر ۱۵۰ روپے مسجد میں آتا ہے، اس کا خرچ ٹیکس وغیرہ بھی مسجد کی جانب سے دیا جاتا ہے، فی الوقت مسجد کو اکھاڑا سے کوئی آمدنی نہیں ہے، یہ عمارت بھی خستہ حالت میں ہے، اس میں ایک عربی مدرسہ چلتا ہے اور اس کے اخراجات اور ٹیکس وغیرہ بھی مسجد ہی کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے، کئی برسوں سے برادری میں ایک فنڈ اس مقصد سے جمع ہو رہا تھا کہ برادری کا ایک جماعت خانہ بنایا جائے، جسے شادی وغیرہ کے لئے دیا جائے، اس میں مہمانوں کے ٹھہرنے کے لئے کمرے بنائے جائیں، مدرسہ چلائیں، تعلیم سے محروم عمر دراز لوگوں کو دنیاوی دینی تعلیم دی جائے اور برادری کے فلاح و بہبودی کے کام جیسے خواتین کے لئے سلائی اسکول، عربی درس اور دینی و دنیاوی اجلاس وغیرہ کا انتظام کیا جائے، خیال ہوتا ہے کہ جماعت خانہ مذکورہ امام باڑہ (عاشور خانہ) اور اکھاڑا کی جگہ پر ہی بنایا جائے؛ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یہ تو مسجد کی جائیدادیں ہیں، اس پر برادری کا جماعت خانہ بنانے کا کام کس طرح انجام دیا جاسکتا ہے؟

چند مہینہ قبل برادری کی عام میٹنگ ہوئی، جس میں مسجد کمیٹی کے اراکین متولی اور کئی ذمہ دار حضرات بھی شریک ہوئے اور طے کیا گیا کہ برادری کی ایک سوسائٹی رجسٹرڈ کروالی جائے، اور مذکورہ ملکیت اس سوسائٹی میں منتقل کر دی جائے؛ لہذا قریش برادری کی ایک سوسائٹی ناگپور قریش ایسوسی ایشن ناگپور کے نام سے انڈین سوسائٹی رجسٹریشن ایک ۱۹۶۰ء کے تحت رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور انشاء اللہ بہت جلد اس کا رجسٹریشن بمبئی پبلک ٹرسٹ ایکٹ ۱۹۵۰ء کے تحت بھی ہو جائے گا۔

اب قریش برادری کے کئی ذمہ دار حضرات کا مطالبہ ہے کہ عاشور خانہ (امام باڑہ) و اکھاڑا مسجد پراپرٹی سے علیحدہ کر کے برادری کی پراپرٹی قرار دی جائے یا یہ کہ یہ ملکیت پہلے چوں کہ



برادری کی تھی، اس لئے برادری کو واپس کر دی جائے، یعنی مذکورہ ملکیت کو ناگپور قریش ایسوسی ایشن ناگپور میں منتقل کر دی جائے؛ تاکہ ناگپور قریش ایسوسی ایشن ان جگہوں پر جماعت خانہ وغیرہ بنا کر اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔

یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے قبل بھی ۵۵-۱۹۵۸ء کے درمیان برادری کی طرف سے یہ بات اٹھی تھی کہ چونکہ برادری پر کچھ مصیبتیں ہیں؛ اس لئے ان جائیدادوں کو فروخت کر کے یارہن رکھ کر ان مشکلات کو حل کیا جائے؛ لیکن یہ ملکیت مسجد میں ہونے کی وجہ سے یہ کام انجام نہیں دیا گیا، چند سال قبل یہ بات بھی اٹھی تھی کہ یہ جائیدادیں برادری کی ہیں؛ اس لئے برادری کو واپس کر دینا چاہئے، وکیل وغیرہ سے مشورہ بھی لیا گیا تھا؛ لیکن بات جہاں تھی وہیں رہ گئی اور اس مرتبہ یہ بات پوری زور داری سے اٹھائی گئی ہے، جس کا مکمل فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا، مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۹۴ء بروز سنہ ۱۳۱۴ برادری کی ایک نشست ہوئی، جس میں گڈی گودام مسجد کے متولی عالی جناب شیخ حسین صاحب نے ناگپور قریش ایسوسی ایشن ناگپور پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ مکمل تفصیل بیان کر کے اس مسئلہ پر علماء کرام سے فتویٰ حاصل کیا جائے، کیا اوپر بیان کی گئی جائیدادیں یعنی عاشور خانہ (امام باڑہ) اور اکھاڑا جو کہ وقف بورڈ کے ریکارڈ میں مسجد گڈی گودام ناگپور کی ملکیت بتائی گئی ہے، برادری کے رجسٹرڈ ادارہ ناگپور قریش ایسوسی ایشن ناگپور میں منتقل کیا جاسکتا ہے، اس پر علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ عاشور خانہ یا امام باڑہ اس جائیداد کا پرانا نام ہے اور باقی حصہ گرچکا ہے، اسی طرح دوسری جائیداد کا پرانا اور نیا نام رکھاڑا ہے، یہ عمارت خستہ حالت میں اور دو منزلہ ہے جس میں اوپر عربی کا مدرسہ چلتا ہے اور نیچے گودام موجود ہے، تو کیا ان دونوں جائیدادوں کو مسجد کی جانب سے فروخت کر کے حاصل شدہ رقم کو مسجد کی تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے۔

برادری کی جائیدادوں کو مسجد میں وقف کرنے کی وہ مکمل شرائط روانہ کریں، جن کو انجام دئے بغیر برادری کی جائیدادیں مسجد میں وقف نہیں ہو سکتی یا جن کو انجام دینے پر برادری کی جائیدادیں مسجد کے لئے وقف ہو جاتی ہیں اور اسے پھر مسجد سے الگ نہیں کیا جاسکتا، اوپر بیان کی گئی تفصیل

کے مطابق اگر ان جائیدادوں کو مسجد سے نکالا جاسکتا ہے اور انہیں ناگیورقریش ایسوسی ایشن میں منتقل کیا جاسکتا ہے، تو اس کے لئے کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا، یہاں پر یہ بھی بتانا مناسب ہوگا کہ جس طرح قریش برادری جماعت خانہ بنا کر اوپر بتائے ہوئے فلاح و بہبودی کے کام انجام دینا چاہتی ہے، اسی طرح قریش برادری مسجد گڈی گودام کے تمام کام اور مسائل کو بھی حل کرنے میں پیش پیش رہتی ہے، پچھلے سال ہی برادری نے ایک گوشت اسکیم چلا کر فنڈ جمع کیا اور اس رقم سے مسجد کے لئے مسجد ہی سے لگ کر ایک مکان خریدنے کا معاہدہ کیا، جسے خریدنے کے بعد مسجد کو باسانی بڑھایا جاسکے گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** برادری کے ذمہ دار اور معتبر افراد کے مشورہ سے جب مذکورہ جائیدادیں مسجد کے نام وقف میں شامل کر دی گئیں اور آج تک ان کی آمدنی مسجد میں وصول کی جاتی رہی، تو اب ان جائیدادوں کو مسجد کی ملکیت سے نکال کر برادری کی ملکیت میں داخل کرنے کا حق نہیں رہا، ان جائیدادوں کو صرف مسجد کے فائدہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، اگر ان پر کوئی تعمیر وغیرہ کرنی ہے تو اس کا کرایہ مسجد کو دینا ہوگا۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يوهن. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله: موقوفة وقوله: فموقوفة على فلان ۱/۶ ۳۵ کراچی، ۵۳۹/۶ زکریا)

إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تملكه .....، أما امتناع التملك فلما بينا من قوله عليه السلام: تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. (الهداية / كتاب الوقف ۶۴۰/۲ إدارة المعارف ديوبند، ۶۱۹/۲ المكتبة النعمية ديوبند، كذا في فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۰/۱۶ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۵/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**ہارن کے چندہ کو مسجد کی تعمیر میں لگانا؟**

**سوال (۲۱۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: رمضان المبارک میں سحر و افطار کے واسطے ہارن کے لئے چندہ کیا گیا، بعد ازاں ہارن خرید لیا گیا، ہارن کے واسطے جو چندہ کیا تھا، اس میں سے دو ہزار روپے باقی بچے ہیں۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ باقی ماندہ رقم مسجد کے دوسرے کام (تعمیر) میں استعمال کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس وقت مسجد میں غسل خانے، ٹنکی، دروازہ وغیرہ کا کام چل رہا ہے؛ لہذا مذکورہ بالا کاموں میں یہ رقم استعمال کی جائے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر چندہ دہندگان کی طرف سے صراحۃً یا دلالۃً اس روپے کو دیگر امور و ضروریات مسجد میں صرف کرنے کی اجازت ہے، تو یہ روپیہ دیگر مصارف مسجد میں خرچ کرنا درست ہے ورنہ نہیں۔ (مستفاد: منتخب نظام الفتاویٰ ۹۳/۱)

شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر / كتاب الوقف من الفن الثاني ۱۰۶/۲ زكريا، كذا في الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب استأجر داراً فيها أشجار ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ - كراچی، ۶/۶۴۹ زكريا)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (رد المحتار / مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۳۴۳/۴ دار الفكر بيروت، ۶/۶۴۹ زكريا)

رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني ۶۰/۲ زكريا)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة ۶۰۴/۱ رقم المادة: ۱۱۹۲ المكتبة الحنفية كوثقه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## تعمیری چندہ سے مسجد کی بجلی کا بل ادا کرنا؟

**سوال (۲۱۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد کا بجلی کا بل پچھلا رکا ہوا کچھ زیادہ رقم کا آ گیا ہے جو کہ ایک ساتھ ادا کرنا ہے، ہمارے پاس مسجد کے اکاؤنٹ میں رقم اس وقت کم ہے، مسجد کی نئی تعمیر کے لئے اس وقت چندہ ہوا ہے، یہ رقم عوام سے ہمارے پاس آئی ہے، اور چندہ برابر ہو رہا ہے، تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، ہم اس چندہ کی رقم میں سے کچھ رقم اُدھار لے کر اس وقت بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعد میں اس چندہ کی رقم کی ادائیگی مسجد کی دوکانوں کے کرایہ کی رقم میں سے ادا کر دی جائے گی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** چندہ دہندگان سے اجازت لے کر یہ رقم مسجد کے بجلی کے بل کی ادائیگی میں بطور قرض خرچ کی جاسکتی ہے، بعد میں جب مزید آمدنی ہو تو اس قرض کو بے باق کر دیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱/۳۹۱)

شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر / كتاب الوقف من الفن الثاني ۱۰۶۲ زكريا، كذا في الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب استأجر داراً فيها أشجار ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا)

أي مصالح المسجد، فيدخل المؤذن والناظر؛ لأننا قدمنا أنهم من المصالح، وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام؛ لأنه إمام الجامع، فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقاً بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمان القناديل والزيت والحصر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۹/۵ زكريا)

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصصه ولا يخلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة، وليس فيها ما يفي به، يستقرض من خزانة

غیرہا، ثم إذا حصل التي استقرض به مال يُؤدُّ إلى المستقرض. (رد المحتار، کتاب

الزكاة / باب العشر، مطلب: في بيان بيوت المال ومصارفها ۳۳۷/۲ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/ ۳/ ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی رقم سے قبرستان کی باؤنڈری کرانا

**سوال (۲۱۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: میں مسجد کا خزانچی ہوں، اور مسجد قبرستان کے درمیان میں ہے، مسجد کی ایک رسید ہے، اس رسید کے ذریعہ بازار سے چندہ ہوتا ہے، کافی رقم میرے پاس ہے، اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جمع شدہ رقم کو قبرستان کی باؤنڈری اور تعمیر عید گاہ وغیرہ میں خرچ کرنا چاہئے، کیا مسجد کے علاوہ پر مذکورہ رقم خرچ کی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی رقم قبرستان میں نہ لگائیں اور چوں کہ مسجد میں

اب رقم کی ضرورت نہیں ہے؛ لہذا اس کے لئے مزید چندہ نہ کریں، اور اگر ضرورت ہو تو قبرستان کے لئے الگ سے چندہ کریں۔

ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: فیما لو

خریب المسجد أو غیرہ ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

وإن اختلف أحدهما بأن بنی رجلان مسجدین أو رجل مسجدًا ومدرسة،

ووقف علیها أو قافًا، لا يجوز له ذلك (الدر المختار) قوله: لا يجوز له ذلك:

أي الصرف المذكور ..... قال الخیر الوملی: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا

كان الوقف منزلین: أحدهما للسكنی والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما

للآخر، وهي واقعة الفتوى الخ. (رد المحتار، کتاب الوقف / مطلب فی نقل أفاض المسجد

وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين

للآخر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳/۱۰/۱۴۱۳ھ

## مسجد کا مال فروخت کر کے مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۱۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مسجد کا مال فروخت کر کے مسجد میں لگانا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** ضرورت کے وقت جائز ہے۔

سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدھا إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبة وينقلونها إلى دورهم هل لو احد أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد، قال نعم. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في نقل أقطاف المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ کراچی، ۵۵۰/۶ زکریا)

وأما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ وهذا لأن في صيرورته وقفًا خلافًا، والمختار أنه لا يكون وقفًا، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت. (فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۴/۶-۲۲۵ مصطفیٰ البابی الحلبي مصر، وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۳۷۷/۴ کراچی)

وفي الحاوي: فإن خيف هلاك النقض باعه الحاكم وأمسك ثمنه

لعمارتہ عنہ لحاجة. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۸/۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۳/۱۴۱۷ھ

## مسجد کے فنڈ سے تعزیرہ بنوانا؟

**سوال (۲۱۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں تعزیرہ داری کا رواج قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے، اب الحمد للہ کسی حد تک لوگ باز آ گئے ہیں؛ لیکن تعزیرے اب بھی بنائے جاتے ہیں اور تعزیرہ سازی پر جو رقم صرف ہوتی ہے، وہ مسجد کا جمع کردہ فنڈ ہوتا ہے، جب اُن کو مسجد کے فنڈ میں سے خرچ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم پرانے زمانے سے کرتے آئے ہیں، مؤدبانہ درخواست ہے کہ تعزیرہ سازی پر قدرے روشنی ڈالتے ہوئے مسئلہ کی وضاحت کی جائے، نوازش ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** تعزیرہ داری و تعزیرہ سازی بدعت و گناہ کا کام ہے، مسجد کا فنڈ اس ناجائز کام میں استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں اور یہ کوئی دلیل نہیں کہ پرانے زمانے سے یہ کام ہو رہا ہے؛ اس لئے کہ بہت سے حرام کام صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں؛ لیکن انہیں اس بنا پر جائز نہیں کہا جاسکتا۔ (فتاویٰ رحیمیہ ۶/۲۷۷ زکریا)

وَأَمَّا اتِّخَاذُهُ مَاتَمَا لِأَجْلِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَمَا يَفْعَلُهُ الرُّوَافِضُ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا، إِذْ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ بِاتِّخَاذِ أَيَّامِ مَصَائِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْتِهِمْ مَاتَمَا فَكَيْفَ بِمَنْ دُونِهِمْ؟ يَجِبُ عَلَى وِلَاةِ الدِّينِ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ، وَالْمُسْتَمْعُونَ لَا يَعْذِرُونَ فِي الْإِسْتِمَاعِ. (محالسا الأبرار ۲۵۳ بحوالہ: فتاویٰ محمودیہ ۴۸۵/۵ میرٹھ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی رقم سے جنازہ کی چارپائی تیار کرنا؟

**سوال (۲۱۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی رقم سے جنازہ اٹھانے کی مسہری تیار کروانا اور اُس پر میت کو اٹھا کر لے جانا اور پھر مسجد میں رکھ دینا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جنازہ کی مسہری مسجد کی ضروریات میں داخل نہیں ہے، مسجد کی رقم سے اسے خریدنا درست نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو الگ سے چندہ کیا جائے اور اُسے مسجد پر وقف کر دیا جائے۔

ولیس لقیم المسجد أن يشتري جنازة، وإن ذكر الواقف أن يشتري جنازة، كذا

في السراجية . (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد ٤٦٢/٢ زكريا)

ذكر الواقف في كتاب الوقف أن القيم يشتري جنازة، لا يجوز للقيم أن

يشتري جنازةً من غلة الوقف، ولو اشترى ونقد الثمن من غلة الوقف، يكون

ضامناً ..... وشراء الجنازة ليس من مصالح المسجد . (فتاوى قاضي خان علی هام

الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا الخ ٢٩٧/٣ زكريا، وكذا في البزاية علی

هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الرابع في المسجد وما يتصل به ٢٦٩/٦ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ٦/١٢ ١٤٢١ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کی آمدنی سے متوفی امام کے وارثین کے لئے پنشن دینا؟**

**سوال (۲۱۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: میری مسجد کے امام صاحب کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، تو مسجد کمیٹی کے متولی صاحب

نے ایک متعین رقم ان کے بال بچوں کے لئے مسجد کمیٹی سے مختص کر دیا، اس پر ایک عالم صاحب نے

کہا کہ متولی صاحب کا یہ فعل خلاف شرع ہے، انہوں نے کہا کہ متولی عام لوگوں کا وکیل ہے، اور

وکیل کو موکل کے منشاء کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں، مذکورہ مسئلہ میں وکیل کو اجازت نہ تو صراحتاً



ہے اور نہ ہی دلالت ہے، ہاں اگر اس علاقہ میں اس طرح کا عرف ہوتا تو دلالتاً اجازت مانی جاتی، ایسا عرف بھی نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں کہ عالم صاحب کا کہنا صحیح ہے یا متولی کا فعل صحیح ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے وقف کی آمدنی سے متوفی امام کے خاندان کو پیشینہ دینا جائز نہیں؛ لیکن اگر مسجد کی کمیٹی اس عنوان سے چندہ کرے اور چندہ دہندگان سے صراحت کر دے کہ اس میں سے متوفی امام کے گھر والوں کی مدد کی جائے گی، تو اس تعاون کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

إذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (الفتاوى الهندية / مطلب الوقف على عمارته ومصالحة سواء على الأصح ٤٦٣/٢)

الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف وأنه صحيح، ولكن يشتري به مستغلاً للمسجد، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم ٤٦٣/٢) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱/۷/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے فنڈ سے پانی گرم کرنے کا انتظام کرنا؟

**سوال (۲۲۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد کا ذریعہ آمدنی دو چیزیں ہیں: ایک آٹھ دس ہیکھ کا قطعہ جو کسی صاحب نے مسجد کو وقف کیا تھا، اور اب اُن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، دوسرے ہفتہ واری آگاہی پر جمعہ کو روپے دو روپے کی شکل میں، مذکورہ دونوں آمدنیوں کو ملا کر مسجد کی جملہ ضروریات پوری کی جاتی ہیں، چاہے وہ امام و مؤذن کی تنخواہ ہو، چاہے وہ مسجد کی لائٹ کے بل کا صرفہ ہو، چاہے وہ مسجد کے لئے صفوں کا

خریدنا ہو، چاہے وہ وضو کے لئے پانی کا انتظام ہو، اور اسی طرح موسم گرمی میں لائٹ نہ ہونے پر جزیرے کے ذریعے پتکھے اور لائٹ جلانا ہے، مسجد کی تمام ہی ضروریات مسجد کی مذکورہ دونوں آمدنیوں سے ہی پوری کی جاتی ہیں، اور اب مسجد کے مصلیٰ حضرات کا کہنا ہے کہ موسم سردی میں پانی لوگ گرم کرنے کے لئے لکڑی کا انتظام بھی مسجد کی مذکورہ آمدنی سے کیا جائے، جب کہ اب تک موسم سردی میں لکڑی کے نام سے مصلیٰ حضرات آپس میں چندہ جمع کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ مطالبہ کی مسجد کی تمام ضروریات جب مسجد کی تحویل سے پوری کی جاتی ہیں، تو یہ ضرورت بھی مسجد کی تحویل سے پوری کی جائے۔ دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی تحویل سے مصلیٰ حضرات کا یہ مطالبہ از روئے شرع درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسبِ تحریر سوال اگر مسجد کی آمدنی میں گنجائش ہو، تو

متولی مسجد کمیٹی کے مشورہ سے پانی گرم کرنے کے لئے ایندھن کا انتظام بھی مسجد کے فنڈ سے کر سکتا

ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۳/۲۵۵-۲۵۵؛ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند)

مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف  
للمسجد دهنًا أو حصيرًا أو حشيشًا أو اجرًا أو حصًا لفرش المسجد أو حصي،  
قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له  
أن يشتري للمسجد ما شاء. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب لحدادي عشر في المسجد الخ  
٤٦١/٢، كذا في فتاوى قاضي خان على الفتاوى الهندية / باب الرجل يجعل دره مسجداً أو خاناً الخ ٢٩٧/٣ زكريا)  
ويبدأ من غلته بعمارتها، ثم ما هو أقرب لعمارتها كإمام مسجد، ومدرس  
مدرسة (الدر المختار) قوله: ثم ما هو أقرب لعمارتها، والذي يبدأ به من ارتفاع  
الوقف: أي من غلته بعمارتها، شرط الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة  
وأعم للمصلحة.....، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. (الدر

المختار، كتاب الوقف / مطلب: يبدأ بعد العمارة الخ ۳۶۷/۴-۳۶۸- کراچی، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۶/۵ زکریا، مجمع الأنهر / كتاب الوقف ۵۸۷/۲ المكتبة الغفرية کوئٹہ

حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض. (تنوير الأبصار مع الدر المختار على رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۳۵۹/۴ کراچی، ۵۴۹/۶ زکریا)

سئل عن شمس الحلواني عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها ۴۷۸/۲ زکریا، وكذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها ۸۷۷/۵ إدارة القرآن کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۴/۲۰۲۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد بننے کے بعد اس کی آمدنی کے لئے نیچے دوکان بنانا؟

**سوال (۲۲۱):**— کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے محلہ میں ایک مسجد ہے، اور اُس میں نماز بھی ہو رہی ہے، اور مسجد کی آمدنی بھی بہت کم ہے، اور مسجد کی جگہ بھی محدود ہے، اور پڑوس والا بھی بطور معاوضہ زمین دینے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اہل کمیٹی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے نیچے والے حصہ میں کچھ دوکانیں اور مسجد کے سامان رکھنے کے لئے بنالیں، آیا ایسا کرنا اہل کمیٹی کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی، تو اب مسجد کی آمدنی کے

لئے نیچے والے حصہ میں بھی دوکانیں اور کمرے بنانا جائز نہیں ہے؛ ہاں البتہ مسجد کے خارجی حصہ کے نیچے بنا سکتے ہیں۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أي المسجد جاز. (الدر المختار مع الشامي / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۷/۴ دار الفکر بیروت، کذا في لبحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۳۵۷/۴ کراچی) وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ۱۸] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفًا لمصالح المسجد.....، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۱/۵ زکریا، وكذا في رد المختار، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۷/۴-۳۵۸ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۲۱/۲/۱۴۲۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تراویح کے چندہ کو مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۲۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراویح کے لئے چندہ کر کے پھر اُس کو مسجد یا دوسرے کار خیر میں صرف کرنا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** چندہ دہندگان اگر اجازت دے دیں، تو اس رقم کو مسجد اور دیگر کار خیر میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (رد المختار / مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم

باقی چوں کہ تراویح میں اُجرت دینا جائز نہیں؛ لہذا اس مقصد سے چندہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

قوله: ولا لأجل الطاعات: الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم، لا يجوز الاستيجار عليها عندنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. (رد المحتار، كتاب الإحارة / باب الإحارة الفاسدة، مطلب في الاستيجار على الطاعات ۵۵/۶ کراچی، وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية / كتاب الإحارة ۱۳۷/۲ المكتبية الميمنية مص) فقط والله تعالى أعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۶/۱۴۱۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## امام کو کم تنخواہ دے کر مسجد کی آمدنی نقش و نگار میں لگانا؟

**سوال (۲۲۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کہتا ہے کہ امام کی تنخواہ بھی کم سے کم ہو، مسجد میں نائب امام اور مؤذن بھی مستقل ہو، مسجد کے پیسے بچائے جائیں؛ لیکن اس کے باوجود مسجد کے بیناروں وغیرہ میں نقش و نگار پر لاکھوں روپے ناجائز ڈھنگ سے خرچ کرتا ہے، ان فضول نقش و نگار کا مساجد میں کہاں تک جواز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** متولی اور صدر کمیٹی کا یہ عمل خلاف شریعت ہے، مسجد کی آمدنی کو اس مد میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔

بجص و ماء ذهب لو بماله الحلال لا من مال الوقف فإنه حرام. (الدر المختار) وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه، وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقاً لعدم الفائدة فيه. (شامي، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره؛ لأنه البأس الشدة ۶۵۸/۱ کراچی، ۴۳۱/۲ زکریا)

ولا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ونحوه ..... إذا فعل من مال نفسه. أما المتولي فلا يجوز أن يفعل من مال الوقف إلا ما يرجع إلى أحكام البناء، حتى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن الخ. (الحلي الكبير، كتاب الصلاة / فصل في أحكام المسجد ۶۱۵-۶۱۶ سهيل أكيدمي لاهور)

يجوز نقشه بالجص وماء الذهب إذا تبرع به إنسان، سوى جدار القبلة. (الدرالمتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: ۱۹۰/۱ المكتبة الغفارية كوثه)

ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ..... وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولي يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش، حتى لو فعل يضمن. (الهداية، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۴۴/۱ مكتبة شركت علمية ملتان، الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، فصل: ۱۰۹/۱ زكريا، وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: ۶۵/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۲۱/۱۴۲۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سودی قرض پر خریدے گئے ٹرک کی آمدنی مسجد مدرسہ میں لگانا؟

**سوال (۲۲۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے بینک سے سود پر قرض لے کر کوئی کاروبار کیا، یا ٹرک وغیرہ خریدا، اُس کی آمدنی سے زکوٰۃ و صدقات اور دیگر مددات میں روپیہ مدارس میں دینا یا کسی مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بینک سے سود پر قرض لینا گناہ ہے، اُس عمل کا گناہ

مذکورہ شخص پر ہوگا؛ لیکن اُس کی آمدنی حرام نہیں کہلائے گی؛ اس لئے کہ سودی اصل رقم اس کے سرمایہ میں شامل نہیں ہے؛ بلکہ وہ رقم اس نے نکال کر بینک کو دے دی ہے؛ لہذا اس آمدنی کو مدارس یا مساجد میں لگانا بلاشبہ درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۶۱۵ اڈاہیل)

قال اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [ال

عمران، جزء آیت: ۱۳۰]

قال اللہ تعالیٰ: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة، جزء آیت: ۲۷۵]

عن علي رضي الله عنه: كل قرضٍ جر منفعةً فهو ربا. ذكره السيوطي في

الجامع الصغير. (تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع / باب الربا ۱/۵۶۸۱ مكتبة دار العلوم كراچی)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أكل الربوا ومؤكله و كاتبه وشاهديه، وقال: هم سوا. (صحيح مسلم ۲۲۲/۷ رقم:

۱۵۹۸، سنن الترمذي ۲۲۹/۱ رقم: ۱۲۰۶، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع / باب في أكل الربا ومؤكله

۱۱۷/۲ المكتبة الإمدادية ملتان، مشكاة المصابيح، البيوع / باب الربا ۴۴۴، مرقاة المفاتيح ۴۳/۶ رقم:

۲۸۰۷ دار الكتب العلمية بيروت)

لأن القرض إعارَةٌ ابتداءً حتى يصح بلفظها، معاوضةً انتهاءً؛ لأنه لا يمكن

لانتفاع به إلا باستهلاكه ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح. (رد المحتار،

كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية، فصل في القرض ۱۶۱/۵ كراچی)

يجوز للمحتاج الاستقرض بالربح. (البحر الرائق / البيوع ۲۱۱/۶ زكرياء، الأشباه

والنظائر / الفن الأول، قبيل: القاعدة السادة ۹۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۲/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مالی جرمانے کی رقم مسجد و مدرسہ میں دینا؟

سوال (۲۲۵): کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا جرمانہ کی رقم مسجد و مدرسہ یا کسی غریب کو دی جاسکتی ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مالی جرمانہ میں لی ہوئی رقم مالک کو واپس کرنا لازم ہے،  
اُسے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

عن عطاء بن أبي رباح رجل أصاب مالا من حرامٍ؟ قال: ليرده على أهله  
فإن لم يعرف أهله فليصدق به، ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه. (المصنف لابن أبي  
شيبه ۱۱ / ۶۵۰ رقم: ۲۳۵۹۳ المجلس العلمي)

قال في الفتح: عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ  
المال، وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية  
عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على  
أخذ المال للناس فيما يأكلون الخ. ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. وأفاد في  
الجزاية: أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيء من ماله عنده مدة  
لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم بنفسه أو لبيت المال كما  
يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن  
أيس منتوبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء  
الإسلام، ثم نسخ الخ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال الخ. (رد  
المحتار، كتاب الحدود / باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال ۶۱/۴-۶۲ كراچی، حاشية  
الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحدود / باب التعزير ۱۱/۲ ۴ دار المعرفة بيروت، وكذا في النهر  
الفائق، كتاب الحدود / باب حد القذف، فصل في التعزير ۱۶۵/۳ زكريا)

والسبيل في المعاصي ردها، وذلك ههنا برد الماخوذ إن تمكن من رده  
بأن عرف صاحبه. (الفتاوى الهندية / الباب الخامس عشر في الكسب ۳۴/۹۵، المحيط البرهاني



املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۶/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی مسجد کا ملبہ فروخت کر کے پیسہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۲۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی تعمیر نو کا ارادہ ہے انشاء اللہ، پرانی مسجد سے جو ملبہ یعنی کنکر اور ریت وغیرہ نکلے گا، وہ تمام مسجد کے کام میں نہیں آ سکتا؛ لہذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خریدنے والا اس کو کہاں کہاں یعنی کن کن جگہوں پر استعمال کر سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** پرانی مسجد سے جو ملبہ کنکر اور ریت وغیرہ نکلے، وہ اگر نئی

تعمیر میں کام نہ آ سکے؛ بلکہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اُس کو فروخت کر کے اُس کی قیمت اسی مسجد میں لگا دینی چاہئے، اور خریدنے والا اُس چیز کو جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے؛ اس لئے کہ خریدنے کے بعد وہ چیز اب مسجد کی نہیں رہے گی۔ (امداد الفتاویٰ ۱۲/۶۷)

والذي ينبغي متابعة المشايخ في جواز النقل بلافراق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة، ولا سيما في زماننا؛ فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذه أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد - ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه. (شامی، کتاب الوقف / مطلب في نقل أنقاض المسجد وغيره ۳۶۰/۴، کراچی،

۵۵۰/۶ زکریا، کذا في الفتاوى الهندية / الباب الثالث عشر في الأوقاف الخ ۴۷۸/۲ زکریا، الفتاوى التاتارخانية / الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني الخ ۸۷۷/۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## قبرستان کاروپہ مسجد میں صرف کرنا؟

**سوال (۲۲۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی قبرستان کاروپہ کسی مسجد میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** قبرستان کاروپہ اگر قبرستان ہی کی کسی ضرورت (چہار دیواری وغیرہ) میں لگانا ممکن ہو، تو وہ روپیہ دیگر کسی مصرف مسجد وغیرہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔  
علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفین واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۱۱/۲۰۱۴ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی رقم امانت رکھنے کے بعد خزانچی نادار مفلس ہو گیا؟

**سوال (۲۲۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد کے منتظم کا صدر و سکریٹری صاحبان نے مسجد کے کچھ انتظام محلہ میں ایک دوکان دار صاحب کو سونپ رکھے تھے کہ مسجد کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس دوکان پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً جھاڑو، موم، بتی، ماچس، تیل وغیرہ وغیرہ۔ دیگر انہوں نے مسجد کی رسیدات بھی دی تھیں، اگر کسی کو مسجد کی امداد کرنی ہے تو دوکان دار صاحب سے رسید بنوالیں؛ لہذا محلہ والے دوکان دار صاحب کو چندہ دیتے تھے، اس طرح دوکان دار صاحب کے ہاتھ میں مسجد کی آمد و خرچ کا حساب بھی تھا، اس آمد و خرچ کا حساب لینا دینا صدر و سکریٹری صاحبان کی ذمہ داری پر تھا، اچانک دوکان دار صاحب کی مالی پوزیشن بگڑی اور دوکان ختم ہوگئی، معلوم یہ ہوا کہ دوکان دار صاحب کی طرف مسجد کی کافی رقم ہے، کچھ انہوں نے ادا کر دی کچھ بقایا ہے، جس کو تقریباً آٹھ دس سال کا عرصہ ہو رہا ہے،

تقریباً تین چار ہزار کی رقم بتلائی جا رہی ہے، دوکان دار صاحب دو بھائی تھے، دونوں کی دوکانیں تھیں، دونوں ہی کے پاس مسجد کا حساب رہتا تھا، دونوں ایک ہی مکان میں رہتے تھے، اب ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، دوسرے بھائی انتہائی کمزوری و خستہ حالی میں ہیں، جو مسجد کی رقم ادا نہیں کر سکتے، ادا کرنے کے لئے کہتے ہیں مگر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا مسجد کی رقم دوکان دار صاحب کی خستہ حالت کی بنا پر معاف کی جاسکتی ہے۔ یاد دوکان دار سے وصول ہی کرنا ضروری ہے، یا اس رقم کے ذمہ دار مسجد کے صدر و سکریٹری ہیں؛ کیوں کہ دوکان دار کو صدر و سکریٹری صاحبان نے ہی امین بنا کر رکھا تھا، کسی نمازی یا محلہ والوں کا مشورہ نہیں تھا؛ لہذا اُس رقم کا ذمہ دار کون ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو دوکان دار مسجد کی رقم کا ذمہ دار تھا، اُس کے اوپر مسجد کی بقایا رقم ادا کرنا لازم ہے، وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی، اگر وہ بالکل مجبور ہے تو کسی صاحب خیر سے اپنے لئے صدقہ کے طور پر رقم لے کر پھر مسجد میں جمع کر دے، بغیر ادا کئے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہو سکتا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۱/۲۵۷ قدیم زکریا)

قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

اُكَّارُ تَنَاوُلٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَصَالِحِ الْمَتَوَلِيِّ عَلٰى شَيْءٍ، فَهٰذَا عَلٰى وَجْهِينَ: اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْاَكَّارُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا، ففِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لَا يَجُوْزُ الْحِطُّ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ. وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَجُوْزُ، اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ غَبْنٌ ظَاهِرٌ. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / تصرف القيم في الأوقاف ۷۸/۸ رقم: ۱۱۲۶۶ زکریا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس في ولاية الوقف ۶۴۲/۲ زکریا)

وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلٰى أَرْبَابِ مَعْلُومِينَ وَمُسْتَحْقِينَ مَخْصُوصِينَ، لَا تَجُوْزُ الْمَسَامِحَةُ وَالْحِطُّ بِالصَّلْحِ مُطْلَقًا. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۴۰۶/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## موقوفہ قبرستان میں ذاتی رقم سے لگائے گئے درختوں کی قیمت

### مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۲۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں صرف چند مسلمان ہیں، نہ وہاں مسجد ہے نہ مدرسہ، چک بندی کے موقع پر حکومت سے ایک قبرستان کی زمین ملی تھی، پیڑ لگادئے، پیڑ فروخت کئے گئے، اُن کے نزدیک گاؤں میں مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، تعمیر مسجد میں اس میں کی کچھ رقم لگادی گئی، کچھ عرصہ بعد تعمیر پھر ضرورت پڑی، تو اس گاؤں کے چند افراد ان لوگوں سے رقم مانگنے گئے، مگر اُن لوگوں نے اُن پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اُن کو واپس کر دیا اور خود جا کر مسجد کے لئے ایک گیٹ بنا کر نزدیکی گاؤں کی مسجد کے لئے لے آئے، جس میں کچھ اپنی ذاتی رقم بھی صرف کی ہے، اب جن حضرات کو واپس کر دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قبرستان کے پیڑوں کی رقم مسجد میں لگانا درست نہیں ہے، جب کہ اس سے پہلے لگائی جا چکی ہے، نیز یہ بھی واضح رہے کہ اگر وہ گیٹ نہ بنواتے، تو جلد ہی وہ رقم اُن حضرات میں خود اپنی ضروریات پر خرچ کر ڈالنے کی نیت میں تھے، گیٹ رکھا ہوا ہے، وہ مسجد میں لگایا جائے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال نامہ کے مطابق چون کہ یہ زمین من جانب

حکومت قبرستان کے لئے وقف ہے، لہذا اگر موقوفہ قبرستان میں پیڑ خود نہ لگے ہوں؛ بلکہ حالت وقف میں اہل مقبرہ نے اس میں پیڑ لگائے ہوں، تو پھر یہ پیڑ اہل مقبرہ کی ملک ہیں، اُس میں ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اور ان پیڑوں کی رقم کو مسجد میں لگانا اور اس سے مسجد کا گیٹ وغیرہ بنانا جائز اور درست ہے۔ (کفایت المفتی ۷/۱۱۵)

مقبرة علیہا أشجار عظيمة فهذا علی وجهین إما إن كانت الأشجار نابتة

قبل اتخاذ الأرض مقبرة أو نبتت بعد اتخاذ الأرض مقبرة. وفي الوجه الثاني

المسألة على قسمين: ..... إما أن علم لها غارس أو لم يعلم ففي القسم الأول كانت للغارس . (الفتاوى الهندية / الباب الثاني عشر من الوقف، مطلب: الكلام على الأشجار في المقبرة وغير ذلك ۴۷۴/۲)

وإن نبت الأشجار فيها بعد اتخاذ الأرض مقبرة، فإن علم غارسها، كانت للغارس . وإن لم يعلم الغارس، فالرأي فيها يكون للقاضي، إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة، فله ذلك، ويكون في الحكم كأنها وقف . (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / فصل في الأشجار ۳۱۱/۳ زكريا، وكذا في البزازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / نوع في وقف المنقول ۲۶۱/۶ زكريا)

سئل نجم الدين عن رجل غرس تالة في مسجد، فكبرت بعد سنين، فأراد متولي المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكة، والغارس يقول: هي لي، فيأني ما وقفها على المسجد؟ قال: الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد، فلا يجوز صرفها إلى البئر، ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه . (الفتاوى التارخانية، كتاب الصلاة / باب الحنائز، القبر واللغن ۸۷۶/۵ إدارة لقرآن كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۲/۱۴۲۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں مکتب اور مدرس کی تنخواہ کا نظام؟

**سوال (۲۳۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ہر گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد میں امام مؤذن اور مکتب کا انتظام کریں، اگر ذمہ داری ہے تو ان کے نفقہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہر فرد پر صدر سکرٹری کو ایک معینہ رقم باندھنا اور ندینے پر جبراً وصول کرنا درست ہے؟ یا مال داری کے اعتبار سے رقم کی تعیین کی جائے، اگر مال داری کے اعتبار سے رقم کی تعیین ہوگی تو کتنا کتنا ہوگا؟ اس کی صراحت فرمائی جائے، نیز اگر مذکورہ

مال دار رقم نہ دیں، تو ان سے تعلقات ختم کرنا اور سلام کلام بند کرنا درست ہے، یا مالی جرمانہ لگانا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں مسجد کے امام اور مؤذن اور مکتب کا انتظام کریں، اگر کچھ ذمہ دار لوگ اس کام کو انجام دیں تو سب گاؤں والے بری الذمہ ہوں گے، ان کو نان و نفقہ اور تنخواہ دینے میں تمام گاؤں والے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کی کمیٹی کا تعاون کریں، صدر یا سکریٹری کا کسی پر متعین رقم باندھنا یا نہ دینے پر زبردستی وصول کرنا درست نہیں ہے؛ بلکہ لوگوں کو ایسے کاموں پر خرچ کرنے کے فضائل بتا کر اس پر ابھارنا چاہئے، بعض مخصوص لوگوں پر اس کی ذمہ داری ڈالنا درست نہیں، اور ان کے نہ دینے پر سلام و کلام بند کرنا اور مالی جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ١١٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٥٤٩٢ دار الكتب العلمية بيروت)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسئولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيته، والخادم راعٍ في مال سيده ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في مال أبيه وهو مسئولٌ عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته. (صحيح البخاري، كتاب الجمعة / باب الجمعة في القرئ والمدن ١٢٢/١ رقم: ٨٩٣ دار الفكر بيروت)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. (سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن / باب ما جاء في تعليم القرآن ۱۱۸/۲ رقم: ۲۹۰۷ المكتبة الأشرفية ديوبند)

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي يُنفذُ - وربما قال: يعطي - ما أمر به، فيعطيه كاملاً موقراً طيبةً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. (صحيح مسلم / باب أجر الخازن الأمين رقم: ۲۳۶۳ بيت الأفكار الدولية) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۱/۲۰۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا قرض معاف کرانا اور امام کی تنخواہ میں اضافہ کرنا؟

**سوال (۲۳۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک مسجد میں امامت کرتا ہے، اُس کو اسی ماہ سے بجائے ۱۳۰ روپے ماہانہ تنخواہ دی گئی، اُس کے اوپر مسجد کی رقم میں سے ۲۰۰ روپے بطور قرض ہیں، زید نے کہا کہ میں قرض کی وجہ سے مکان فروخت کر رہا ہوں، کسی دوسری جگہ جا کر رہوں گا، مصلیان کو اس اطلاع سے فکر ہوئی کہ امام صاحب چلے جائیں گے، نیا امام پتہ نہیں کیسا ہو؟ تو انہوں نے باہم مشورہ کیا، پھر چند لوگوں نے اپنے پاس سے ایک رقم اکٹھی کر کے امام صاحب کے پاس بھیج دی کہ قرض کی ادائیگی کر دیں اور ۲۰۰ روپے جو قرض تھے وہ بھی نہیں لئے جائیں گے، اور تنخواہ بھی اب ۱۵۰ کے بجائے ۲۰۰ روپے ماہانہ دیا کریں گے، تو اُن لوگوں سے اس طرح رقم لینا امام صاحب کے لئے درست ہے یا نہیں؟ اور ۲۰۰ روپے مسجد کی رقم سے مسجد والوں کو معاف کرنے کا حق ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا روپیہ معاف نہ کیا جائے؛ بلکہ مقتدی اگر چاہیں

تو چندہ کر کے امام صاحب کا قرض ادا کر دیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۲۵۷) اور تنخواہ میں اضافہ مطلقاً درست ہے۔

وكان ما قدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطي قدر الكفاية؛ لئلا يلزم تعطيل المسجد. (شامي، كتاب الوقف / مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ۳۶۸/۴ كراچی، ۵۶۱/۶ زکریا)

وأما إذا كان على أرباب معلومين ومستحقين مخصوصين، لا تجوز المسامحة والحط بالصلح مطلقاً. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۴۰۶/۵ زکریا)

أكار تناول من مال الوقف فصالح المتولي على شيء، فهذا على وجهين: إما أن يكون الأكار غنياً أو فقيراً، ففي الوجه الأول لا يجوز الحط من مال الوقف. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / تصرف القيم في الأوقاف ۷۸۸/۸ زکریا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس في ولاية الوقف ۴۲۵/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۴/۶/۲۸ھ

## وقف بورڈ سے ائمہ مساجد کی تنخواہ

**سوال (۲۳۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ائمہ مساجد کے لئے وقف بورڈ سے تنخواہوں کی منظوری حال ہی میں آچکی ہے، تو کیا شرعاً اس تنخواہ میں کوئی قباحت ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اوتاف کے مصارف میں اگر ائمہ کی تنخواہوں میں خرچ

کا بھی ذکر ہے، تو ان کے ذریعہ مساجد کے ائمہ کو تنخواہ لینا درست ہے۔

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف / مطلب:



مراجعة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گولک کے ذریعہ وصول شدہ رقم سے امام کی تنخواہ دینا؟

**سوال (۲۳۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی اُس امدادی رقم سے جو بذریعہ گولک موصول ہوتی ہے، یا دوسرے طریقے سے لوگ مسجد میں دیتے ہیں، پیش امام کی ماہانہ خدمت یا بالفاظ دیگر تنخواہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس رقم سے امام مسجد کی تنخواہ دینا درست ہے۔

يفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقہ والإمامة والأذان . (الدر المختار،

كتاب الإجارة / مطلب: في الاستحجار على المعاصي ۵۵/۶ کراچی، ۷۶/۹ زکریا)

ويبدأ من غلته بعمارتہ، ثم ما هو أقرب لعمارتہ كإمام مسجد، ومدرس  
مدرسة يعطون بقدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح.  
(الدر المختار / كتاب الوقف ۳۶۷/۴-۳۶۸ کراچی، البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۶/۵ زکریا، وكذا

في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثالث في المصارف ۳۶۸/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۱۰/۱۴۱۰ھ

## مسجد کی گولک میں جمع شدہ پیسے سے امام کی تنخواہ دینا؟

**سوال (۲۳۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے گولک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، اُس سے امام صاحب کی تنخواہ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ شرعی مسئلہ سے آگاہ فرمائیں۔

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے گولک میں جو لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، اُن کا مقصد مسجد کی تمام ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے؛ لہذا گولک کے پیسے سے امام صاحب کی تنخواہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ثم إلى ما هو أقرب إلى العمارة أعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم. (الفتاوى الهندية / الباب الثاني من كتاب الوقف ۳۶۸/۲ زكريا)

ويبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: يُبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ۵۶۰/۶ زكريا)

والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۶/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۷/۱۴۲۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مختلف عناوین پر جمع کردہ چندہ کے مصارف

**سوال (۲۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد سے متصل ایک عمارت کی مرحلہ وار خریداری پانچ سال میں مکمل ہونے کے قریب ہے، جس کے لئے سوا چار روپے کا چندہ تین مختلف عناوین کے تحت کیا گیا، جو حسب ذیل ہیں:

(۱) صرف برائے توسیع مسجد (۲) مسجد اور ایک مخصوص جہت میں جماعت خانہ، مشورہ گاہ

وحجرہ امام (۳) مسجد مع اسکول، جماعت خانہ، قیام گاہ، مستورات و اشخاص وغیرہ۔

سوا چار روپے میں سے ایک روپیہ صرف بعنوان مسجد جمع کیا گیا، اور ایک روپیہ تیسرے مقصد (مسجد جمع اسکول) کے لئے؛ البتہ اس میں اسکول کا عنوان زیادہ اہم تھا، بقیہ سوا دو روپے مختلف مقاصد (مسجد، مدرسہ، اسکول جماعت و مشورہ گاہ وغیرہ) کے لئے جمع کئے گئے، اور انہیں مقاصد میں صرف بھی ہوئے، نہ رقم میں کسی طرح کی تعیین ہے اور نہ ہی جگہ کی تمیز و تخصیص ہے کہ فلاں رقم یا فلاں جگہ اس متعین مقصد کے لئے ہے، اور دوسری فلاں رقم فلاں جگہ دوسرے کسی مقصد کے لئے خاص ہے۔

امر مسئول یہ ہے کہ سوا دو روپے جس کے جمع و صرف میں مختلف مقاصد پیش نظر رہے؛ لیکن کسی طرح کی تحدید و تمیز نہ ہو سکی ہے، اس کی تحدید کہ اس میں سے اتنی رقم فلاں مقصد، مثلاً مسجد یا جماعت خانہ کے لئے ہے۔ اسی طرح سے ان سوا دو روپے کے ذریعہ خریدی گئی جگہ میں تمیز کہ فلاں جگہ فلاں مقصد کے لئے ہے، کس طرح کی جائے؟ نیز ایک روپیہ جس میں مسجد و اسکول دونوں مقاصد پیش نظر ہیں، ان میں بھی تخصیص و تمیز کی شرعی صورت کیا ہو؟ یا یہ کہ تینوں مقاصد میں چوں کہ مسجد کا ذکر ہے، تو پوری عمارت کو ہی مسجد کی ملکیت مان لیا جائے، جب کہ بیان مقاصد نیز خریدتے وقت بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ کیا چندہ دینے والوں کو اپنی عطا کردہ رقم کے مصارف برائے مسجد یا برائے اسکول وغیرہ وغیرہ کے تعیین کا حق ہے یا نہیں؟ یہ تمام مشکلات چندہ کرنے والوں کی نادانی سے پیدا ہو گئی ہیں، اللہ کا خوف ہے، براہ کرم اس مشکل سے نجات دلوادیں تو بڑا احسان ہوگا، جزا کم اللہ خیر الجزاء۔ اس وقت تمام معاملات بند ہیں، آپ کی رہنمائی کے بعد انشاء اللہ آئندہ کے کام عمل میں آئیں گے، اور اب بلا تعیین مقاصد چندہ نہیں لیا جائے گا۔

**وضاحت: الف:-** پورے معاملہ کے مسئول تین اشخاص ہیں، عطا یا کے جمع و صرف کے وہی ذمہ دار ہیں، وہ خود اپنے نطن غالب کی بنیاد پر تمیز و تخصیص کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ممکنہ حد تک جتنی رقم کے بارے میں چندہ دہندگان کی جانب سے بیان مل سکے، تو وہ بیان رقومات کے صرف

ہونے کے بعد مفید و معتبر ہوگا یا نہیں؟ نیز یقینہ رقم کے بارے میں ظن غالب پر عمل کر لیا جائے۔

ب:- جو جہت اور حصہ مسجد سے متصل اور قریب ہے، اس کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، بقیہ دوسری جہات دوسرے مقاصد میں استعمال کر لی جائیں، اس کی شرعاً گنجائش ہے؟

ج:- اسی عمارت میں دوسو اسکوائر فٹ کا ۲۰ سال پرانا ایک مدرسہ دوسری منزل پر واقع ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹا کر توسیع کی گنجائش ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) جو رقم توسیع مسجد کے لئے آئی ہے، اُسے صرف مسجد کی توسیع میں لگایا جائے، اور جو رقم مسجد اور جماعت خانہ اور مشورہ گاہ وغیرہ کے لئے جمع کی گئی ہے، اُس میں مسجد کی کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ نقشہ بنا کر حسب ضرورت ان جہات میں رقم صرف کریں، اس کے لئے الگ الگ طور پر رقم متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح تیسری صورت میں جو رقم مسجد کے ساتھ اسکول اور جماعت خانہ اور قیام گاہ کے لئے جمع ہوتی ہے، وہ ذمہ داران کی حسب صواب دید ان ہی مصارف میں صرف ہونا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۱۲۳۹)

(۲) اور چندہ دینے والوں کو حق ہے کہ وہ چندہ دیتے وقت مصرف کو متعین کر دیں، اور کمیٹی پر لازم ہے کہ وہ اس کی رعایت رکھے اور جو مدرسہ مسجد کے تابع ہو کر عمارت کی دوسری منزل پر چل رہا تھا، وہ بھی ذمہ داران کے مشورہ سے مسجد سے متعلق کسی اور جگہ حسب ضرورت منتقل کیا جاسکتا ہے۔

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى

فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (ردالمحتار / کتاب الزکاة ۲۶۹/۲ کراچی)

رجلٌ أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح

المسجد، صح. (الفتاوى الهندية، کتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به،

أما إذا اختلفت الواقف أو اتحدت الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسةً ومسجدًا، وعين لكل وقفًا، وفضل من غلة أحدهما، لا يبدل شرط الواقف، وكذا إذا اختلفت الواقف والجهة، يتبع شرط الواقف ..... هذا هو الحاصل من الفتاوى، وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخوخة بالقاهرة صرف أحد الواقفين للآخر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زكريا، وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ۳۶۱/۴ كراچی)

مسجدًا له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنًا أو حصيرًا أو حشيشًا أو آجرًا أو حصًا لفرش المسجد أو حصي، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشتري للمسجد ما شاء. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني ۶۱۱/۲ زكريا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۷/۳ زكريا)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا أذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱۱ رقم المادة: ۹۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۱۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## فصل کا چالیسواں حصہ مسجد کے چندہ میں وصول کرنا؟

**سوال (۲۳۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فصل کٹنے کے بعد یہاں مسجد کے نام پر اس طرح چندہ ہوتا ہے کہ جس کو چالیس من ہوا ہے، وہ ایک من مسجد میں دیدے، جو یہاں من سیری کے نام سے معروف ہے، کیا یہ چندہ مسجد میں لگانا جائز ہے؟

**الجواب وبالله التوفیق:** ہندوستان کی زمین عشری یا خراجی نہیں ہے؛ لہذا مسجد میں فصل کی کٹائی پر جو چندہ ۴۰ سیر میں سے ایک سیر کا کیا جاتا ہے، وہ صدقہ نافلہ ہوگا اور اُس کا استعمال مسجد میں درست ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ نظامیہ ۲۵۳/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۲/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے رنگ و روغن کیلئے جمع کردہ رقم سے امام کی تنخواہ دینا؟

**سوال (۲۳۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی پتائی وغیرہ کے لئے چندہ کیا گیا، جو رقم رنگائی اور پتائی سے بچی وہ رقم مستقل تنخواہ دار امام کو ہدیہ دے دی گئی، جب کہ مسجد پر امام کی تنخواہ باقی تھی، جس پر مسجد میں نمازیوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ رقم ہدیہ امام کو نہیں دی جاسکتی، کیا چندہ کی باقی رقم امام کو ہدیہ دی جاسکتی ہے اور امام کو اس رقم کا لینا اور دینا جائز ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی پتائی و رنگائی کے مقصد سے چندہ کیا گیا ہے، اُس میں سے بچی ہوئی رقم اُسی وقت امام کو ہدیہ دی جاسکتی ہے جب کہ تمام چندہ دینے والے لوگ یہ رقم امام کو دینے پر راضی ہوں، اگر وہ راضی نہ ہوں تو یہ رقم امام کو نہیں دی جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶۴/۱۵، ۱۵/۱۵)

علیٰ انہم صر حوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي

في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة ..... الخ. (الأشباه والنظائر، کتاب الوقف /

الفن الثانی، الفوائد: ۱۰۶/۲ کراچی، کذا فی الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب استأجر داراً فیها أشجار ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا)

مسجد له مستغلات و أوقاف، أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنًا أو حصيراً أو حشيشاً ..... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشتري للمسجد ما شاء.

(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ ۶۱/۲ زکریا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً الخ ۲۹۷/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۱۰/۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تعمیر مسجد کے چندے سے امام مؤذن کی تنخواہ؟

**سوال (۲۳۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی تعمیر کے لئے عمومی چندہ کیا جاتا ہے اور اسی رقم میں سے امام و مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے، کیا اس رقم میں سے امام و مؤذن کو تنخواہ دینا درست ہے یا نہیں؟۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر چندہ دینے والوں کو بتا دیا جائے کہ اس رقم سے امام و مؤذن کی تنخواہ بھی دی جائے گی، تو وہ چندہ کی رقم امام و مؤذن کی تنخواہ میں خرچ کی جاسکتی ہے؛ لیکن اگر صرف تعمیر کی غرض سے کسی نے رقم دی ہو تو اُسے تنخواہ میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي

فی وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة ..... الخ. (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۱۰۶/۲ کراچی، کذا فی الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب استأجر داراً فيها أشجار ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا)

مسجد له مستغلات وأوقاف، أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنًا أو حصيراً أو حشيشًا ..... قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشتري للمسجد ما شاء. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ ۶۱۱/۲ زکریا، وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا أو خانًا الخ ۲۹۷/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۱/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## امام صاحب کیلئے ایام غیر حاضری کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

**سوال (۲۳۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید ایک مسجد میں بچوقتہ امام ہے؛ لیکن مہینہ میں کسی ضرورت مثلاً بیماری، سفر یا کسی ملی اور اور دینی کام میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ اوقات غیر حاضری بھی ہو جاتی ہے، جب کہ امام اور مسجد کی کمیٹی کے درمیان غیر حاضری کے سلسلہ میں کوئی بات طے نہیں ہے، اسی طرح رمضان میں امام صاحب کے اکثر سفر میں رہنے کی وجہ سے تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر کر دیتے ہیں، اور رمضان کی مکمل تنخواہ امام صاحب خود ہی لے لیتے ہیں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایام غیر حاضری کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں، شریعت میں غیر

حاضری کی اجازت کہاں تک ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** رمضان اور ایام تعطیل میں تنخواہ لینے یا نہ لینے کے



بارے میں اگر مسجد کی کمیٹی کی طرف سے کوئی ضابطہ مقرر ہو تو اس کی پابندی کی جائے گی، اور اگر ضابطہ مقرر نہ ہو تو آس پاس کی مساجد میں اماموں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ اس امام کے ساتھ بھی ہوگا، پس اگر رمضان میں اور تعطیل میں عام مساجد میں امام کو پوری تنخواہ دی جاتی ہے، تو مسئلہ صورت میں مذکورہ امام کے لئے رمضان اور تعطیلات کا مشاہرہ مکمل طور پر لینا درست ہوگا، اور اگر ان مساجد میں امام کو تعطیلات کی تنخواہ نہ دی جاتی ہو تو مذکورہ امام کے لئے اس وقت کی تنخواہ لینا درست نہ ہوگا۔

عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (۲۵۱/۱))

منها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان - إلى قوله - نقل في القنية: أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعاً للاستراحة أو لزيارة أهله. وعبارته في باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الراسيق أسبوعاً أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحته لا بأس به، ومثله عفو في العادة والشرع، انتهى. وقال الحموي تحت قوله: البطالة في المدارس: قال أبو الليث: من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه أرجو أن يكون جائزاً. (الأشباه والنظائر / تحت القاعدة السادسة: العادة محكمة عند المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ۲۷۲-۲۷۳ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۳/۸/۱۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

مدتِ رخصت سے زائد تعطیل کرنے پر انتظامیہ کا تنخواہ کاٹنا؟

سوال (۲۴۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک شخص کو ذمہ دارانِ مسجد نے ایک سال کی مدت تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے لئے اس شرط پر متعین کیا کہ اس کو سال میں صرف پندرہ یوم کی رخصت دی جائے گی، جن میں اُس کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، مگر وہ شخص پندرہ یوم سے زائد اپنی ضرورت کے لئے چھٹی لیتا ہے، تو کیا اس کا ان زائد چھٹیوں کی تنخواہ مسجد سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالتفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں مذکورہ امام کو حسب شرط سال میں پندرہ دن رخصتِ اتفاقیہ من جانب مسجد بلا وضع تنخواہ دی جائے گی، اور اگر اس سے زائد وہ اپنی ضرورت سے چھٹی لینا چاہے تو اُس کی شرعاً اجازت ہے؛ لیکن ان مزید چھٹیوں کی تنخواہ ذمہ دارانِ مسجد کو وضع کرنے کا اختیار ہوگا۔

عن عبد اللہ بن عمر ابن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (سنن لترمذی، أبواب الأحكام / باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ۲۵۱۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۱۴۳۵/۶/۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کا چندہ کرنے والے کو چندہ کی رقم سے تنخواہ دینا؟**

**سوال (۲۴۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عام طور سے مسجد کے تعمیری کام کے لئے ڈیگ بجا کر تخت پر چندہ کیا جاتا ہے، اُس کی دیکھ بھال اور اس کام کے لئے ایک آدمی مقرر ہوتا ہے، اس کے علاوہ مسجد کے سامان اور کام وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس شخص کو مسجد کے چندہ سے رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو کس

مقدار سے دینا جائز ہوگا؟ اور وہ شخص مسجد کا ممبر بھی ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر اُس شخص کو مسجد میں باقاعدہ ملازم رکھ لیا جائے اور اُس کے عمل کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دی جائے، تو مسجد کی آمدنی سے اُس کو تنخواہ دینا جائز ہے؛ لیکن اگر کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی گئی تو چندہ میں سے فیصدی کے اعتبار سے کمیشن دینا درست نہ ہوگا۔  
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲/۴۱۲، ۳/۳۷۱، ۴/۱۱۱)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير يعني حتى يبين له أجره. (السنن الكبرى للبيهقي / باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ۳۹/۹ رقم: ۱۱۸۵۵، ۲۲۲/۶، ۱۱۸۵۵ رقم: ۱۱۶۵۲ دار الحديث القاهرة)  
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى عن عسب الفعل، زاد عبيد الله وعن قفيص الطحان. (السنن الكبرى للبيهقي ۵/۴۱۵ دار الكتب العلمية بيروت)  
الإجارة هي بيع منفعة معلومة بأجرة معلومة. (البحر الرائق ۲/۱۸ زكريا)  
لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا من الحنطة بقفيص من دقيقها. (شامي / كتاب المزارعة ۳۹/۸/۹ زكريا، ۲۷۵/۶ كراچی)  
لو هلك المال في يد العامل سقط حقه وأجزى عن الزكاة. (الفتاوى التاتارخانية ۱۹۹/۳ رقم: ۴۱۲۴ زكريا، الفتاوى الهندية ۱/۱۸۸، أحسن الفتاوى ۶/۶۷)  
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين. (الدر المختار / كتاب الإجارة ۵/۶ كراچی، ۷/۹ زكريا)

ولا يصح حتى تكون الأجرة معلومة. (الهداية ۳/۲۷۷) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ



(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الإجازة / الباب السابع عشر، ومما يتصل بهذا الباب فصل لتوقيع ٤٥٥/٤ کوئٹہ)

عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حراماً أو أحلاً حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حراماً أو أحلاً حراماً. (سنن لترمذی، أبواب الأحكام / باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ٢٥١/١) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۰/۲/۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے چندہ میں سے چندہ کرنے کی اجرت لینا؟

**سوال (۲۴۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کا چندہ کر کے اُس میں سے کتنے روپے لینا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے چندہ سے خود کچھ نہ لیں، ہاں مسجد کے باقاعدہ

ملازم بن کر مدت اور کام کے عوض تنخواہ لے سکتے ہیں۔

استأجره ليصيد له أو يحتطب له؛ فإن وقت لذلك وقتاً جاز ذلك. (الدر

المختار مع الشامي، كتاب الإجازة / مطلب: يجب الأجر في استعمال المعدّ للاستغلال ولو غير عقار

٦٢١٦ كراچی، ٨٥/٩ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۳/۱۹ھ

## مسجد میں چندہ دینے والوں کا نام مانگ پر نشر کرنا

**سوال (۲۴۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: آج کل جب مسجدوں میں تعمیر کا کام زوروں پر ہوتا ہے، تو چندہ دینے والے حضرات کا نام

مانک کے ذریعہ نشر کیا جاتا ہے، عدم نشر کی صورت میں ایک روپیہ بھی چندہ نہیں ہوگا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو چندہ دینے والوں کے نام کا اعلان کرنا درست ہے۔

وإن كان المتطوع ممن يقتدى به، ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده، فالإظهار أولى. (فتح الباري / باب صدقة السر ۲۸۹/۳)

﴿وَأِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فيه دليل على إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الريا إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية. (عمدة القاري / باب صدقة السر ۲۸۵/۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۵/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مانک میں چندہ کرنا اور درمیان میں تلاوت اور نعت وغیرہ پڑھنا؟**

**سوال (۲۴۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں مساجد میں لاؤڈ اسپیکروں سے چندہ مانگنے کا رواج ہے، چندہ کے دوران قرآن کریم کی تلاوت یا نظم و نعت بچوں سے پڑھوائی جاتی ہے، اور جیسے ہی چندہ آتا ہے تلاوت وغیرہ موقوف کر کے چندہ کا اعلان کر کے پھر تلاوت کا سلسلہ کیا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ شور و ہنگامہ کر کے لوگوں چندہ کی طرف متوجہ کیا جائے، نظموں میں اس طرح کی نظمیں بھی ہوتی ہیں:

یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ❖ ارے ناداں یہاں جھولی کو پھیلا یا نہیں کرتے کبھی ایک نظم میں یہ مصرعہ بار بار کہا جاتا ہے: ”پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر“

سوال یہ ہے کہ ائمہ کا اس طرح کا طرز عمل شرعاً درست ہے؟ چندہ کے دوران قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی اہانت نہیں ہے، اور اوپر لکھی نظم کے الفاظ شریک نہیں ہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** چندہ کے دوران قرآن کریم کی تلاوت قرآن کی بے ادبی ہے، اس سے احتراز لازم ہے، اور نعت کے جو اشعار لکھے گئے وہ شوقیہ اشعار ہیں، ان کو مشرکانہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصوت عند ثلاث عند الجنائز، وإذا التقى الزحفان، وعند قراءة القرآن. (لمصنف لابن أبي شيبة ۲۰۲۷ رقم ۱۳۱۶)  
وكدأ قولهم بكفره، إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعاً، وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف، به قال قاضيخان الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري صل على محمد، قالوا: يكون آثماً. (الأشباه والنظائر ۱۰ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۲/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کے مانگ سے چندہ دہندہ کا نام لے کر اعلان کرنا؟**

**سوال (۲۳۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے مانگ سے اعلان کر کے چندہ کرنا نام لے کر دس روپیہ پانچ روپے فلاں کے آئے ہیں، اللہ ان کو ترقیات سے نوازے، اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اس قسم کا اعلان کر کے چندہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مانگ کا استعمال مسجد کے مفاد کے لئے فی نفسہ

درست ہے، اور رہ گیا چندہ دہندگان کے ناموں کا اعلان، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس سے مقصد دوسروں کو ترغیب دلانا ہے، تو اس میں حرج نہیں، اور اگر نام و نمود مقصد ہے، تو اس سے بچنا لازم ہے۔

عن سلمة قال: سمعت جُنْدَبًا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراني يراني الله به. (صحيح البخاري، كتاب الرقاق / باب الرياء والسمعة ٤٧٧/٢ رقم: ٦٤٩٩ دار الفكر بيروت، صحيح مسلم رقم: ٢٩٨٦ بيت الأفكار الدولية) ويبدأ من غلته بعمارتها ثم ما هو أقرب لعمارتها، كإمام مسجد و مدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارتها ٥٥٩/٦ - ٥٦٠ زكريا)

الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر ٥٣) فقط والله تعالى اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۸/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں سلام کے بعد سائل کا اعلان کرنا؟

**سوال (۲۴۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عموماً آج کل مساجد میں فرض نماز سے فارغ ہوتے ہی کچھ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سوال کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات سے متعلق ہی سوال کرتے ہیں، باوجودیکہ لوگ اس وقت تسبیح یا دعا کی ادائیگی میں مشغول ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی فوت شدہ رکعات کی تکمیل میں لگے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ان لوگوں کا اپنی ذات کے لئے یا کسی مدرسہ یا مسجد کے لئے سوال کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور اس وقت خود ان کا دعا جیسے عمل کو ترک کرنا کہاں تک درست ہے؟ جب کہ دعا عبادت کا مغز اور اصل ہے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا کسی بھی شخص کے واسطے مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کے فوراً بعد اپنی ذات کے لئے یا کسی دینی ادارہ کے لئے یا مکتب کے لئے سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟



اگر ہے تو کب اور کس طرح اور کس وقت؟

اور ایسے سائل کو دیا جائے یا دینے سے گریز کیا جائے؟ کیا اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت شریعتِ مطہرہ کے اندر موجود ہے کہ جس سے سائل کا سوال بھی پورا ہو جائے اور مسجد کی عظمت بھی باقی رہے؟ اور لوگوں کی نمازوں میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو؟ اگر ایسے سائل حضرات کہ جن کا تعلق کسی دینی ادارے یا مسجد یا مکتب سے ہو، یا کسی حقیقی اور جائز ضرورت مند شخص ہی سوال کرنے لگے تو ان کے لئے شریعت کیا کہتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مساجد و مدارس کی اعانت یا کسی ضرورت مند کی حالت روائی کے لئے مساجد میں اعلانات کرنا فی نفسہ درست ہے؛ لیکن اعلان کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ مسبوقین کی نماز میں کوئی خلل نہ پڑے، اس لئے سلام پھیرتے ہی اعلان کے بجائے لوگوں کے نماز سے فراغت کے بعد اعلان کرنا چاہئے، اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ضرورت مند لوگ خود اعلان نہ کریں؛ بلکہ مسجد کے امام یا کمیٹی کے ذمہ داران جائزہ لے کر اور معلومات حاصل کر کے ہی مناسب انداز میں اعلان کر دیا کریں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۷۳/۱۵؛ ذہیل)

والمختار أن السائل إن كان لا يميز بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب ولا يستل إلحافاً؛ بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء. (شامي، كتاب الصلاة / باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد ۲/۳ ۴ زكريا، بزازية على هامش الهدية / الباب الثالث والعشرون في الجمعة، قبيل: الباب الرابع والعشرون في العيدين ۷/۶۴)

ولا يحل الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكن نوا على صفة المذكورة. (بزازية على هامش الهدية / الباب الثالث والعشرون في الجمعة، قبيل: الباب الرابع والعشرون في العيدين

۷/۶۴، ومثله في الشامي) فقط والله تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۹/۵/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## صاحبِ خیر کا اپنے خرچ سے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا؟

**سوال (۲۳۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحبِ خیر نے اپنے خرچ پر ایک مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانے کی پیش کش کی ہے، جس پر چند ذمہ دارانِ مسجد نے اختلاف کیا ہے کہ مسجد ہر چھ جانب سے کشادہ ہے؛ لہذا اس کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے اور مصارفِ مسجد پر زیادتی علیحدہ و فضول خرچی پر مبنی ہے، جب کہ دیگر حضرات گرمیوں کے ایام میں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، گو مسجد کی آمدنی زیادتی خرچ کی متحمل ہے، مگر ذمہ دارانِ مسجد شرعی اعتبار سے اس کے تفصیلی لم و کیف سے آگاہی کے آرزو مند ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں اس مقصد سے ایئر کنڈیشن لگانا کہ نماز پڑھنے والے سکون و اطمینان اور بشارت و دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جس طرح سچے اور کولر لگانے کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح ایئر کنڈیشن لگانے کی بھی اجازت ہوگی۔ خاص کر جب کہ ایئر کنڈیشن کا خرچ کوئی صاحبِ خیر اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اور مسجد پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، تو بدرجہ اولیٰ یہ جائز ہوگا؛ البتہ مسجد کی انتظامیہ اس پہلو پر غور کر لے کہ ایئر کنڈیشن لگوانے کے بعد بجلی کا خرچ جو یقیناً بڑی مقدار میں ہوگا، اسے کیسے پورا کیا جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۶۳۵-۶۳۶-۱۳۶۶ ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ)

أراد أن يشتري للمسجد دهناً أو حصيراً فإن كان المسجد مستغنياً عن الدهن محتاجاً إلى الحصير فالحصير أفضل، وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الرابع عشر في المتفرقات ۴۸۲/۲)

ولهم أيضاً أن يفرشوا بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل؛ لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم. (بازایة على الفتاوى الهندية، كتاب الوقف /

قوله: بالقنو والقنوين فيعلقه فيه دلالة على تعليق المراوح في المساجد  
لما أنها ليست بأقل نفعاً من القنو مع ما في القنوا من الشغل والتلويث ما ليس  
في المروحة. (الكوكب الدرر، أبواب التفسير، الصلاة الوسطى / القنو يتعلق في المسجد ۱۹۹/۲  
إدارة القرآن كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۲۰۲۹/۲۳/۱۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا تعاون نہ کرنے والوں کے جنازے اور شادیوں

### میں رکاوٹ ڈالنا

**سوال (۲۴۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: بندہ ناچیز ایک مسجد میں امانت کرتا ہے، اُس مسجد کے اطراف مسلم مکانات تقریباً سو ہے،  
اور مسجد کا سالانہ خرچ تقریباً ۷۰ ہزار روپے ہیں، اور مسجد کی کوئی آمدنی کی شکل نہیں ہے؛ لہذا کمیٹی  
والوں نے مشورہ سے ہر گھر پر سالانہ ۵۰۰ روپے لگائے ہیں، اب اس میں سے کچھ تو دیتے ہیں،  
مگر بعض لوگ نہیں دیتے، جو لوگ نہیں دیتے اُن سے وصول کرنے کی شکل یہ ہے کہ پھر اُن کے کسی  
عزیز کا جنازہ (ڈولا) روکا جاتا ہے یا پھر شادی روکی جاتی ہے، جس سے مجبور ہو کر وہ بقیہ مسجد کی  
وصولی دیتے ہیں، جس سے اُن کے دل میں مسجد یا کمیٹی کے تعلق ناراضگی آتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح مسجد کی وصولی کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور ان وصولی کے پیسوں  
سے امام کو تنخواہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ (امام کی تنخواہ ماہانہ ۳۰۰۰ روپے ہے) جواب تفصیل سے  
مرحمت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا تعاون کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں؛ بلکہ بہتر

اور افضل ہے؛ لہذا تعاون کی ترغیب تو دی جاسکتی ہے؛ لیکن اُس کے لئے جبراً اور زبردستی کرنا جائز

نہیں ہے؛ لہذا سوال میں مسجد میں چندہ نہ دینے والے کے ساتھ جنازہ یا شادی میں روکاؤٹ ڈالنے کی جو صورت لکھی ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح جبریہ چندہ وصول کرنا قطعاً ظلم اور ناجائز ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ٢٥٥، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ١١٨/٦ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ٧٢/٥، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧/٤ رقم: ٥٤٩٢ دار الكتب العلمية بيروت)

عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: ..... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفسي فمبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسئلة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع. (صحيح مسلم، كتاب الزكاة / باب النهي عن المسئلة ٣٣٣/١)

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي! إنني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا. (الترغيب والترهيب مكمل رقم: ٣٢٧٨)

إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / مطلب في التعزير بأخذ المال ٦١/٤ دار الفكر بيروت، البحر الرائق، باب حد القذف / فصل في التعزير ٦٨/٥ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۱۰/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں حرام اور مشتبہ مال لگانا

حلال اور حرام آمدنی والے کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا؟

**سوال (۲۵۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی کے یہاں خنزیر کے بالوں کا کام ہوتا ہے اور پھر وہ تھوڑا بہت کام اور بھی کرتا ہے، جیسے کاشت کاری یا پرچون وغیرہ کی دوکان، تو اگر وہ اس نیت سے چندہ دے کہ حلال کمائی میں سے دیتا ہوں، تو جائز ہے یا نہیں؟ یا سب مال حرام ہے، خنزیر کے بالوں کا برش لینے کی وجہ سے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مذکورہ شخص اگر حلال اور حرام آمدنی کا حساب الگ الگ رکھتا ہے اور پھر حلال آمدنی سے چندہ وغیرہ دیتا ہے، تو یہ جائز ہے؛ لیکن اگر حلال و حرام کا حساب الگ الگ نہ ہو؛ بلکہ سب مخلوط ہو، تو غالب آمدنی کا اعتبار ہوگا، اگر غالب آمدنی خنزیر کے بالوں کی ہے، تو اس سے چندہ لینا درست نہیں، اور اگر کاشت کاری یا دوکان کی آمدنی زیادہ ہے تو چندہ لینا درست ہے۔

غالب مال المہدیٰ إن كان حلالاً، لا بأس بقبول ہدیثہ وأكل مالہ، ما لم يتعین أنه من حرام، وإن غالب مالہ الحرام لا یقبلہا ولا یأکل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثہ أو استقرضہ. (البزازیة علی هامش الفتاویٰ الہندیة، کتاب الکراہیة / الفصل الرابع فی الہدیة والمیراث ۳۶۰، ۶ زکریا، الأشباہ والنظائر، الفن الأول / القاعدۃ الثانیة ۳۴۳/۱ إدارة القرآن کراچی، الفتاویٰ الہندیة، کتاب الکراہیة / الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات ۳۴۳/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۶/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم

**سوال (۲۵۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شہر سہارنپور میں حاکم شاہ کالونی میں جناب محمد اکبر نے مسجد کی مکمل تعمیر کرائی ہے، جس میں مستقل امام رکھ کر اب سے دو ماہ قبل سے نماز ادا کی جا رہی ہے، محمد اکبر نے الوقت ہیچڑے کے نام سے مشہور ہیں، اور ناچ گانا کا پیشہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اُس کا پیشہ صحیح نہ ہونے کے سبب مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے؟ نماز مسجد میں ادا کریں یا مسجد کو ویران کر دیں، کیا کریں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز مکروہ ہوتی ہے، اور کراہت دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ جتنا مال حرام اُس میں صرف ہوا ہے، وہ کسی طرح خرچ کرنے والے کو لوٹا دیا جائے، تو پھر کراہت نہ رہے گی۔ (امداد الفتاویٰ، کتاب الوقت/ احکام المسجود ۲۲۷-۲۷۷) کمال مسجد بنی مباحاً أو ریاءً أو سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غیر طیبٍ فهو لاحق بمسجد الضرار۔ (مدارک التنزیل علی هامش تفسیر الخازن ۲/۲۸۱، روح المعانی ۲۱/۱۱ التوبة: ۱۰۷)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... لا يقبل الله إلا الطيب. (صحيح البخاري/ باب الصدقة من كسب طيب ۱/۱۸۹)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم بالإفناق من أطيّب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بربذالة المال أو دنيئته، وهو خبيث؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن كثير ۱/۳۲۰، البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيمي لاهور)

أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد المحتار، كتاب

الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ٦٥٨/١ كراچی، ٦٣/١٢ زکریا، کذا فی حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلاة / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها ٢٧٨/١ دار المعرفة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ٩/١٢/١٤٢٢ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بینک سے حاصل شدہ سود کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا

**سوال (۲۵۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا کاروبار شراب فروخت کرنے کا ہے، اور جگہ جگہ کئی دوکانیں شراب کی بھٹی کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کاروبار ہیں، جیسے: بھٹے کا کام، بس، ٹرک اور کچھ زمین کاشت کاری کی بھی ہے، بے شمار دولت ہے، زید کا کہنا ہے کہ میرا پیسہ شراب کی آمدنی کا نہیں ہے، نیک کمائی کا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ مسجد یا مدرسہ کے کسی بھی کام میں صرف ہو جائے؛ لیکن ہم لوگوں کو اس کی کمائی نیک ثابت نہیں ہوتی، پچھلے دنوں اس نے ایک جاگیر ن جو کہ اہل ہنود صاحبان کے یہاں ہوتا ہے، کافی دولت صرف کر کے بہت شان سے کرایا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے یہ پیسہ جائز ہو تو ہم اس پیسہ کو مسجد یا مدرسہ کے کسی کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ از روئے شرع قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارسال فرمائیں، نوازش ہوگی۔

**نوٹ:** - ایک مسجد میں زید نے لاؤڈ اسپیکر لگوائے ہیں اور پانی کی ٹنکی بھی لگوائی ہے، اس کے متعلق بھی حکم صادر فرمائیے گا۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حرام طریقہ سے حاصل شدہ روپیہ مسجد یا مدرسہ کے کسی بھی کام میں صرف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہی حکم مسجد میں لگائی ہوئی ٹنکی اور لاؤڈ اسپیکر کا ہے، اگر ان چیزوں کو مال حرام سے لگایا ہے تو درست نہیں، اور اگر پاک اور حلال کمائی سے لگایا ہے تو درست ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلّوه حتى تكون مثل الجبل. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب رقم: ۱۴۱۰ دار الفكر بيروت)

أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث الطيب فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلوّث بيته بما لا يقبله. (شامي، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره؛ لأنّ البأس الشدة ۶۵۸/۱ كراچی، ۴۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط واللّه تعالى أعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۰/۱۱/۲۹ھ

## سودی رقم مسجد کی چندہ پیٹی میں ڈالنا؟

**سوال (۲۵۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے چندہ بکس (مقفّل) میں سودی کاروبار کرنے والے کافی لوگ بھی بڑی رقم ڈال دیتے ہیں، اُس کا استعمال مسجد میں درست ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مقفل بکس کے اندر جب تک یقینی طور پر سودی رقم ہونا معلوم نہ ہو، مسجد کے لئے اُس کو استعمال کرنا درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۳۲/۱۸-۲۱۸/۱۸) اس لئے کہ حضرات فقہاء کا اُصول ہے کہ شک و شبہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔

الیقین لا یزول بالشک. (الأشباہ والنظائر ۱۰۰)

لہذا کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا بے اصل ہے، نیز اگر کسی کے سودی کاروبار کے ساتھ دوسرے جائز کاروبار بھی ہوں، تو اُس کا عطیہ بھی مسجد میں خرچ کرنے میں حرج نہیں ہے۔



إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب. (الفتاوى الهندية / كتاب الكراهية ٣٤٢/٥)

ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، فتجب الزكاة فيه، ويورث عنه؛ لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقوله: أوفى؛ إذ قلماً يخلو مال عن غضب. وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط مفصل عنه، يوفى دينه، وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثاً، كما في النهر عن الحواشي السعيدية. وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي. (الدر المختار، كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم ٢٩٠/٢-٢٩١-٢٩٢ كراحي، وكذا في البزازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة / الباب الثاني في المصروف ٨٦/٤ زكريا)

في القنية: لو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه..... الخ، ما وجب التصدق ب كله، لا يفيد التصدق ببعضه؛ لأن المغصوب إن غلّمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم، وإلا وجب التصدق به. (رد المحتار، كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم، مطلب فيما لو صدر السلطان جائراً فنوى بذلك أداء الزكاة ٢٩١/٢ كراحي، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس عشر في الكسب ٣٤٩/٥ زكريا، وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية / فصل في البيع ٣٦٩/٦ زكريا)

رجل دفع على فقير من المال الحرام شيئاً يرجو به الثواب يكفر. ولو علم الفقير بذلك، فدعا له وأمن المعطي كفوفاً جميعاً..... ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبياً غير المعطي والقابض وكثير من الناس عنه غافلون، ومن الجهال فيه واقعون. قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد؛ بل مثله فيما

یظہر، لو بنیٰ من الحرام بعینہ مسجدًا ونحوہ مما یرجو بہ التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فیما فیہ العقاب، ولا یكون ذلك إلا باعتقاد حله ..... أي مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله، كما مر، فافهم الخ. (ردالمحتار، کتاب الزکاة / باب زکاة الغنم / مطلب فی التصدق من المال الحرام ۲۹۲/۲ کراچی، وکذا فی مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ۳۲/۲ رقم: ۳۰۱ رشیدیة) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۱/۸/۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## انٹرسٹ کی رقم سے سیلاب میں شہید ہونے والی مسجد کی تعمیر کرنا؟

**سوال (۲۵۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: انٹرسٹ کی رقم سیلاب زدگان کو دی گئی، گاؤں کے لوگ محتاج ہو گئے تھے، مسجد بھی سیلاب میں ختم ہو گئی، گاؤں والوں نے اس رقم سے مسجد بنالی، مسجد بنانا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بہتر تو یہی ہے کہ اگر ان مصیبت زدگان کو علم ہو جائے

کہ یہ سودی پیسہ ہے تو وہ اس سودی رقم کو مساجد میں نہ صرف کریں؛ لیکن پھر بھی اگر وہ صرف کر دیں تو تبدیل ملک کی وجہ سے صرف کرنا درست ہوگا، اور یہاں پر حرمت متعدی نہ ہوگی؛ اس لئے کہ حکومت کے مال میں ان فقراء کا بھی استحقاق ہے، اور یہ رقم مستحقین تک پہنچ چکی ہے؛ لہذا مالک ہو جانے کے بعد اس کا صرف کرنا جائز ہے۔

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (التفسير البيضاوي

۴ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مسجد کے بیت الخلاء میں سود کار و سپہ لگانا؟

**سوال (۲۵۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں گاؤں میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، الحمد للہ کام لگا ہوا ہے، مسجد میں بیت الخلاء بھی تعمیر ہونی ہے، آنجناب سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا سود کی رقم مسجد کی بیت الخلاء کی تعمیر میں لگائی جاسکتی ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** سودی رقم مسجد کی بیت الخلاء کی تعمیر، مرمت اور صفائی؛ بلکہ مسجد کی کسی بھی ضرورت میں صرف کرنا ناجائز ہے۔

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في لبيع ۳۸۵/۶ كراچی، ۵۵۳/۹ زكريا، الفتاوى الهندية ۳۴۹/۵) أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد لمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس؛ دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر لمختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد للصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط والله تعالى علم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۵/۵/۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے فنڈ سے حاصل شدہ سود کو مسجد کی بیت الخلاء میں لگانا؟

**سوال (۲۵۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی بیت الخلاء میں مسجد کے اس فنڈ کی رقم کے بیاز کا پیسہ لگا سکتے ہیں، جو اس فنڈ پر بینک میں چڑھ گیا ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے فنڈ سے حاصل شدہ سود کو مسجد کی بیت الخلاء

میں لگانا جائز نہیں ہے، اس سودی پیسہ کو غرباء پر بلا نیت ثواب تقسیم کر دیا جائے۔

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي،

كتاب المحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في لبيع ۳۸۵/۶ كراچی، ۵۵۳/۹ زكريا، الفتاوى الهندية ۳۴۹/۵)

الحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم وإلا، فإن علم عين

الحرام لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المحتار / مطلب: فيمن ورث مالا حراماً

۳۰۱/۷ زكريا)

بخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن

أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذٍ. (بدائع الصنائع /

كتاب الصلاة ۳۸۰/۱) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۰/۸/۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد مدرسہ کے راستے کے لئے سرکاری روڈ پر سود کے

### پیسوں سے مٹی ڈالنا؟

**سوال (۲۵۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک عام گذرگاہ جس پر تقریباً دس بارہ گاؤں کے لوگ گذرتے ہیں، اسی روڈ پر ایک بہت

پرانا گاؤں تھا، جو اب سے تقریباً ۷۰ سال پہلے بالکل اُچڑ چکا ہے، مگر اس گاؤں کی مسجد باقی ہے،

جس میں نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب سے ایک سال پہلے اسی مسجد سے متصل ایک مدرسہ کا قیام

عمل میں آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹے نماز اس مسجد میں ہونے لگی ہے، یہ مدرسہ جی ٹی روڈ سے

تقریباً چھ سو میٹر کی دوری پر ہے، اس روڈ پر کھرنجہ لگنا طے ہو گیا ہے، جس کا ٹینڈر وغیرہ بھی ہو گیا

ہے، سرکاری ضابطہ یہ ہے کہ جنگل کے روڈ پر جو مٹی پڑتی ہے وہ مٹی دائیں بائیں کھیت سے اٹھائی

جاتی ہے، مگر اس روڈ کے کھیت والے مٹی اٹھوانے سے انکار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کھرنجہ

لگنے سے رک رہا ہے، جب کہ صورتِ حال یہ ہے کہ معمولی سی برسات میں بھی اس راستہ پر سواری کا گذرنا تو کجا پیدل چلنا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا اس کھرنج کی مٹی میں سود کی رقم لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمادیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں مسجد اور مدرسہ کے راستہ کے لئے سرکاری روڈ پر مٹی ڈالنے کی غرض سے سود کی رقم براہِ راست لگانا جائز ہے؛ البتہ یہ ممکن ہے کہ سرکاری بینک سے لی گئی سودی رقم سرکاری ادارہ کو باقاعدہ واپس لوٹادی جائے اور وہ ادارہ اپنے اختیار سے مذکورہ راستہ کو درست کرنے کے لئے یہ رقم صرف کرے، تو اس کی اجازت ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۸۳/۱۶ ڈبھیل، احسن الفتاویٰ ۷/۲۱)

ویردونها علی أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد علی صاحبه. (شامی، کتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل فی البیع ۳۸۵/۶ کراچی، ۵۵۳/۹ زکریا، الفتاویٰ الہندیہ ۱۵/۳۴۹)

والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب عليه ردہ علیهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (شامی / مطلب: فیمن ورث مالا حراماً ۱۵/۹۹ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۱/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## رشوت لینے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۵۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رشوت لینے والے کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں رشوت کا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا؛

لیکن اگر وہ ملازم اپنی تنخواہ کے پیسے سے مسجد کا تعاون کرتا ہے، تو اُس میں کوئی حرج نہیں۔  
 قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً وما لا سببه الخبيث  
 والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا  
 يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱  
 كراچی، ۶۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد  
 الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۰ھ/۱۵  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## رشوت کے پیسے سے خریدی ہوئی زمین مسجد میں دینا؟

**سوال (۲۵۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
 میں کہ: ایک آدمی اس وقت سرکاری نوکری کی بنا پر کافی مال دار بن گئے ہیں، تقریباً دو سو بیگھہ زمین  
 رشوت کے روپے سے بنالی ہے، جب کہ ابتداء میں وہ بہت غریب تھے، اب وہ شخص کچھ زمین  
 مدرسہ میں دینا چاہتا ہے، تو کیا اُس زمین کو مدرسہ کے لئے لینا جائز ہے؟ یا اپنی بچی کی شادی میں  
 زمین دے رہا ہے، جب کہ داماد ایک عالم دین ہے، تو کیا اُس کے لئے زمین لینا صحیح ہے؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر سرکاری تنخواہ سے اُس نے زمین خریدی ہے تو اس  
 میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ایسی زمین مسجد وغیرہ میں بھی دینی درست ہے؛ لیکن اگر خالص  
 رشوت کے پیسے سے جائیدادیں خریدی ہیں تو گو کہ رشوت لینے کی وجہ سے وہ بدترین معصیت کا  
 مرتکب ہوا ہے، اور رشوت کی مقدار کا اصل ماکان کو لوٹانا یا صدقہ کرنا ضروری ہے؛ لیکن اگر اُس  
 نے جائیداد خریدتے وقت بائع سے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ میں مال حرام سے ہی اُس کی قیمت ادا  
 کروں گا؛ بلکہ مطلقاً عقد ہوا ہے، اور اُس نے قیمت میں رشوت کی رقم دے دی ہے، تو اس خرید کردہ  
 جائیداد سے انتفاع اُس کے لئے حرام نہیں ہے، اور اُس کا مسجد میں دینا یا کسی کو ہبہ کرنا بھی درست

ہے، اگر چہ رشوت کی رقم بدستور اُس کے ذمہ میں واجب رہے گی۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشبي والمرتشبي في الحكم. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما جاء في الراشبي والمرتشبي في الحكم ۲۴۸۱)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشبي والمرتشبي في النار. (تلخيص الحبير، كتاب القضاء / باب أدب القضاء ۲ رقم: ۲۰۹۳)

رجل اكتسب مالاً من حرامٍ ثم اشترى، فهذا على خمسة أوجه: ..... أو اشترى مطلقاً ودفع تلك الدراهم، قال أبو النصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثالث الأخيرة يطيب. الفتوى الآن على قول الكرخي. (شامي / مطلب: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى على خمسة أوجه ۲۳۵/۵ كراچی، ۴۹۰/۷ زكريه، بزازية على الهندية ۱۸۳/۶، الأشباه والنظائر ۸۵۵/۲ إدارة القرآن كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۷/۷/۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حرام آمدنی والوں سے مسجد میں چندہ لینا؟

**سوال (۲۶۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید مسجد میں امام ہے، اُس مسجد کے اطراف میں تقریباً ۲۵۰ گھر ہیں، ہر فرد سے بارہ مہینے بیس روپے لیتے ہیں، جس میں سے ۱۵۰ کی روزی یقینی طور پر حرام ہے، یہ بات زید کو بھی معلوم ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں جن لوگوں کی تمام آمدنی حرام ہے

اُن سے مسجد میں چندہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر حرام کے ساتھ حلال بھی ہے اور حلال غالب ہے، تو ایسے لوگوں سے چندہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۷/۳۵۵)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكروه؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكروه تلويث بيته بما لا يقبله. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ کراچی، ۶۳۱/۲ زکریا، کذافی حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت، وكذافي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة / الفصل الثالث ۹۱۲/۴ زکریا، إمداد الفتاوى، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۲۷۲/۲)

آكل الربا وكاسب الحرام أهدي إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره إن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. (الفتاوى الهندية ۳۴۳/۵، خانية على الهندية ۴۰۰/۳)

غالب مال المهدي إن كان حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، ما لم يتعين أنه من حرام، وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه. (البيزانية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الفصل الرابع في الهدية والميراث ۳۶۰/۱۶ زکریا، الأشباه والنظائر، الفن الأول / القاعلة الثانية ۳۴۳/۱ إدارة القرآن كراچی، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ۳۴۳/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۳/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حرام کاروبار کرنے والوں کا امام صاحب کے لئے چندہ دینا؟

**سوال (۲۶۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک شخص محلہ کی مسجد میں امامت کرتا ہے، اُس کی تنخواہ چار سو روپے ماہوار ہے، اور محلہ میں



۲۵۰ گھر ہیں، محلہ کے حضرات امام صاحب کو پورے سال کی تنخواہ ایک ساتھ دیتے ہیں، تمام محلہ کے رہنے والے پورے سال کے لئے ہر گھر سے ۲۰ روپے وصول کرتے ہیں۔ ہم بات یہ ہے کہ محلہ میں ۱۰۰ گھر ایسے ہیں جن میں یقینی طور پر حرام کام ہوتا ہے؛ کیوں کہ جو حضرات ۲۰ روپے وصول کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے گھر سے بھی وصول کرتے ہیں، تو کیا یہ رقم بھی ان کے لئے جائز ہے؟ جب کہ امام صاحب کو بھی معلوم ہے، پورے سال کی تنخواہ ۲۸ سو روپے ہوتی ہے، تو اس طرح لینا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورت مسئلہ میں اگر ۱۰۰ گھر والے امام کی تنخواہ کے لئے خاص حرام مال میں سے چندہ نہ دیتے ہوں؛ بلکہ ملے جلے مال میں سے وہ رقم دیتے ہوں، جیسا کہ عام معمول ہے، تو ان کی رقم امام کی تنخواہ میں ملنے سے کوئی شرعی خرابی نہ لازم آئے گی، امام صاحب اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں، اسی طرح اگر ان کا اکثر کاروبار حلال ہو تو بھی ان کا چندہ لینے کی گنجائش ہے۔

قال الحافظ عماد الدین إسماعیل بن کثیر القرشي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بردالة المال أو دنيته، وهو خبيثه؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن كثير ۳۲۰/۱ البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيدمي لاهور)

أكل الربوا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالاً لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الفتاوى الهندية / كتاب الكراهية ۳۴۳/۵ كوثنه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۴/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اُفیم گانجہ کی آمدنی مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۶۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسلمان نے اُفیم، چرس، گانجہ وغیرہ کی برنس کر کے پیسہ کمایا ہے اور وہ پیسہ اُس کا علیحدہ جمع ہے، وہ پیسہ مسجد، مدرسہ یا غرباء و مساکین کو دینا چاہتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اُس کے استعمال کے جواز کا کوئی حیلہ ہو تو مدلل تحریر فرما کر احسان فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اُفیم گانجہ وغیرہ کی تجارت اگرچہ مکروہ تحریمی ہے؛ لیکن اس سے حاصل شدہ آمدنی ناجائز نہیں ہے؛ لہذا وہ آمدنی مساجد و مدارس اور اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کی جاسکتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۷۶/۱، ۳۱۳/۳، ۳۵۳/۳ قدیم زکریا)

وإن استأجره لينحت له طنبوراً أو بربطاً ففعل، طاب له الأجر إلا أنه يأثم به.  
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة / الباب الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ۴/۵۰۴  
زکریا، فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الفتاویٰ الہندیہ / کتاب الإجارة ۴/۲۷۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۸/۵ھ

## پلٹے بازی کا پیسہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۶۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جن لوگوں کا پیسہ پلٹے بازی یا اُس سے ملتا جلتا ہو، اُن کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟ پلٹا اُس کو کہتے ہیں کہ کسی سے مال تولیادس کٹھنل اور اُس کو دھوکہ دے کر آٹھ کٹھنل کے پیسے دے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر غالب آمدنی حرام ہو تو اُس کا روپیہ مسجد میں لگانا

درست نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربّي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل جبل. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب رقم: ۱۴۱۰ دار الفكر بيروت)

قال المحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بردالة المال أو دنيته، وهو خبيثه؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن كثير ۲۲۰/۱ البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيدمي لاهور)

قال العلامة ابن عابدين: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلوّث بيته بما لا يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زکریا، کذا فی حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلاة / باب ما یفسد الصلاة ۲۷۸/۱ دار المعرفة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۰/۱۲/۵ھ

## پلٹے بازوں کی مسجد میں امامت کرنا اور ان کا کھانا کھانا؟

**سوال (۲۶۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جہاں پلٹے باز لوگ بھی رہتے ہوں اور دوسرا کام کرنے والے بھی وہاں کی مسجد میں امام کو رہنا اور ان کے یہاں کھانا درست ہے یا نہیں؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایسی جگہ مسجد میں امام کا رہنا درست ہے؛ البتہ ایسے

لوگوں کے گھر کا کھانا کھانے سے احتراز کرنا چاہئے جن کی آمدنی کا حرام ہونا متیقن ہو۔

غالب مال المہدیٰ إن كان حلالاً، لا بأس بقبول هديته وأكل ماله، ما لم يتعين أنه من حرام، وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه. (البرازية على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الفصل الرابع في الهدية والميراث ۳۶۰/۶ زكريا، الأشباه والنظائر، الفن الأول / القاعدة الثانية ۳۴۳/۱ إدارة القرآن كراچی، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ۳۴۳/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ  
۱۴/۱۰/۱۴۰۱ھ

## شیعوں کا پیسہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۶۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شیعہ حضرات کا پیسہ مساجد میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر ان کی آمدنی حلال ہو اور وہ ثواب کی نیت سے پیسہ دیں، نیز ان کا روپیہ لینے سے بعد میں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ روپیہ لینے کی گنجائش ہوگی ورنہ نہیں۔  
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۷۷)

كل مسجد بنى مباہاةً أو رياءً أو سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجه اللہ، أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار. (التفسير الأحمدی ۴۷۸ المكتبة الحفانية پشاور، روح المعاني ۲/۱۱، التوبة: ۱۰۷ مكتبة دار الكتاب العربي بيروت، مدارك التنزيل ۱/۱۹۷ التوبة: ۱۰۷) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## فکس ڈپازٹ سے حاصل شدہ پیسہ سے مسجد بنانا؟

**سوال (۲۶۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی مسجد کے ممبران حضرات مسجد کی بنیاد کمزور ہو جانے کی وجہ سے از سر نو تعمیر کی غرض سے کچھ رقم مثلاً پانچ ہزار روپے پیدا لیس (فکس ڈپازٹ) میں جمع کریں؛ تاکہ پانچ سال کے بعد دوگنی رقم حاصل ہو اور اُس سے مسجد کی تعمیر میں مدد ملے، چنانچہ اُن لوگوں نے پانچ ہزار روپے جمع کر کے پانچ سال کے بعد دس ہزار روپے حاصل کر چکے، پھر اب اصل رقم اور حاصل ہونے والی زائد رقم کو مسجد کی تعمیر میں لگانا چاہتے ہیں، تو اس طرح یہ زائد روپیہ بھی تعمیر میں صرف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح نہیں ہے اور یہ بات اُن سے کہی جائے تو اس کے باوجود وہ نہ مانیں اور اُس روپیہ سے مسجد کی تعمیر کریں، تو اُس مسجد میں نماز اور دیگر عبادتیں درست ہوں گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد خدا تعالیٰ کا گھر اور خالص عبادت کی جگہ ہے، اس کی تعمیر میں حلال اور پاک رقم ہی لگائی جاسکتی ہے، سودی یا حرام و ناجائز رقومات سے مسجد یا دیگر دینی عبادت گاہوں کو تعمیر کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

أما لو أنفق مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت، وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة الفصل الثالث ۴۹۹/۲ زكريا، إمداد الفتاوى، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۶۷۲/۲)

اور اگر کسی نے حرام رقم سے مسجد کی تعمیر کر دی ہے تو ایسی مسجد میں نماز تو ہو جائے گی؛ لیکن مسجد کا ثواب اُس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ لگی ہوئی حرام رقم کی مقدار کو فقراء پر صدقہ نہ

کر دیا جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۶۵۱-۶۷۷، احسن الفتاویٰ ۶/۳۳۱ زکریا، امداد الفتاویٰ ۲۲/۶۷ زکریا)  
 کل مسجد بنی مباحہ أو ریاء أو سمعة أو لغرض سوی ابتغاء وجه اللہ،  
 أو بمال غیر طیب فهو لا حق بمسجد الضرار۔ (مدارک التنزیل علی هامش تفسیر الحازن  
 ۲۸۱/۲ حافظ کتب خانہ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۶/۲۹ھ

## گورنمنٹ کی رقم مسجد میں لگانا

**سوال (۲۶۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
 میں کہ: گورنمنٹ گاؤں والوں کو کسی وجہ سے کچھ رقم عنایت کرتی ہے کہ آپ لوگ اس رقم کو مسجد میں  
 لگالیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس رقم کو مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا قبرستان کے لئے  
 زمین خرید سکتے ہیں، یا قبرستان کے لئے راستہ کی زمین خرید سکتے ہیں؟ اگر مذکورہ کاموں میں لگانا  
 منع ہے تو کیوں؟ اور اگر لگانا جائز ہے تو کیوں؟ اور اگر مذکورہ کاموں میں لگا چکے ہیں تو کیا حکم ہے؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر گورنمنٹ کی طرف سے رقم دینے کی وجہ سے آئندہ  
 اُس کی مسجد میں دخل اندازی اور فتنہ انگیزی کا اندیشہ نہ ہو، تو اُس رقم کا مسجد میں لگانا درست ہے؛  
 اس لئے کہ گورنمنٹ کی نظر میں مسجد میں صرف کرنا بھی تقرب سمجھا جاتا ہے اور چوں کہ مسجد کے نام پر  
 رقم دی گئی ہے؛ اس لئے اُسے مسجد ہی میں لگایا جائے، قبرستان میں نہ لگایا جائے۔ (امداد الفتاویٰ ۶۹۲/۲)  
 شرط وقف الذمی أن یکون قربةً عندنا وعندہم، کالوقف علی الفقراء أو

علی مسجد القدس۔ (رد المحتار، کتاب الوقف / مطلب: قد یتب الوقف بالضرورة ۳۴۱/۴ کراچی)  
 و أما الإسلام، فلیس من شرطہ، فصح وقف الذمی بشرط کونه قربةً  
 عندنا وعندہم۔ (البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۱۶/۵ زکریا، و کذا فی الفتاویٰ الہندیہ، کتاب

ثم الحال إن وصايا الذمي على أربعة أقسام ..... ومنها: إذا أوصى بما يكون قربةً في حقنا وحقهم، كما إذا أوصى بأن يسرح في بيت المقدس، أو يغزى الترك وهو من الروم، ولهذا جائز، سواء كان القوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقةً في معتقدهم أيضاً. (الهداية، كتاب الوصايا / باب وصية النمي ٦٦٧/٤ مكتبه بلال ديوبند، وكذا في رد المحتار، كتاب الوصايا / فصل في وصايا النمي وغيره ٦٩٦/٦ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۲/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری روپے سے مسجد یا عید گاہ کی تعمیر کرنا؟

**سوال (۲۶۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا حکومت جمہوریہ یعنی سرکاری روپیوں سے مسجد یا عید گاہ بنائی جاسکتی ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر حکومت اپنی مرضی سے مسجد بنائے اور آئندہ کسی فتنہ

کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو اُس کی جانب سے مسجد اور عید گاہ بنانا درست ہے۔

لما في البحر وغيره: إن شرط وقف الذمي أي يكون قربة عندنا وعندهم

كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف / مطلب قد ثبت

الوقف بالضرورة ٣٤١/٤ كراچی، ٥٢٤/٦ زكريا، البحر الرائق ١٨٩/٥، منحة الخالق على حاشية البحر

الرائق ١٨٩/٥، بدائع الصنائع ٣٤١/٧ كراچی)

وَأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا

وعندهم. (البحر الرائق / كتاب الوقف ١٨٩/٥) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۲/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری بجلی بغیر منظور کے مسجد میں استعمال کرنا؟

**سوال (۲۶۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سرکاری بجلی بغیر منظور شدہ طور پر مسجد یا کسی مکان میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سرکاری بجلی سرکاری اجازت کے بغیر مسجد میں استعمال

کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے آدمی کے لئے بھی اپنے گھر میں استعمال جائز نہیں ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۹۶۱-۱۹۶۲/۱۲-۱۳ زکریا قدیم، احسن الفتاویٰ ۴۲۶/۶)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله

تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد لمحتار، كتاب الصلاة / مطلب:

كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زکریہ، كذا في حاشية الطحطاوي

على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار لمعرفة بيروت، وكذا في

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة / الفصل الثالث

۴۴۹/۲ زکریہ، إمداد الفتاوى، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۶۷۲/۲ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹/۳/۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سرکاری لائٹ سے سرکاری اجازت کے بغیر پانی گرم کرنا؟

**سوال (۲۷۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: سرکاری لائٹ سے بغیر سرکاری اجازت کے مصلیان کے لئے پانی گرم کرنا اور اُس پانی سے

وضو کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں چوری کی لائٹ سے پانی گرم کرنا جائز نہیں



ہے، اور ذمہ دارانِ مسجد پر لازم ہے کہ جس قدر لائٹ سرکاری اجازت کے بغیر انہوں نے خرچ کی ہے، اس کا معاوضہ محکمہ بجلی میں داخل کریں؛ تاہم اس لائٹ سے جو پانی گرم ہوا ہے وہ چول کہ ناپاک نہیں ہے، اس لئے اس سے وضو کر کے نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ (مستفاد: منتخبات نظام الفتاویٰ ۳۱۶/۲)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۲۵۵، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۱۱۸/۶ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۷۲/۵، شعب الإيمان للبيهقي ۳۸۷/۴ رقم: ۵۴۹۲ دار الكتب العلمية بيروت)

قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. (شامي / مطلب: تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية ۱۷۲/۲ کراچی)

إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / مطلب في التعزير بأخذ المال ۲۱/۴ دار الفكر بيروت، البحر الرائق، باب حد القذف / فصل في التعزير ۶۸/۵ زكريا)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مكتبة اتحاد ديوبند، الأشباه والنظائر، كتاب الغصب / الفن الثاني، الفوائد: ۴۴/۲ رقم القاعدة: ۱۷۱۲ زكريا، وكذا في الدر المختار / كتاب الغصب ۲۰۰/۶ دار الفكر بيروت)

المغصوب إن علمت ..... وجب رده عليهم، وإلا وجب التصديق به.

(شامي / مطلب: فيما لو صادر السلطان جائزاً فنوى بذلك أداء الزكاة ۲۹۱/۲ کراچی)

قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا

يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زکریا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۱۱/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## چوری کی بجلی مسجد میں جلانا اور اُس کی ہوا کھانا؟

**سوال (۲۷۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سرکاری بجلی چوری کر کے مسجد میں لی، تو اُس بجلی کی روشنی اور سچکھے کی ہوا سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور نماز ہوگی یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد میں چوری کی بجلی کا استعمال بالکل ناجائز ہے؛ تاہم اُس کی روشنی اور سچکھے کی ہوا سے نماز میں خرابی نہیں آتی۔ (امداد الفتاویٰ ۱۴۷/۱)  
قال المحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيّب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بردالة المال أو دنيته، وهو خبيثه؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن كثير ۳۲۰/۱ البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيدمي لاهور)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب رقم: ۱۴۱۰ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۵/۱۴۳۰ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مساجد میں چوری کی بجلی کا حکم

**سوال (۲۷۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس مسجد میں چوری کی بجلی استعمال ہوتی ہو، جس سے نکلے بھی چلتے ہیں اور موٹر سے پانی بھی بھرا جاتا ہے، جس سے وضو کیا جاتا ہے، کیا اُس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور جن مدارس میں بجلی چوری کی استعمال ہوتی ہے، اُس کا کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب سے نوازیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** چوری کی بجلی کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے، اور مسجد کے جو ذمہ داران چوری کی بجلی جلاتے ہیں، وہ گنہگار اور مومناخذہ دار ہیں؛ لیکن اس چوری کی بجلی سے جو پانی بھرا جاتا ہے نمازیوں کے لئے اس پانی کا استعمال ناجائز نہیں ہے، یہی حکم مدارس وغیرہ میں چوری کی بجلی استعمال کرنے کا بھی ہے، وہاں کے مہتمم اور انتظامیہ کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، طلبہ یا اساتذہ ذمہ دار نہیں ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْزِرْ وَازِرَةً وَزَرَ أَخْرَى﴾ [الأنعام، جزء آیت: ۱۶۴]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه

بغير حق. (مجمع الزوائد ۱۷۱/۴)

إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي،

كتاب الحدود / مطلب في التعزير بأخذ المال ۲۱/۴ دار الفكر بيروت، البحر الرائق، باب حد القذف /

فصل في التعزير ۶۸/۵ زكريا)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه. (شامي / مطلب: فيما يجوز من التصرف

بمال الغير بدون إذن صريح ۲۹۱/۹ زكريا)

إن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين. (شامي ۲۱۹/۳، ۵۵۳/۹ زكريا)

امراة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غضباً أو اشترى طعاماً، أو كسوة من مال أصله ليس بطيب، فهي في سعة من ذلك، والإثم على الزوج. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ۵۵۳/۹-۵۵۴ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۲/۳/۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجدوں میں چوری کی بجلی استعمال کرنا؟

**سوال (۲۷۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ میں بہت سی مساجد ہیں جن میں بغیر میٹر کے بجلی استعمال کی جاتی ہے، اور بعض مساجد میں میٹر تو ہیں مگر بل ادا نہیں کیا جاتا، جب متولیان مساجد کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مساجد میں سرکار کی طرف سے مفت بجلی دی جاتی ہے؛ لہذا میٹر لگوانے یا بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں، نمازیوں کی ایک بڑی تعداد بھی سمجھتی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان مذکورہ مساجد میں استعمال کی جانے والی بجلی چوری کے زمرے میں آئے گی یا نہیں؟ نیز مساجد میں نماز ادا کرنے والے نمازیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جب کہ وہ اس طرح کی بجلی سے چلنے والے سیکھے لائٹ وغیرہ سے استفادہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** ہمارے علم کے مطابق اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مسجد یا مذہبی مقامات کے لئے مفت بجلی فراہم کی جائے؛ لہذا مسجد کے ذمہ داران کو چاہئے کہ حکومت کے قانون کے مطابق میٹر لگا کر ہر ماہ مقررہ بل ادا کریں، ورنہ وہ خود موآخذہ وار ہوں گے، عام نمازی جو اس بجلی کو استعمال کرتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ

۲۶۶/۶، فتاویٰ محمودیہ ۳۱۳/۱۵، ۱۳۱۳ھ بمبیل)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ۲۵۵، مرقاة المفاتيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ۱۱۸/۶ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۷۲/۵، شعب الإيمان للبيهقي ۳۸۷/۴ رقم: ۵۴۹۲ دار الكتب العلمية بيروت)

قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. (شامي / مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية ۱۷۲/۲ كراچی)

إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود / مطلب في التعزير بأخذ المال ۲۱/۴ دار الفكر بيروت، البحر الرائق، باب حد القذف / فصل في التعزير ۶۸/۵ زكريا)

قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً وما لا سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط والله تعالى أعلم

الملاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۴/۸

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## میٹر کے بغیر مسجد میں ہیٹر، گیزر سے پانی گرم کرنا؟

**سوال (۲۷۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، لائٹ، پکٹھ وغیرہ کا اُس سے کنکشن ہے، اُن کا بل اُس میں آتا ہے، مگر پانی گرم کرنے کے لئے ہیٹر اور گیزر ہے، اُس کو چلانے کے لئے ڈائریکٹ لائن لے رکھی ہے، میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ لہذا کتنی بجلی استعمال ہوئی اس کا بل نہیں آتا ہے، کیا اس

طرح ہیٹر اور گیزر سے پانی گرم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اُس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** میٹر کے بغیر ڈائریکٹ بجلی کی لائن لینا بجلی کی چوری ہے، اور چوری کی بجلی استعمال کر کے پانی گرم کرنے کا عمل قطعاً جائز نہیں اور مسجد کے ذمہ دار حضرات جن کی رضامندی سے یہ چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، وہ آخرت میں سخت مؤاخذہ دار ہوں گے؛ تاہم اس طرح کی بجلی سے گرم شدہ پانی چوں کہ ناپاک قرار نہیں دیا جاتا، اس لئے اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نمازیں درست ہو جائیں گی اور اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ (مستفاد: نتجات نظام الفتاویٰ ۳۱۶/۲)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۲۵۵، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۱۱۸/۶ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۷۲/۵، شعب الإيمان للبيهقي ۳۸۷/۴ رقم: ۵۴۹۲ دار الكتب العلمية بيروت)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مكتبة اتحاد ديوبند، الأشباه والنظائر، كتاب الغصب / الفن الثاني، الفوائد: ۴۴۴/۲ رقم القاعدة: ۱۷۱۲ زكريا، وكذا في الدر المختار / كتاب الغصب ۲۰۰/۶ دار الفكر بيروت)

المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب ردّه عليهم، وإلا وجب التصديق به. (شامي، كتاب الزكاة / قيل: مطلب في التصديق من المال الحرام ۲۹۱/۲ كراچی، ۲۱۸/۳ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۲۰/۶/۱۴۳۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بغیر میٹر کے مسجد میں بجلی استعمال کرنا؟

**سوال (۲۷۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے محلہ میں ایک مسجد ہے، جس میں بجلی کی بتی لگی ہوئی ہے، مسجد کے متولی بغیر میٹر کے اُس کو استعمال کرتے ہیں، اور مصلیوں سے کہتے ہیں کہ بجلی کے ذمہ دار سرکاری آدمی نے ہمیں زبانی اجازت دے دی ہے کہ تم لوگ اپنے مدرسہ یا مسجد میں بغیر میٹر استعمال کرو، کیا یہ جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بجلی کی مالک حکومت ہے، جب تک حکومت کی طرف سے قانونی اور تحریری طور پر چھوٹ نہ ملے، محض کسی افسر کے کہہ دینے سے بجلی کی معافی نہیں ہو سکتی۔  
عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة المصابيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۲۵۵، مرقاة المفاتيح / باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ۱۱۸/۶ المكنبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۷/۲۵، شعب الإيمان للبيهقي ۳۸۷/۴ رقم: ۵۴۹۲ دار الكتب العلمية بيروت)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامسي،

كتاب الغصب / مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير ۲۹۱/۹ زكريا) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۱۰/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## میٹر بند کر کے باہر سے بجلی لے کر مسجد میں گیزر چلانا؟

**سوال (۲۷۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل مسجدوں میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے تو زیادہ تعداد میں میٹر بند کر کے رکھتے ہیں اور میٹر سے الگ لائن ڈال رکھی ہے اور سارا خرچ اسی طرح ہو رہا ہے، اگر میٹر سے بجلی خرچ کی

جائے تو بل بہت زیادہ آئے گا اور ایسا کرنے سے بل بہت کم آتا ہے، اور اکثر مسجدوں میں ریڈنگ والے سے بات کر رکھی ہے، وہ ریڈنگ اپنے حساب سے لے جاتا ہے، جس سے بل کم آتا ہے اور وہ اس کام سے الگ سے پیسے لیتا ہے، کیا ایسا کرنا مسجد میں جائز ہے؟ کیا یہ چوری نہیں ہے؟ اکثر مسجد کے ذمہ داروں سے کہا بھی کہ یہ کام جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مسجد کا بل جاتا ہے، ناجائز تو جب ہے جب ہم مسجد کا بل نہ دیتے ہوں۔ اور سردی میں پانی بھی گیزر سے گرم ہوتا ہے، گیزر لگانے میں مسجد کے امام صاحب بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، مسئلہ نہیں بتاتے، جب کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ بجلی جو اس میں خرچ ہوگی وہ الگ سے استعمال ہوگی، مگر امام صاحب بھی کچھ نہیں کہتے؛ بلکہ کچھ امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پانی گرم ملنا چاہئے، بجلی جیسے بھی ہو، اس پانی سے پڑھی ہوئی نماز ہوئی یا نہیں؟ اور پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** میٹر چلائے بغیر بجلی کا استعمال بجلی کی چوری ہے، جو

شرعاً جائز نہیں ہے، بالخصوص مساجد میں چوری کی لائٹ استعمال کرنا بڑا گناہ ہے، اور ذمہ داران مساجد اس گناہ کے ذمہ دار ہیں؛ تاہم اس چوری کی بجلی سے جو پانی گرم کیا جائے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اس سے پڑھی گئی نمازیں واجب الاعادہ نہیں ہوں گی، اہل محلہ کو چاہئے کہ وہ ذمہ داران مسجد کو چوری کی بجلی استعمال نہ کرنے پر آمادہ کریں، اور اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوں، تو اہل محلہ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ وہ گھر ہی سے وضو کر کے آیا کریں، اور چوری کی بجلی سے گرم کردہ پانی کو استعمال نہ کریں۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه. (مشكاة

المصابيح / باب الغضب والعارية، الفصل الثاني ۲۵۵، مرقاة المفاتيح / باب الغضب والعارية، الفصل

الثاني ۱۱۸/۶ المكتبة الأشرفية ديوبند، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۷۲/۵، شعب الإيمان للبيهقي



أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (ردالمحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زكريه، كذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۱/۱۹ھ

## میٹر خراب ہونے کی وجہ سے مسجد میں زائد بجلی کا استعمال کرنا

**سوال (۲۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی بجلی کا میٹر بہت دنوں سے خراب ہے؛ البتہ بجلی بل ہر مہینہ آتا ہے، اس بجلی سے مسجد میں روشنی ہوتی ہے، سردیوں میں ہیٹ سے پانی گرم ہوتا ہے، اس سے سرمیول بھی چلتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ میٹر خراب ہونے کی صورت میں اس بجلی سے یہ تمام کام صحیح ہیں یا نہیں؟ نیز میٹر صحیح ہونے کی صورت میں یا میٹر خراب یا بل زیادہ آنے کے ڈر سے پانی ہرگز گرم نہیں کر سکتے، اس لئے اس گرم پانی اور اس سے وضو کا حکم بطور خاص تحریر فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی بجلی کا جو میٹر خراب ہو گیا ہے، اُس سے زائد بجلی استعمال کی جاتی رہی تو یہ عمل چوری کہلائے گا، اور مسجد کے متولی حضرات اس کے ذمہ دار ہوں گے؛ تاہم اس طرح کی بجلی سے گرم کیا ہوا یا موٹر سے نکالا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے، اس لئے اس سے وضو کرنے سے وضو درست ہو جائے گا۔

لأن السرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار بغير إذن المالك، سواء كان المأخوذ مالاً أو غير مال ..... قال

اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿الَا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲/۶۳۲،  
مستفاد: فتاویٰ دار العلوم ۳/۵۳۱-۵۳۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۳/۸/۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**جس کو لہو میں چوری کا گنا پلتا ہوا سسکی کھوئی سے مسجد کا پانی گرم کرنا؟**

**سوال (۲۷۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس کو لہو میں چوری کا گنا پلتا ہے اُس کی کھوئی سے پانی گرم ہوتا ہے، اُس سے نمازی وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر متعین طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ گنا چوری کا ہے، تو اُس کی کھوئی اصل مالک کی اجازت کے بغیر مسجد میں جلا نادرست نہیں؛ لیکن اگر معلوم نہ ہو اور گنا پلوانے والا اُسے وہیں چھوڑ کر چلا جائے، تو وہ کھوئی مسجد کے حمام میں استعمال کی جاسکتی ہے، اُس سے گرم کردہ پانی پاک ہے، اُس سے وضو کرنا درست ہے اور چوری کا وبال چور پر ہے۔

قال العلامة ابن عابدين: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ كراچی، ۶۳۱/۲ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة ۲۷۸/۱ دار المعرفة بيروت، وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة / الفصل الثالث ۴۴۹/۲ زكريا، إمداد الفتاوى، كتاب الوقف / أحكام المسجد ۶۷۲/۲)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدر المختار مع الشامي، كتاب

الغصب / مطلب: فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح ۲۰/۶ کراچی، ۲۹۱/۹ زکریا  
 ويستفاد جواز فضالة قصب السكر من قوله في الشامى، ويقرره أن  
 مجرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا الحكم؛ لأن الحال دليل على الإذن. (رد  
 المحتار ۲۸/۴ کراچی، ۴۴۶/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۱/۱۳ھ

## TV چینل کی آمدنی مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۷۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
 میں کہ: ایک شخص کی تجارت ٹی وی چینل لے کر دوسروں کو دینا ہے، اور وہ دسرے لوگ کیبل کے  
 ذریعہ گھروں میں ہر قسم کے پروگرام پہنچاتے ہیں، جس میں بعض دینی پروگرام بھی ہیں، مگر اکثر غیر  
 شرعی پروگرام ہیں، نیز مذکورہ شخص ٹی وی پر اشتہارات بھی دیتا ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ  
 روپیہ کماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ شخص کی کمائی مسجد کی تعمیر یا زمین کی خریداری یا کسی اور مسجد  
 کے مد میں استعمال کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر مذکورہ ٹی وی چینل پر غالب پروگرام فواحش  
 و منکرات پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے، تو اُس کی آمدنی گناہوں میں  
 تعاون کی وجہ سے سخت مکروہ ہے؛ لہذا مساجد میں ایسی مشتبہ اور مکروہ آمدنی لگانا درست نہ ہوگا، مسجد  
 میں خالص حلال اور طیب روپیہ ہی لگانا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۸۸، ڈیجیٹل)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الله طيب لا يقبل الله إلا طيباً. (صحيح مسلم ۳۲۶/۱، مشكاة المصابيح ۲۴۱)

قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث

والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (رد المحتار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره ٦٥٨/١ كراچی، ٦٣١/٢ زكريا، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٧٨/١ دار المعرفة بيروت) فقط والله تعالى اعلم

الملاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۲/۸/۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ٹی وی اور ڈش کا کاروبار کرنے والے کی آمدنی مسجد میں دینا؟

**سوال (۲۸۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص ہے جس کا کاروبار ٹی وی، ڈیک، ریڈیو وغیرہ کا ہے، جو سنگیت میں شامل ہوتا ہے، کیا ایسے انسان کا روپیہ مسجد میں لگ سکتا ہے؟ مثلاً مسجد کی چٹائی پتائی ٹینکی یا رمضان شریف میں دیگر خرچ وغیرہ میں اُس کا روپیہ لگ سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ٹی وی و ڈش کا کاروبار کرنا تعاون علی المعصیۃ کی وجہ سے مکروہ و ممنوع ہے؛ لہذا بہتر ہے کہ ایسے شخص کا روپیہ مسجد کے لئے قبول نہ کیا جائے۔

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدہ، جزء آیت: ۲]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الله طيب لا يقبل الله إلا طيباً. (صحیح مسلم ۳۲۶/۱، مشکاة المصابیح ۲۴۱)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها

بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. (صحیح

البخاري، كتاب الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب رقم: ۱۴۱۰ دار الفكر بيروت

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بردالة المال أو دينيته، وهو خبيثه؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن كثير ۱/ ۳۲۰ البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيتمي لاهور) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۱۱/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## خنزیر کے بالوں سے برش بنانے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۸۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص خنزیر کے بالوں کا برش بنا کر فروخت کرتا ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ خنزیر کے بال حرام ہیں؛ لیکن برش میں جو میٹیریل جیسے ٹین کے کورکٹری کی ڈنڈی وغیرہ لگتی ہے اور کاریگر بھی کام کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا چندہ مسجد یا مدرسہ میں لگ جائے گا یا نہیں؟ اور سب میٹیریل حلال ہے، علاوہ بالوں کے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جو برش خنزیر کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں ان میں غالب قیمت خنزیر کے بال ہی کی ہوتی ہے؛ لہذا مذکورہ شخص کی غالب آمدنی حرام کہلائے گی اور اس کا چندہ مسجد وغیرہ میں لینا جائز نہیں ہوگا۔

و شعر المیتة غیر الخنزیر علی المذهب، وفي الشامية: أي علی قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية أن شعره نجس، صححه في البدائع. (الدر المختار مع الشامی، كتاب الطهارة / مطلب: في أحكام الدبابة ۳۵۹/۱ زکریا)

و شعر الخنزیر بنجاسة عينه فيبطل بيعه، وإن جاز الانتفاع به لضرورة..... و كره البيع، فلا يطيب ثمنه، ويفسد الماء على الصحيح، خلافاً لمحمد

رحمہ اللہ تعالیٰ ..... وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: يكره الخزر به؛ لأنه نجس. (الدرالمختار، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ۷۲/۵ كراچی، الهدایة، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ۵۸/۳ شركة علمية ملتان)

فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، ولذا لم يرو عن أبي يوسف كراهة الانتفاع به. (البحر الرائق ۱۳۳/۶ زكريه، فتح القدير ۴۲۵/۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۲۳/۱۴۲۳ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## خنزیر کے بالوں سے برش بنانا اور اُس کی آمدنی مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۸۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید خنزیر کے بالوں کے برش بنانے کا کام کرتا ہے، اور کوئی اُس کا کام نہیں ہے، اُس کی کمائی سے اُس نے ایک باغ خریدا، اب زید نے ایک مسجد کا فرش بنوایا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ زید کا کاروبار حرام ہے (خنزیر کے بالوں کے برش کی تجارت) تو زید نے یہ کہا کہ میں نے مسجد کے فرش میں رقم اپنا باغ فروخت کر کے باغ والی بچت لگائی ہے، جب کہ باغ بھی اُس کی کمائی سے خریدا گیا تھا، اب اگر زید کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ اُس نے باغ کی فروختگی کی رقم مسجد میں صرف کی ہے، تو یہ رقم باغ کی جو حرام کمائی سے خریدا گیا تھا، اُس سے فرش بنوانا درست ہے؟ اگر درست ہے تو فہما اور اگر درست نہیں ہے تو نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تک جو نمازیں پڑھی اُن کا کیا ہوگا؟ نیز اگر یہ فرش باغ کی قیمت لگا کر بھی کچھ کراہت رکھتا ہے، تو کیا فرش کو کھاڑ کر صحیح کمائی سے بنوادیا جائے یا اور کچھ حیلہ؟ مثلاً زید کو اُس کی رقم واپس کر دی جائے جو فرش میں لگی ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** خنزیر کے بالوں کے برش سے انتفاع حرام ہے، اور

اُس سے حاصل شدہ آمدنی مسجد میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، جو فرش مسجد کا ایسی حرام آمدنی سے بنایا

گیا اُسے نہ اکھاڑا جائے؛ بلکہ اُس کی قیمت اور اُس میں لگائی ہوئی رقم دینے والے کو لوٹا دیا جائے، جو نمازیں اُس فرش پر پڑھی گئیں ہیں وہ واجب الاعادہ نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۰/۱۲، کفایت المفتی ۶۵/۷-۶۷)

وشعر الخنزیر بنجاسة عينه فيبطل بيعه، وإن جاز الانتفاع به لضرورة ..... وكره البيع، فلا يطيب ثمنه، ويفسد الماء على الصحيح، خلافاً لمحمد رحمه الله تعالى' ..... وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: يكره الخنزير به؛ لأنه نجس. (الدر المختار، كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ۷۲/۵ کراچی، الهدایة، کتاب البيوع / باب البيع الفاسد ۵۸/۳ شركة علمية ملتان)

ویردونها علی اربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامی، کتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في البيع ۳۶۵/۶ کراچی، ۵۰۳/۹ زکریا)

ولا يجوز بيع شعر الخنزير. (الهداية ۵۷/۳ مکتبه بلال دیوبند، البحر الرائق ۱۳۲/۱ زکریا، شامی / مطلب: في أحكام الدباغة ۲۰۶/۱ کراچی، ۳۵۰/۱ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۱۳/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## شراب کی آمدنی سے حلال کاروبار کرنے والے کا مسجد میں قائلین دینا؟

**سوال (۲۸۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص برادری کا کلال ہے، اس کا پشتینی شراب کا کام ہے، اچھی ترقی والا ہے، لاکھوں روپے کی جائیداد ہے، سب اسی پیسے کی ہے، اس نے اپنے لڑکے کو کوئی اور تجارت کرائی ہے، جوتے کی ہو، کپڑے کی ہو یا لوہے کی ہو، سب اسی پیسے کی ہے اور جہاں کرائی ہے وہ جائیداد بھی اسی

پیسے کی ہے، اور اس تجارت کو دس بارہ سال ہو گئے ہیں، اسی رمضان میں جو کہ ۲۰۰۸ء کے گزرنے ہیں، وہ شخص گذر گیا، اس کے پندرہ بیس دن بعد اُس کے لڑکے نے تین قالین مسجد میں صف کی جگہ ڈلوادیئے، اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ شراب کے پیسے کے ہیں، لڑکے کا کہنا ہے کہ یہ تجارت کے پیسے کے ہیں؛ لیکن بنیاد سب اسی پیسہ کی ہے، اس پر کچھ لوگ کنارہ کش ہو گئے، کچھ مسجد میں اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ حرام پیسہ تجارت کی لوٹ پلٹ سے حلال ہو جائے گا اور اس قالین پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسلمان کے لئے شراب کا کاروبار اور اس کی آمدنی

سب حرام ہے؛ لیکن شراب سے حاصل کردہ آمدنی سے اگر کوئی دوسری تجارت کی جائے اور اس سے نفع ہو تو فتویٰ یہ ہے کہ یہ زائد نفع حرام نہیں کہلائے گا، اور حرمت صرف اس حد تک رہے گی جتنا حرام پیسہ کاروبار میں لگا ہے، اگر وہ حرام پیسہ کاروبار سے نکال کر صدقہ کر دیا جائے، تو پوری تجارت حلال ہو جائے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مسؤلہ صورت میں تجارت کی آمدنی سے جو قالین مسجد میں دیا

گیا ہے، اس کا دینا درست ہے؛ لیکن دینے والے پر لازم ہے کہ ابتدائی کاروبار میں جو حرام پیسہ لگا ہے، اس کے بقدر پیسہ غریبوں پر تقسیم کر دے۔

وقال الكرخي رحمه الله في الوجه الأول والثاني: لا يطيب، وفي الثالث

الأخيرة: يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للخرج عن الناس. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها، وهو المختار، لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعًا للخرج

لكثرة الحرام. (شامي / مطلب: إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى على خمسة أوجه ۴۹۰۱۷ زكريا)

من ملك بمملك خبيث، ولم يمكنه الرد إلى المالك، فسيبيله التصدق



على الفقراء ..... قال: إن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته، ولا يرجو

به المشوبة. (معارف السنن، أبواب الطهارة / باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ۳۴۱/۱ كراچی)

ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه وجب عليه

ردہ. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۲/۱ رقم المادة: ۹۷ كونه، البحر الرائق / كتاب الحدود، فصل

في التعزير ۶۸/۵ زكريا، الفتاوى الهندية / فصل في التعزير ۱۶۷/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۰/۱۵

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا سامان خریدنے کیلئے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم کا استعمال؟

**سوال (۲۸۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے نام سے کچھ چندہ جمع ہو گیا ہے، کیا اس چندہ سے صفیں، نل، لوٹے لگوا سکتے ہیں یا

الگ سے دوسرا چندہ کرنا ہوگا؟ کیوں کہ اس چندہ میں ہر قسم کی مدد کا پیسہ ہے، زکوٰۃ، فطرہ، چرم قربانی

اور امداد وغیرہ کا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** لوٹے وغیرہ خریدنے میں صدقہ، فطرہ اور زکوٰۃ وغیرہ

کی رقم لگانی درست نہیں ہے، اس مقصد سے الگ چندہ کیا جائے۔

ولا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح

الطرقات و كرى الأنهار والحج والجهاد، و كل ما لا تمليك فيه. (الفتاوى الهندية،

كتاب الزكاة / باب المصارف ۱۸۸/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۱/۸/۱۹

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## چرم قربانی کی رقم حیلہ کر کے مسجد کی تعمیر میں لگانا؟

**سوال (۲۸۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک بہت ہی غریب محلہ ہے، اور وہاں پر صرف ایک ہی مسجد ہے، اور اہل محلہ کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ امام کی تنخواہ دے سکیں اور مسجد کے ضروری تعمیراتی کام کر سکیں، ایسی صورت حال میں اگر اہل محلہ مشورہ کر کے یہ طے کر لیں کہ اس محلہ کی اور پڑوسی محلوں کی چرم قربانی سب ایک جگہ جمع کر کے جب قیمت لگائی جائے گی، اُس وقت کوئی ایک شخص بہت ہی کم قیمت میں مثلاً پچاس روپے فی عدد خریدنا چاہے، تو اسی کے ہاتھ سب چرم قربانی فروخت کر دی جائے، حالاں کہ بازار میں اس وقت اُس کی قیمت مثلاً چھ سو روپے ہے، پھر وہ شخص ان چرم قربانی کو بازار میں اس کی اصلی قیمت یعنی چھ سو روپے فی عدد بیچ دے اور اس میں سے پچاس روپے کر کے فقراء کے درمیان تقسیم کر دے، اور بقیہ جو پانچ سو پچاس روپے نفع کے بیچ جائیں، تو اس رقم کو امام کی تنخواہ اور مسجد کی ضروری تعمیراتی کام میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** چرم قربانی کی قیمت فقراء کا حق ہے، اس طرح کا حیلہ کر کے فقراء کو اُن کے حق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کی ضروریات کے لئے امدادی عام چندہ کیا جائے۔

ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلو أو يبدله بما ينتفع به باقيًا كما مر، لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم، فإن بيع اللحم أو الجلد به أي بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمانه. (الدر المختار ۳۹۸/۹ بیروت، ۴۷۵/۹ زکریا، بدائع الصنعة ۲۲۵/۴ زکریا، تبیین الحقائق ۴۸۶/۶ زکریا، المبسوط للسخسي ۱۴/۱۲ بیروت) و مشائخنا رحمهم اللہ تعالیٰ أخذوا بقول محمدٍ دفعًا للضرر عن

أما الاحتیال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان، وقال النسفي: في الكافي عن محمد ابن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. (عمدة القاري ۱۰۹/۲۴) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴/۵/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بیع فاسد میں بیع فروخت کر کے قیمت مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۸۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص نے کوئی شیء بیع فاسد کے طریقہ پر خریدی اور پھر اس بیع کو فروخت کر کے اُس کی قیمت مسجد میں دیتا ہے، تو یہ دیناً صحیح ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صحیح نہیں ہے؛ اس لئے کہ بیع فاسد میں بیع کے ذریعہ جو نفع حاصل ہو، وہ واجب التصدق ہوتا ہے اور مسجد ایسے مال کا مصرف نہیں ہے۔

قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

[البقرة، جزء آیت: ۲۶۷]

من اشترى جاريةً بيعاً فاسداً وتقايضاً فباعها وربح فيها تصدق بالربح.

(الهداية ۵۰/۳)

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامي،

كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء، فصل في لبيع ۳۸۵/۶ کراچی، ۵۵۳/۹ زکریا، الفتاویٰ الہندیہ ۳۴۹/۵)

﴿وَلَا تَيْمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ أي تقصدوا الخبيث ﴿مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخِيذِهِ﴾: أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم،

فلا تجعلوا لله ما تكرهون.

عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قال: كسب المسلم لا يكون خبيثاً، ولكن لا يصدق  
بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. (تفسير ابن كثير [البقرة: ۲۶۷] ۳۲۰/۱-۳۲۱  
سهيل أكيدمي لاهور)

قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي: قال ابن عباس رضي  
الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيّب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن  
التصدق برذالة المال أو دنيئته، وهو خبيثه؛ فإن الله لا يقبل إلا طيباً. (تفسير ابن  
كثير ۳۲۰/۱ البقرة: ۲۶۷ سهيل أكيدمي لاهور فقط والله تعالى أعلم

کتاب: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۱۲ھ



# مسجد کا پیسہ مدرسہ میں اور مدرسہ کا مسجد میں لگانا

## مسجد و مدرسہ کی آمدنی ایک دوسرے میں خرچ کرنا؟

**سوال (۲۸۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مدرسہ مسجد سے ملحق ہے اور ضرورت کے وقت ایک کی آمدنی دوسرے میں خرچ کر لی جاتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مدرسہ و مسجد کے چندہ دہندگان کی طرف سے ایک

کی آمدنی دوسرے میں لگانے کی اجازت ہے تو یہ عمل صحیح ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵۸/۱۵، ۵۸/۱۶، ۵۸/۱۷)

وإن اختلف أحدهما بأن بنی رجلان مسجدین أو رجل مسجدًا و مدرسۃً،

ووقف علیہا أو قافًا، لا يجوز له ذلك (الدر المختار) قوله: لا يجوز له ذلك:

أي الصرف المذكور ..... قال الخیر الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا

كان الوقف منزليين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما

للآخر، وهي واقعة الفتوى الخ. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب في نقل أقباض المسجد

ونحوه ۳۶۰/۳-۳۶۱ کراچی)

وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين

للآخر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مسجد کے نام پر آئے ہوئے چندہ کو مدرسہ میں لگانا؟

**سوال (۲۸۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے مدرسہ کے ایک حصہ میں جس میں مسجد بنانا طے ہو گیا تھا اور چندہ بھی اکٹھا ہو گیا تھا، مگر زید مذکور نے اس چندہ سے متعینہ مسجد نہ بناتے ہوئے مدرسہ میں دوکانیں بنوادیں؛ لہذا صورتِ مذکورہ میں زید پر کیا حکم لگتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر چندہ دہندگان نے صرف مسجد کی تعمیر کے لئے چندہ دیا تھا، تو زید کے لئے وہ رقم مدرسہ میں لگانی جائز نہیں تھی اور اگر چندہ مطلق تھا یا مدرسہ کے لئے تھا، تو اُسے مدرسہ کی تعمیرات اور دیگر ضروریات میں بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: مراعاة غرض الواقفین واجبة والعرف یصلح منحصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

إذا ذکر للوقف مصرفاً، لا بد أن یکون فیہم تنصیص علی الحاجة

حقیقۃً. (رد المحتار، کتاب الوقف / مطلب: متى ذکر للوقف مصرفاً لا بد أن یکون الخ ۳۶۵/۴

کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۲/۶ھ

## مدرسہ کا پیسہ اور سامان مدرسہ کی مسجد میں لگانا؟

**سوال (۲۸۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ کا فنڈ تعمیر مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مدرسہ کی عمارت میں سے نکالا گیا میٹریل مسجد کی تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح مدرسہ کے فنڈ سے امام صاحب کی تنخواہ وغیرہ مسجد کے جملہ خرچ کئے جاسکتے ہیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** چوں کہ یہاں مدرسہ اصل ہے اور مسجد اُس کے تابع ہے؛ لہذا مدرسہ کی آمدنی عمارتی سامان وغیرہ، اور امام کی تنخواہ مدرسہ کی آمدنی سے دینا درست ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۲/۱۳۵ میرٹھ)

أي مصالح المسجد، فيدخل المؤذن والناظر؛ لأننا قدمنا أنهم من المصالح، وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام؛ لأنه إمام الجامع، فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقاً بعد العمارة: الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمان القناديل والزيت والحصر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۰۹/۱۰ زكريا)

والذي يتبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۰۶/۱۰ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۰/۱۴۱۸ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کی دوکانوں کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا؟

**سوال (۲۹۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ کی آمدنی کے لئے کچھ دوکانیں تعمیر کی گئی ہیں، اُن دوکانوں کی کرایہ کی آمدنی مسجد کے خرچ کے لئے منتخب کردی جائیں یا مدرسہ میں خرچ ہو؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ جگہ چوں کہ مدرسہ کی ہے، اس لئے آمدنی مدرسہ ہی کو ملنی چاہئے، پھر مدرسہ چاہے تو مسجد پر خرچ کر دے؛ اس لئے کہ یہاں مسجد تابع ہے۔

أي مصالح المسجد، فيدخل المؤذن والناظر؛ لأننا قدمنا أنهم من المصالح، وقد منا أن الخطيب داخل تحت الإمام؛ لأنه إمام الجامع، فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقاً بعد العمارة: الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمان القناديل والزيت والحصر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۹/۵ زكريا)

والذي يتبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۵۶/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۱۰/۱۴۱۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی توسیع کیلئے حاصل شدہ رقم کا مدرسہ یا اسکول میں صرف کرنا؟

**سوال (۲۹۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گرانٹ روڈ پل کے قریب واقع مسجد پنجوقتہ نمازوں کے لئے کافی ہے؛ لیکن جمعہ وعیدین کے موقع پر مصلیوں کی کثرت کی وجہ سے ناکافی ہوتی تھی، جس کی بنا پر لوگ سڑکوں پر نماز ادا کرتے تھے، اس کے حل کے لئے ذمہ داران مسجد نے توسیع کی نیت کی، جس کی شکل صرف یہ تھی کہ مسجد سے متصل مکان جو جو بازی اور جسم فروشی کا اڈہ تھا، اُس کو خرید کر مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ الحمد للہ؛ اللہ کی رحمت اور لوگوں کے تعاون سے خریداری کا کام مکمل ہو گیا، اس کے لئے عوام سے باقاعدہ مسجد بڑھانے کے عنوان سے چندہ کیا گیا، اب جدید تعمیر کے سلسلہ میں ذمہ داروں کا ارادہ یہ ہے کہ زمین سے متصل پہلا اور دوسرا منزلہ مسجد کی توسیع کے لئے اور باقی پانچ منزلیں مدرسہ اور اسلامی اسکول کے استعمال کے لئے ہوں۔

**نوٹ:-** (۱) پرانی مسجد نیچے سے اوپر تک اپنی حالت پر رہے گی، اور نئی عمارت کو قدیم



مسجد کے ساتھ جوڑا جائے گا۔

(۲) ذمہ داران مسجد موجودہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسی عمارت میں اسلامی اسکول

و مدرسہ جاری کرنا چاہتے ہیں؛ تاکہ اسلامی ماحول میں بچوں کو صحیح دینی و دنیاوی تعلیم دی جاسکے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ صورت میں

مسجد شرعی کی توسیع کے لئے روپیہ جمع کیا گیا ہے، اور اسی نیت سے مسجد سے متصل زمین خریدی گئی

ہے؛ لہذا یہ جگہ پیشگی منصوبے کے مطابق صرف مسجد شرعی کی توسیع ہی میں استعمال ہو سکتی ہے،

مدرسہ یا اسکول بنانے میں اس کو صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ۷/۲۵، ۱۰۰/۷، فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۳۵۵)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (الدر المختار) وأما لو تمت

المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء؛ فإنه لا يمكن من ذلك. (الدر المختار مع

الشمي، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم

و الدلالة. (الأشباه والنظائر / كتاب الوقف من الفن الثاني ۱۰۶/۲ زکریا، كذا في الدر المختار، كتاب

الوقف / مطلب استأجر دارًا فيها أشجار ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شمي، كتاب الوقف / مطلب:

مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصًا ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۶/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کے برتن اور دوکانوں کی آمدنی سے مسجد اور مدرسہ کا خرچ چلانا؟**

**سوال (۲۹۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید نامی شخص کو مسجد کی کمیٹی نے نیا ممبر بنایا، زید کے بچپن میں محلہ کی اس مسجد میں مدرسہ کبھی

بند کبھی شروع رہتا، جس کی وجہ سے زید تعلیم سے محروم رہا، اب اس کا جذبہ یہ تھا کہ کسی صورت میں میرے بچے اور محلے کے بچے عربی تعلیم سے محروم نہ رہیں، اور معلم سند یافتہ کوئی حافظ یا عالم ہو، اب جو پہلے کے معلم تھے ساٹھ روپے ماہانہ لیتے تھے، وہ دوسری جگہ چلے گئے تھے، زید نے مصلحان اور محلہ کے لوگوں کی میٹنگ لی، اور اس میں مہینہ کے دو جمعہ میں پہلی اذان سے لے کر دونوں خطبے ختم ہونے تک مسجد کے بیرونی اوٹوں پر بیٹھ کر عطیہ وصول کرنے اور جو اپنی مرضی سے دینا چاہے دے۔ اور معلم کو ڈھائی سو سے تین سو روپے تک ماہانہ نذرانہ دینے کی بات رکھی، سب نے خوشی سے منظور کیا؛ لیکن کچھ لوگ مسجد کے باہر مخالفت کرنے لگے کہ پہلے معلم کو ۶۰ روپے نہیں دے سکتے تھے، اب ایک دم سے یہ ۳۰۰ روپے کیسے دیں گے؟ (پچیس سال قبل کی بات ہے) لیکن اللہ کا فضل کہ پہلے ہی جمعہ کو تین سو سے زائد عطیات جمع ہو گئے، اس طرح ہر مہینہ کے دو جمعوں میں زید بالکل خاموشی سے رسیدیں دیتا رہا اور ایک عالم صاحب پڑھاتے رہے، کچھ رقم معلم کا نذرانہ دینے کے بعد بچتی رہی، جس سے زید نے برتن خرید کر کرائے پر دینا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ پاک مدرسہ چلانے کی آمدنی کے ذرائع کھول دے (چودہ سال یہ نظم چلتا رہا) تقریباً دس سال بعد امام صاحب - جن کی آواز ختم ہو چکی تھی - نے ایک تحریری چٹھی لکھی کہ تم جو مدرسہ کے معلم کو برتن کی آمدنی سے نذرانہ دیتے ہو وہ غلط ہے؛ لیکن زید نامی شخص جس نے ناظرہ کے مکتب کو دارالعلوم کی شکل دینے کا عزم کر رکھا تھا، ضدی ذہن کا ہونے کی وجہ سے امام کی تحریر کا جواب دل میں یہ دیا کہ اگر گناہ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں؛ لیکن مدرسہ ہر حال میں شروع رہے گا۔

اور اللہ کا فضل یہ کہ مدرسہ چودہ سال بغیر آمدنی کے چلتا رہا، پھر اللہ نے آمدنی کے ذرائع پیدا کر دیے اور زید نے ایک معلم کے بجائے تین معلم اور ایک مؤذن کا انتظام کر دیا، ۳۰-۴۰ طلبہ کی جگہ ڈھائی سو سے تین سو طلباء کو تعلیم دی جانے لگی۔

لیکن کچھ دین دار لوگوں کی ہی اس مدرسہ کو نظر لگی اور دارالعلوم کا قیام ہونے ہی والا تھا کہ آمدنی انتشار کا شکار ہو گئی، زید نے جو شاپنگ سینٹر عطیہ جمع کر کے بنایا تھا، اس میں کچھ دوکانیں

حاصل کرنے کے لئے کچھ لوگوں نے سب امن بر باد کر دیا، یہ ان کا ذاتی مفاد تھا، اب زید مستعفی ہونا چاہتا ہے؛ لیکن انتظامیہ نے تین مرتبہ استعفیٰ نا منظور کر دیا۔

سوال یہ ہے کہ زید اب برتن کی آمدنی دوکانوں کی آمدنی سے مدرسہ اور مسجد کا نظم چلا رہا ہے، تو اس کے اس گناہ کا کفارہ قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ براہ کرم جواب سے نوازیں۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** برتن اور دوکانیں جن کو معلم کی تنخواہ کی آمدنی کے لئے ہی خرید گیا تھا، اُن کی آمدنی سے معلم کی تنخواہ دینا جائز ہے، اور کوئی گناہ کی بات نہیں، اور زید کو اپنے عمل پر شرمندہ ہونے اور کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس نے مذکورہ مدرسہ کی ترقی کے لئے خلوص کے ساتھ جو خدمات انجام دی ہیں، تو انشاء اللہ آخرت میں ضرور اجر ملے گا۔

قال السندی: لكن أفتى الرملة بخلاف ما هنا في عدة أسئلة، ففي فتاواه: سئل في مدرسة احتاجت إلى نفقة لعمارة ما خرب منها، وليس هناك ما يعمر به من الوقف، هل يجوز أن تؤجر قطعة منها بقدر ما ينفق عليها أم لا؟ أجب: مقتضى ما في الخلاصة جواز ذلك ..... وهذه المسئلة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه الخ. (تقريرات الراعي على حاشية ابن عابدين / كتاب الوقف ۸۰/۴ کراچی)

الواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها. (بدائع الصنائع، كتاب الوقف / فيما يرجع إلى الموقف ۳۳۰/۵ المكتبة النعمية ديوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۴/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کے نام پر جمع کردہ چندہ سے مدرسہ کی تعمیر کرانا؟**

**سوال (۲۹۳):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد جو ایک مسلم محلہ میں واقع ہے، اس کی ازسرنو تعمیر کے لئے چندہ کیا گیا؛ لیکن اس مسجد سے متصل ایک مدرسہ واقع ہے، کیا اس پیسہ سے جو مسجد کے لئے جمع کیا گیا ہے، اس مدرسہ کی بھی ازسرنو تعمیر کی جاسکتی ہے؟ یا مدرسہ کے لئے الگ سے چندہ کیا جائے اور آئندہ چندہ مسجد اور مدرسہ کے نام سے ایک ساتھ کیا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر وہ مدرسہ مسجد کی انتظامیہ کے ماتحت چلتا ہے، تو مدرسہ و مسجد کی ضروریات کی تکمیل کی ایک ہی فنڈ سے کی جاسکتی ہے۔

اتحد الواقف والجهة (الدر المختار) بأن وقف وقفین علی المسجد، أحدهما علی العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه، والإمام والمؤذن لا يستقر لقلعة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدًا. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ۵۵۱/۶ زکریا، کذا فی البحر الرائق / کتاب الوقف ۲۱۶/۵ کراچی، مجمع الأنهر / کتاب لوقف ۵۹۶/۲ دار الکتب العلمیة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۷/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی رقم پرائمری اسکول کی تعمیر یا تنخواہ میں خرچ کرنا

**سوال (۲۹۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد کی رقم مدرسین کی تنخواہ، مدرسہ کی تعمیر اور ہندی انگلش پرائمری تعلیم پر خرچ کی جاسکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** خاص اراضی مسجد کی رقم ضروریات مسجد کے علاوہ کہیں خرچ نہ کی جائے اور اگر چندہ مشترک امور (مسجد، مدرسہ اور اسکول وغیرہ) کے لئے ہو، تو اُسے

مسجد کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی خرچ کیا جاسکتا ہے۔

ويبدأ من غلته بعمارتہ ثم ما هو أقرب لعمارتہ كإمام مسجد ومدرس  
مدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارة  
۳۶۶/۴ کراچی، ۵۵۹/۶ زکریا)

وفي الشامي بحثاً: أي بل يصرف إلى كل منهم القدر الذي عينه الواقف.  
(شامي، كتاب الوقف / مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ۳۶۸/۴ کراچی، ۵۶۱/۶ زکریا)  
كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة لسليم رستم باز، الفصل الأول في  
بعض قواعد في أحكام الأملاك ۶۵۴/۱ رقم المادة: ۱۱۹۲ المكتبة الحنفية كوثبه)  
لأن المملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. (رد المختار،  
كتاب البيوع / مطلب في تعريف المال والملك والمقوم ۵۰۲/۴ کراچی)

سئل أبو القاسم عن اشترى الدهن أو الحصر للمسجد أيهما أفضل؟  
قال: هما سواء، فقال الفقيه أبو الليث: إن كان المسجد محتاجاً إلى أحدهما  
فشرأه أفضل، وإن كان سواء في الحاجة إليهما، كانا في الثواب والأجر سواء  
أيضاً. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / مسائل وقف المساجد ۸۵۱/۵ إدارة القرآن کراچی،  
۱۶۹/۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۰/۲۲ھ

## اسکول کی نیت سے خرید کردہ مکان میں مسجد کا روپیہ لگانا؟

**سوال (۲۹۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: اسی ٹرسٹ نے اس مسجد و مدرسہ کے مکان سے ملا ہوا ایک مکان اسکول کی نیت سے خریدا؛  
لیکن رقم وصول کرنے والوں نے کچھ اسکول کے نام پر وصول کیا اور کچھ مسجد کے نام پر، اور دونوں رقم

اس طرح مخلوط ہے کہ الگ نہیں کی جاسکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد و اسکول دونوں کے نام پر جمع شدہ رقم سے خریدے ہوئے مکان کے لئے مسجد کا حکم ہوگا یا اسکول کا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** اسکول کی نیت سے خریدے گئے مکان میں مسجد کے لئے حصول کردہ جتنی رقم لگائی گئی ہے، اس کا اندازہ لگا کر اس رقم کو اسکول کی مد سے الگ کرنا لازم ہے، اور اتنی رقم مسجد ہی کے مصارف میں لگانا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کیا گیا، تو ٹرسٹ کے ذمہ دار آخرت میں مواخذہ دار ہیں۔

يلزم رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها. (شرح المحلة ٤٠١/٤ رقم المادة: ٧٩٤

المكتبة الحنفية كوئٹہ)

رجل جمع ما لا من الناس لينفقه في بناء المسجد، وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه، ثم رد بدلها في نفقة المسجد، لا يسعه أن يفعل ذلك، وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه، أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا الخ ٢٩٩/٣ زكريا)

ولو جمع ما لا لينفقه في بناء المسجد، فأنفق بعضه في حاجته، ثم رد بدله في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك. (البحر الرائق / كتاب الوقف ٤٢٠/٥ دار الكتب العلمية بيروت)

وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين

للآخر. (البحر الرائق ٣٦٢/٥ زكريا)

وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتًا ليخصه ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن الكل نوع حكمًا يختص به، فإن لم يكن في بعضها شيء،

فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء، رده في المستقرض منه. (تبیین الحقائق، کتاب السیر / باب العشر والخراج والحزبة ۱۷۱/۴ دار الکتب العلمیة بیروت، وکذا فی البحر الرائق، کتاب السیر / باب العشر والخراج والحزبة ۲۰۰/۵-۲۰۱ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کے کام میں بطور رشوت خرچ کرنا

**سوال (۲۹۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی دوکانوں کی آمدنی کرایہ کو مدرسہ کے فائدہ کے لئے مثلاً عمارت وغیرہ کے حصول کے لئے بطور رشوت کے دینا کیسا ہے؟ اور ایسے شخص کی امامت کیسی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کے کام میں بطور رشوت خرچ کرنا جائز نہیں، اور مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود کوئی شخص اگر یہ کام کرے، تو وہ لائق امامت نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۱۳۹۰، ۱۵/۱۳۹۱)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ۲۴۸۱)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين، أو رجلٌ مسجدًا ومدرسةً ووقف عليها أو قافلاً لا يجوز له ذلك. (شمي ۵۰۱/۶ زکریا)

ويحرم طلب الرشوة وبذلها وقبولها كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي

والمرتشي. (الموسوعة الفقهية ۲۲/۲۲ بیروت)

ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي. (شامي

۳۴۱۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۵/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی بجلی مدرسہ والوں کا استعمال کرنا اور مسجد سے قرض لینا

**سوال (۲۹۷):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد کی زمین پر مدرسہ بنا ہوا ہے، جس میں ہندی انگریزی اور اردو قرآن پاک ناظرہ و حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس مدرسہ کا ناظم زید ہے، مسجد کی تحویل میں سے مسجد کے منتظم بکر سے سترہ ہزار روپے بطور قرض چند دن کے لئے لئے تھے، اس وقت مدت پانچ سال سے زائد ہو چکی ہے، ابھی تک روپیوں کی ادائیگی نہیں کی، پہلے مدرسہ کا مدرس مسجد میں مدرسہ کی جانب سے نماز پڑھاتا تھا، اب مدرسہ کا مدرس مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، تو مسجد سے تنخواہ لیتا ہے، مسجد کے کنکشن سے مدرسہ کے پتھکے کو لرا اور تمام ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، مسجد کو کسی طرح مدرسہ کی جانب سے کرایہ نہیں ملتا، بتی کا بل بھی مسجد کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں اگر مسجد اور مدرسہ کی انتظامیہ الگ

الگ ہے، تو ایک کی آمدنی دوسرے میں صرف کرنا درست نہیں، اسی طرح مسجد کی بجلی مدرسہ والوں کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں، اگر وہ استعمال کریں تو اس کا معاوضہ دینا لازم ہے، اور جو روپے مسجد کے فنڈ سے مدرسہ میں قرض کے طور پر لئے گئے ہیں، مدرسہ کے منتظمین پر ان کی جلد از جلد ادائیگی لازم ہے۔

وإن اختلف أحدهما بأن بنی رجالن مسجدین أو رجل مسجداً ومدرسة

ووقف علیہما أوقافاً لا یجوز له ذلك (الدر المختار) أي الصرف المذكور، قال



خیر الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر. (الدر المختار مع الشامي ۵۰۱/۶ زكريا) متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى الهندية

(۴۶۲/۲)

الديون تقضى بأمثالها. (الأشباه والنظائر الفن الثاني ۲۵۶، الدر المختار ۶۶۴/۵ زكريا)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۳۲/۸/۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا مال قیمتاً خرید کر مدرسہ والوں کا رقم ادا نہ کرنا؟

**سوال (۲۹۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے منتظم بکر سے مدرسہ کے ناظم زید نے چھ برس قبل مسجد کی ایٹینس مورنگ لکڑی وانگل وغیرہ لیا تھا، جس کی قیمت قریب ۱۶ ہزار روپے بنتی ہے، بکر کے کئی بار تقاضا کرنے پر بھی زید نے ابھی تک ان چیزوں کی واپسی نہیں کی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مال میں سے جو اشیاء قیمتاً مدرسہ کے لئے لی

گئی ہیں، مدرسہ پر ان اشیاء کی قیمت مسجد کو لوٹانی واجب ہے، جلد از جلد انتظام کر کے مسجد کا قرض ادا کرنا چاہئے۔

حشیش المسجد إذا كانت له قيمة فلا هل المسجد أن يبيعه. (الفتاوى

الهندية / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۵۹/۲)

إذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع. (الهداية / كتاب البيوع ۲۰۳) فقط واللہ

تعالیٰ اعلم

## مسجد اور اسکول کے نام پر جمع کردہ مخلوط رقم سے خرید اہوا کمرہ مسجد کا ہے یا اسکول کا؟

**سوال (۲۹۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) استفتاء کے ساتھ لگائے گئے کاغذ پر جو نقشہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے: کمرہ نمبر ۱، ۲، ۳۔ یہ جگہ برائے مدرسہ مسجد مختص ہے، اور کمرہ ۵، ۷، ۹، یہ تینوں مسجد کے کمرے ہیں، جس میں کمرہ نمبر ۵/۱۵ میں استیجاء خانہ اور وضو خانہ ہے، کمرہ نمبر ۷/۱۵ رہائش کے لئے کرایہ پر دیا گیا ہے، اور کمرہ نمبر ۹/۱۵ مدرسہ و اسکول کے آفس کے لئے مستعمل ہے۔

دریافت طلب امر کمرہ ۱۳، ۱۴، ۱۵ کے متعلق ہے، اس میں کمرہ نمبر ۱۵ مسجد کی نیت سے توسیع مسجد کے لئے خریدا گیا تھا، اس میں جمعہ اور تراویح کی نماز ہوتی تھی، بعد میں اسی کمرہ میں ایک دینی طرز کا اسکول شروع کیا گیا، اس کے بعد کمرہ ۱۳، ۱۴، خریدا گیا، اور ان دونوں کمروں کی خریداری کے لئے چندہ جمع کرنے والوں نے مختلف اعتبار سے وصول کیا، کسی نے مسجد کے لئے وصول کیا، اور کسی نے اسکول کے لئے، اور کسی نے یہ کہہ کر چندہ جمع کیا کہ یہ جگہ اسکول کے لئے ہے؛ البتہ اس سے جمعہ و عیدین وغیرہ میں کافی سہولت ہو جائے گی۔

سوال یہ ہے کہ کمرہ ۱۳، ۱۴، جو مسجد و اسکول کے لئے جمع کردہ مخلوط رقم سے خریدا گیا، اس کے لئے کیا حکم ہے؟ مسجد کی ملکیت ہے یا اسکول کی؟

(۲) ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ کمرہ نمبر ۱۵ جو خالص مسجد کی ملکیت ہے، اس کی پوری قیمت اور کمرہ ۱۳، ۱۴، میں استعمال شدہ رقم تخمیناً، اسکول کی طرف سے مسجد کو ادا کر کے گلی کے ایک طرف کا پورا حصہ اسکول کے لئے خاص ہو جائے، اور اس رقم سے مسجد سے متصل دوسرا کمرہ خرید کر توسیع

مسجد کے لئے گلی کے دوسری طرف کا پورا حصہ خاص کر دیا جائے، تو کیا یہ تجویز از روئے شرع درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) اگر مسجد اور اسکول کی انتظامیہ رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، جیسا کہ سوال نامہ میں لکھا گیا ہے، تو کمرہ ۱۳، اور ۱۳/۱۳/اسی ٹرسٹ کی ملکیت قرار پائیں گے، اور ٹرسٹ کے ذمہ داران ان کمروں کو مسجد یا دینی طرز کے اسکول میں استعمال کر سکتے ہیں۔

القیم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً، أو داراً أن يستغل ویباع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء. (الفتاویٰ الہندیہ / الفصل الثانی من کتاب الوقف ۴۶۲/۲ زکریا)

(۲) اگر ٹرسٹ کے حضرات مناسب سمجھیں تو آپ کی پیش کردہ تجویز پر عمل کر سکتے ہیں؛ اس لئے کہ یہ زمین موقوفہ نہیں ہے؛ بلکہ ٹرسٹ کی ملکیت ہے، تو حسبِ صواب دید اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔

متولی المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاً أو داراً ثم باعها جاز إذا كانت ولاية الشراء. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ / الفصل الحادی والعشرون فی المساجد ۸۶۲/۵ إدارة القرآن کراچی، ۱۸۰/۸ رقم: ۱۱۵۶۸ زکریا)

إن متولي المسجد إذا اشترى من غلته حانوتاً أو داراً، فهذه الدار أو هذا الحانوت هل يلتحق بالحوانیت الموقوفة؟ - إلى قوله - المختار: أنه لا يلتحق بالحوانیت الموقوفة على المسجد، ولكن يصير مستغلاً للمسجد. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ ۸۶۲/۵ إدارة القرآن کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۳/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین پر بنے ہوئے مدرسہ سے مسجد کمیٹی کا کرایہ لینا؟

**سوال (۳۰۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے برابر میں ایک اراضی مسجد کے نام ہے، اس اراضی میں محلہ کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مسجد کو اس مدرسہ کا کرایہ دیا کرتے تھے، اس اراضی میں چار کرایہ دار تھے؛ لہذا مسجد کی کمیٹی اور محلہ کے لوگوں نے اس اراضی کو مدرسہ بنانے کے لئے زکوٰۃ فطرہ اور چرم کے عطیات سے اراضی کی تعمیر کرائی اور مسجد کی آمدنی سے دوکانیں بڑھائیں، اب اسی اراضی میں دس کرایہ دار ہیں، پہلے چار تھے چھ کا اضافہ ہوا ہے؛ لہذا مدرسہ کی تعمیر زکوٰۃ فطرہ اور چرم قربانی کے عطیات سے کی گئی ہے، اور مدرسہ میں دینی تعلیم ناظرہ اور قرآن حفظ اردو ہندی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور محلہ کے چند حضرات کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے؛ لہذا محلہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ کو بھی کرایہ دینا چاہئے، مسجد کو مسجد کا کرایہ لینا درست ہے، کرایہ سب مسجد کو جاتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مسجد اور مدرسہ کی کمیٹیاں الگ الگ ہیں، اور یہ مدرسہ مسجد کے تابع نہیں ہے، تو چونکہ اس کی تعمیر مسجد کی اراضی پر ہوئی ہے، اس لئے مدرسہ کے فنڈ سے مناسب کرایہ مسجد کو دینا چاہئے، اور اگر یہ مدرسہ مسجد کے ماتحت ہے، اور دونوں کا انتظام ایک ہی کمیٹی کرتی ہے، تو پھر کرایہ کی ضرورت نہیں، اور یہاں واضح رہنا چاہئے کہ مدرسہ یا مسجد کی تعمیر میں براہ راست زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی رقم لگانا درست نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵۵۲/۱۴ ۵۵۲/۱۴، ۵۵۲/۱۴، ۵۵۲/۱۴)

فتاویٰ رحیمیہ ۶/۹۵

ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصير يرغب الناس في استئجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجروها. (الفتاوى الهندية/الباب الخامس من كتاب الوقف ۴/۴۱ زكريا، كذا في قاضي خان

علی ہامش الہندیہ / باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۳۰۰/۳ زکریا، فتح القدیر / الفصل الأول من کتاب  
الوقوف ۲۴۱/۶ دار الفکر بیروت

لا یصرف إلی بناء نحو مسجد کبناء القناطر والسقایات، وإصلاح  
الطرقات وکری الأنهار، وکل مالا تملیک فیہ. (شمسی ۲۹۱/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۰/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام پر وصول کیا ہوا چندہ دوسری بستی کے مدرسہ یا مسجد میں لگانا؟

**سوال (۳۰۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: زید نے ایک دیہات میں مسجد بنانے کی غرض سے کچھ رقم بطور چندہ امداد کے وصول کی ہے،  
اس دیہات کے حالات ایسے ہی ہے کہ اس میں ۷۰-۸۰ گھر مسلمانوں کے ہیں، جن کی دینی  
و تعلیمی حالت کافی ناساز ہے، بچوں، بوڑھوں نو جوانوں مرد و عورت کسی کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، اور  
بستی میں مسجد و مکتب بھی نہیں ہے، کبھی کبھار جماعت کے ساتھی آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں؛  
لیکن ان بستی والوں کا رابطہ و تعلق بریلوی علماء سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو بہکاتے  
رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ہم اپنے خیال کار کھیں گے، جب کہ رقم دینے والے اور رقم جمع  
کرانے والے دونوں صحیح العقیدہ ہیں، اور جو علماء دیوبند تبلیغ و جماعت سے منسلک ہیں ان کا ارادہ  
بھی یہی ہے کہ بستی میں جماعت کا کام ہو، لیکن بستی والے نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ رقم ہمارے  
حوالہ کر دو، ہم اپنے حساب سے کام میں لیں گے، کیا یہ رقم ان کو دے دی جائے یا نہیں؟ دوسرا بات  
یہ ہے کہ کیا یہ رقم بجائے اس بستی کے کسی دوسری بستی میں مسجد بنوانے یا کسی دوسرے دینی مدرسہ میں  
خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب تفصیل سے دینے کی زحمت گوارا فرمائیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو رقم مذکورہ بستی میں مسجد بنانے کے لئے وصول کی گئی ہے، وہ اس بستی میں مسجد بنانے میں خرچ کرنی ضروری ہے، حکمتِ عملی کے ساتھ کچھ بستی والوں کو ساتھ لے کر وہاں مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ رقم کسی اور جگہ صرف نہ کی جائے۔

مستفاد: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب

العمل به. (الدرالمختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان

مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا، وکذا فی الأشباه والنظائر، کتاب الوقف / الفن

الثانی، الفوائد: ۱۰۶/۲، إدارة القرآن کراچی، تنقیح الفتاویٰ الحامدیة ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلف الجهة بأن مدرسة

ومسجدًا، وعين لكل وقفًا، وفضل من غلة أحدهما، لا يبديل شرط الواقف.

وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة، يتبع شرط الواقف، وقد علم بهذا التقرير

إعمال الغلتين إحياءً للوقف ورعاية شرط الواقف. هذا هو الحاصل من الفتاوى

الخ. وقد علم أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الواقفين

للاخو. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۸/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کی اینٹ مسجد کی نالی میں لگانا؟

**سوال (۳۰۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مدرسہ کی بچی ہوئی اینٹ مسجد کی نالی میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مدرسہ کو ضرورت نہ ہو اور اینٹیں رکھے رکھے ضائع

ہونے کا اندیشہ ہو، تو انہیں مسجد میں لگایا جاسکتا ہے، اور بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد کی جانب سے اینٹوں کا معاوضہ مدرسہ کے فنڈ میں داخل کر دیا جائے؛ تاکہ کوئی اشکال نہ رہے۔

وعن الثاني: ينقل إلى مسجد آخر ياذن القاضي ..... حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض. (الدر المختار / كتاب الوقف ۳۵۹/۴ کراچی، ۹/۶ ۵۴ زکریا)

والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني - وكفى بهما قدوة -، ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل، يأخذ أنقاضه للصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب في أنقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ کراچی، وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ کراچی)

وسئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ فقال: نعم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الفصل الرابع والعشرون في الأوقات التي يستغني عنها ۸۷۷/۵ إدارة القرآن کراچی، ۱۹۶/۸ رقم: ۱۱۶۲۴ زکریا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها الخ ۷۸۱/۲ زکریا، وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: فيما لو خرب المسجد أو غيره ۳۵۹/۴ کراچی) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۸/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی چھت پر مدرسہ کی کڑیاں رکھنا

**سوال (۳۰۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تعمیر کے وقت ضرورۃً مدرسہ کی چھت کا تھوڑا سا حصہ اگر مسجد کی چھت پر آجائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی چھت پر مدرسہ کی عمارت کی کڑیاں وغیرہ رکھنا درست نہیں ہے۔

وبہ علم حکم ما یصنعه بعض جیران المسجد من وضع جذوع علی جدارہ؛ فیانہ لا یحل . (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی احکام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

ولا یوضع الجذع علی جدار المسجد وإن کان من أوقافہ . (البحر الرائق / احکام المساجد ۴۱۹/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۱۱/۵ھ





# مسجد میں مدرسہ وغیرہ قائم کرنا

مسجد کے تہ خانہ میں مدرسہ قائم کرنا اور ایک کے مصارف دوسرے میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۰۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک نئی جامع مسجد اس طرح تعمیر ہو رہی ہے کہ نیچے تہ خانہ اور اوپر مسجد ہے، اور تہ خانہ میں ایک مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسجد آباد ہو جائے گی اور نماز پنجگانہ ہونے لگے گی؛ لیکن مدرسہ نہ ہونے کی صورت میں ابھی کافی عرصہ تک اس مسجد کے آباد ہونے اور تعمیر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے؛ کیوں کہ مسجد مذکور آبادی کے باہر ہے، اور آبادی میں کئی مسجدیں موجود ہیں، اور جامع مسجد بھی ہے، نئی جامع مسجد کی یہ زمین آئندہ آبادی کے بڑھنے کی ضرورت کے پیش نظر خریدی گئی تھی۔

مسجد سیلابی جگہ پر ہے، پٹاؤ کی وجہ سے مسجد کا فرش اونچا بنوانا تھا، مگر جو اونچائی رکھی گئی یعنی ۱۳-۱۴ فٹ، اتنے کی ضرورت نہ تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ کچھ مٹی پاٹنے کے بعد ہم نچلے حصہ کو کسی کام میں لائیں گے اور اوپر کے حصہ پر نماز ہوگی، چنانچہ اسی لئے نیچے پایا کے ساتھ ساتھ پچھم، اتر اور دکھن کی طرف سے دیواریں بھی بنائی گئیں اور اس میں روشن دان بھی لگوا گیا، گویا ابتدا ہی میں نیت یہی تھی کہ مسجد اوپر رہے گی اور تہ خانہ میں مسجد کی مصالح و ضروریات کے تحت کچھ بنے گا۔

جو مدرسہ تہ خانہ میں قائم کیا گیا ہے، اس میں بچوں اور بچیوں کی الگ الگ تعلیم کے لئے

الگ الگ عمارتیں موجود ہیں؛ لیکن اس کا شعبہ عربی و فارسی و حفظ و قرأت مسجد مذکور کے تہ خانہ اور بچی ہوئی زمین پر قائم کیا جا رہا ہے، اور مدرسہ کی کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مزید زمین و جگہ کی تلاش بھی جاری رہے گی۔

پہلے بچوں اور بچیوں کی تعلیم ایک ہی عمارت میں مخلوط ہوا کرتی تھی؛ لیکن پھر انتظامی و شرعی مصالح کے تحت دونوں کی تعلیم دو عمارت میں الگ الگ کر دی گئی، اور اب اسی مدرسہ کا شعبہ عربی وغیرہ بعض انتظامی و شرعی مصالح کے پیش نظر تیسری جگہ مسجد مذکور کے تہ خانہ میں اور اس کی بچی ہوئی زمین میں قائم کیا جا رہا ہے، انتظامی مصلحت یہ ہے کہ مذکورہ دونوں عمارتوں میں سے کسی عمارت میں اگر یہ شعبہ جات قائم کئے جائیں، تو آگے چل کر جگہ کم پڑ جائے گی اور اس سے ملحق زمین کی خریداری بھی تقریباً ناممکن ہے؛ کیوں کہ یہ آبادی کے اندر ہے، نیز اقامتی ادارہ کے لئے جو پرسکون تعلیمی ماحول آبادی کے باہر ملے گا وہ آبادی کے اندر نہ مل سکے گا، مسجد مذکور کے تہ خانہ اور بچی ہوئی زمین میں فی الحال بھی مذکورہ شعبہ جات کے لئے مدرسہ کی دونوں عمارتوں (شعبہ پرائمری و شعبہ نسواں) کے مقابلہ میں زیادہ جگہ مل رہی ہے، نیز اس سے ملحق اراضی بھی مالی گنجائش ہونے پر خریدی جاسکتی ہے، اور شرعی مصلحت یہ ہے کہ اس مدرسہ کے ذریعہ مسجد کی کما حقہ حفاظت ہوگی اور نماز پنجگانہ بھی ہونے لگے گی اور اس کی تعمیر بھی جلد ہو جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں مسجد کے تہ خانہ میں اور مسجد کی بچی ہوئی زمین میں مدرسہ قائم کرنا اور درس گاہ وغیرہ تعمیر کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور کتب فقہ کی رو سے اس عبارت کا کیا مطلب ہے کہ مسجد تحت العزائی سے رالی عنان السماء مسجد ہوتی ہے، نیز کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جب مدرسہ کی زمین اور رقم مسجد کے مصرف میں اور مسجد کی زمین اور رقم مدرسہ کے مصرف میں کام آسکے؟

**نوٹ :-** درج بالا سوال کے بارے میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نذیری جامعہ

عربیہ عین الاسلام نوادہ اعظم گڑھ کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی ملحق ہے:

**الجواب وهو الموفق للصواب:** مسجد کی تعمیر کی دو صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ مسجد تعمیر کرائی گئی اور مسجد کے نیچے خانہ وغیرہ کچھ بنوانے کا ارادہ نہیں تھا، دوسرے یہ کہ تعمیر کے وقت ہی نیت تھی کہ مسجد کی مصالح کے لئے نیچے خانہ ہے گا اور اوپر مسجد۔

پہلی صورت میں مسجد ”تحت الشریٰ إلى عنان السماء“ مسجد ہوتی ہے، دوسری صورت میں خانہ کے اوپر سے مسجد شمار ہوگی اور خانہ مصالح مسجد میں شمار ہوگا اور مسجد کی مسجدیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ، صاحب درمختار علامہ حصکفیؒ کی اس عبارت: إذا جعل تحته سرداباً لمصالحة أي المسجد جاز کمسجد القدس کے تحت فرماتے ہیں:

ظاہرہ أنه لا فرق بین أن یکون البیت للمسجد أو لا إلا أنه یؤخذ من التعلیل أن محل عدم کونه مسجداً فیما إذا لم یکن وقفاً علی مصالح المسجد، وبه صرح فی الإسعاف، فقال: وإذا کان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو کانا وقفاً علیہ صار مسجداً. (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب فی احکام المسجد ۶/ ۴۷۱ ۵ زکریا)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نورہ اللہ مرقدہ سے سوال کیا گیا کہ اگر مسجد بالائی منزل میں ہو اور اس کے نیچے کا خلا ضروریات و منافع و مصالح مسجد کے لئے مستعمل ہو، تو مسجد؛ مسجد کا حکم رکھتی ہے یا نہیں؟ اور اس طرح مسجد کی تعمیر جائز ہے یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں حضرت تھانویؒ نے درمختار کی مذکورہ بالا عبارت نقل کی، پھر فرمایا کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر مسجدیت کے مکمل ہونے سے قبل ایسا کیا جائے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔ (امداد الفتاویٰ ۲/ ۶۸۳)

حضرت تھانویؒ ایک دوسری کتاب ”آداب المساجد“ میں اسی مسئلہ کے تحت فرماتے ہیں:

”اس دوسرے درجہ کی بنا مشروط ہے، اس کے ساتھ کہ مسجد کی مسجدیت سے قبل بانی کی نیت اس بناء کی ہو، ورنہ بعد تمامیت مسجد کے ایسا کوئی تصرف جائز نہیں“۔

فقہاء نے جو مسجد کو عنانِ سماء و تحتِ اثرِ مئی مسجد کہا ہے یہ مفید ہے، اس صورت کے ساتھ جب کہ بناء مسجد کے وقت دوسرے درجہ فوقانی یا تحتانی بنانے کی نیت نہ ہو۔ (آداب المساجد ۶۵-۶۶، بحوالہ امداد الفتاویٰ)

جدید فقہی مسائل کے مصنف لکھتے ہیں کہ: ”ایسی صورت میں یہ نیچلی منزل مسجد نہیں؛ بلکہ ایک ایسی عمارت کے درجہ میں ہوگی جسے مصالح مسجد کے لئے وقف کر دیا گیا ہے اور بالائی چھت سے مسجد کا شمار ہوگا، علامہ علاء الدین حصکفیؒ فرماتے ہیں: إن جعل تحتہ سرداباً لمصالحہ جاز کمسجد القدس مگر یہ حکم اُس وقت ہوگا جب کہ مسجد کی تعمیر ہی کے وقت ایسی نیت کر لی جائے، اگر شروع میں کسی زمین پر مسجد کی تعمیر کر لی گئی اور بعد کو تنہا خانہ بنایا گیا تو درست نہ ہوگا۔ (جدید فقہی مسائل ۴۲۱-۴۵)

اب رہی یہ بات کہ مسجد کے تنہا خانہ اور نیچگی ہوئی زمین پر کوئی مدرسہ یا کسی مدرسہ کا کوئی شعبہ قائم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں مسجد و مدرسہ کی نوعیت جان لینا ضروری ہے، مسجد و مدرسہ کی تین صورتیں ہوتی ہیں:

(۱) مسجد و مدرسہ میں سے ایک مستقل بالذات ہو اور اصل ہو، کوئی کسی کی مصالح و ضروریات میں شامل نہ ہو، مثلاً مسجد آبادی کے اندر ہو، آبادی کے لوگ نماز پڑھتے ہوں، مسجد آباد کرنے کے لئے مدرسہ کی ضرورت نہ ہو اور مثلاً مدرسہ آبادی کے اندر ہو، مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے قریب میں مسجد موجود ہو۔

ان دونوں صورتوں میں کوئی کسی کی ضروریات و مصالح میں شامل نہیں ہو سکتا، مسجد مدرسہ کے مصالح میں شامل نہ ہوگی اور مدرسہ مسجد کی مصالح میں شامل نہ ہوگا، اور ایک دوسرے کی زمین و آمدنی وغیرہ ایک دوسرے میں نہ لگ سکے گی۔

لا یصرف أحد الواقفین إلى الآخر. (الفتاویٰ الحیرہ ۱۶۵۱)

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مدرسہ اصل ہو اور مدرسہ میں پڑھنے والوں کے لئے مسجد کی

ضرورت ہو، مثلاً مدرسہ آبادی کے باہر اور وہاں کوئی مسجد نہ ہو، اس صورت میں یہ مسجد مدرسہ کی مصالح اور ضروریات میں شامل ہو جائے گی اور مدرسہ کی زمین پر مدرسہ کے پیسہ سے مسجد بنوائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند فتاویٰ محمودیہ میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”اگر مدرسہ اصل ہو اور اُس کے لئے ہی مسجد بنائی جائے، تو مسجد کے اخراجات مدرسہ سے پورے کئے جائیں گے“۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۲۶۵-۲۶۶/۲)

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد اصل ہو؛ لیکن غیر آباد اور غیر محفوظ ہو، مثلاً آبادی کے باہر ہو یا کسی ویرانے میں ہو اور وہاں مدرسہ قائم کر دینے سے مسجد آباد بھی ہو جائے اور محفوظ بھی، اس صورت میں یہ مدرسہ مسجد کے مصالح اور ضروریات میں شامل ہو جائے گا اور مسجد کی زمین میں مدرسہ بنوانا جائز ہوگا، حتیٰ کہ اگر مدرسہ کے لئے چند وغیرہ نہ ہو اور مسجد کے پاس ہو تو مسجد کی رقم اور سامان بھی مدرسہ میں لگانا جائز ہوگا؛ کیوں کہ یہ رقم خرچ کرنا اور سامان لگانا مصالح مسجد میں رقم لگانا اور خرچ کرنا قرار دیا جائے گا جو کہ بلاشک و شبہ جائز ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب سے ایک ایسی جامع مسجد کے متعلق سوال کیا گیا جو کثیر الاوقاف اور زیادہ آمدنی والی تھی، مستفتی نے پوچھا تھا کہ وہ زائد آمدنی کو تعلیم دین، تبلیغ اسلام اور تدریس علوم شرعیہ پر خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟

حضرت مفتی صاحب نے جواب میں تحریر فرمایا کہ: ”صورتِ مسئلہ میں اگر مسجد کی آمدنی کا روپیہ زیادہ، صرف کم اور اتنا روپیہ ہر وقت موجود رہتا ہے کہ ضرورتِ شکست و ریخت وغیرہ بسہولت پوری ہو سکے اور روپیہ جمع رہنے میں خیانت کا قوی اندیشہ ہو، اور اس روپیہ سے مسجد کے لئے جائیداد خریدنے کے بعد بھی زائد بچ رہے، تو پھر اسی مسجد میں دینی مدرسہ قائم کر لیا جائے؛ تاکہ مسجد کی آبادی میں ترقی ہو؛ کیوں کہ آبادی کو ترقی دینا مسجد کی بڑی مصلحت ہے“۔ آگے حضرت مفتی صاحب نے عالمگیری کا حوالہ دیا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۵۰۹/۱)

اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ جب محض آبادی کو بڑھانا مسجد کی بڑی مصلحت بن گیا اور اس کی وجہ سے مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی گنجائش ہوگئی، تو جہاں مسجد سرے سے آباد ہی نہ ہو اور مدرسہ قائم کرنے سے آباد ہو جائے وہ بدرجہ اولیٰ مسجد کی بڑی مصلحت بن جائے گا۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقول: ﴿أَنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي، مشكوة المصابيح / باب المساجد ومواضع الصلاة ۶۹)

حضرت مفتی صاحب نے فتاویٰ محمودیہ ۱۰/۱۷۷ پر ایک شخص کو اس لئے ترقی دینے اور بیرونی طلبہ رکھنے کا مشورہ دیا؛ تا کہ اس مدرسہ کی مسجد آباد ہو جائے، جب کہ وہ مسجدنا تمام دیواریں بنا کر ہی چھوڑ دی گئی تھی، گویا مسجد کی آبادی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح حفاظت مسجد بھی مصالح مسجد میں شامل ہے، اور اس مصلحت کے تحت بھی مسجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کرنا جائز ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۸۷۶)

لہذا صورتِ مسئلہ میں جب مدرسہ کے ذریعہ مسجد مذکور کی حفاظت بھی ہوگی اور آبادی بھی ہوگی اور اس کی تعمیر بھی جلد ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، تو یہ مدرسہ مسجد مذکور کے مصالح میں شامل ہو گیا اور مسجد مذکور کے تہ خانہ اور بچگی ہوئی زمین میں مدرسہ کی درس گاہیں وغیرہ تعمیر کرنا شرعاً جائز ہے۔ مذکورہ بالا تفصیلات میں سوال کی ہر شق کا جواب آ گیا ہے۔ درمختار اور شامی میں ہے کہ مسجد کی فاضل زمین کو راستہ میں شامل کر سکتے ہیں تو مدرسہ کے لئے بدرجہ اولیٰ زمین استعمال کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: جمیل احمد نذیری خادم جامعہ عربیہ عین الاسلام نوادہ

۲۶ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: اختر حسین غفرلہ مفتی جامعہ مفتاح العلوم منو

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ

حضرت مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ مذکورہ سوال کا درج بالا فتویٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب تحریر فرمائیں:

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** یہ بات تو صحیح ہے کہ مسجد کے تہ خانہ میں مصلحت مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم و تدریس کی اجازت ہے، اور چونکہ ابتدا ہی سے اس کی تعمیر کا مقصد یہی تھا؛ لہذا وہ حصہ مسجد شرعی بھی نہ کہلائے گا۔

ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه. ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز، كما في مسجد بيت المقدس، كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۵۵/۲ زکریا)

وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد، أو كان وقفاً عليه صار مسجداً، شرنبالية. قال في البحر: حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ فهو كسرداب بيت المقدس، لهذا هو ظاهر الرواية. (ردالمحتار، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۷/۴-۳۵۸ کراچی، ۵۴۷/۶ زکریا)

إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز؛ لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين، صار ذلك لله تعالى أيضاً..... لو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد، قيل: لا يستحب ذلك، ولكن له لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً، وما تحته صار وقفاً عليه، ويجوز المسجد والوقف الذي تحته. (حاشية

الشليبي على تبين الحقائق / كتاب الوقف ۲۷۱/۴ دار الكتب العلمية بيروت)

لیکن مسجد کی آمدنی مدرسہ میں اور مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنے میں احتیاط لازم ہے، خاص کر اس لئے بھی کہ سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسجد مستقل بنفسہ ہے اور مدرسہ بھی

موجود بنفسہ ہے، حتیٰ کہ مدرسہ کے دیگر شعبے دوسری عمارتوں میں قائم ہیں اور دونوں کی آمدنی کا الگ الگ مصرف بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ فقہاء نے ایک وقف کی آمدنی دوسرے میں خرچ کرنے کی اجازت صرف دو صورتوں میں دی ہے:

(۱) ایک یہ کہ کوئی وقف مستغنی ہو جائے اور فاضل آمدنی کے ضیاع کا اندیشہ ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ کوئی وقف دوسرے وقف کے تابع ہو۔

اور احقر کے خیال میں یہاں ان دونوں میں سے کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے، یہاں نہ استغناء ہے اور نہ مسجد مدرسہ ایک دوسرے کے تابع ہیں؛ لہذا دونوں اوقاف کا آمد صرف اور حساب و کتاب الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔

وعن الثاني: ينقل إلى مسجد آخر يا ذن القاضي ..... حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض. (الدر المختار / كتاب الوقف ۳۵۹/۴ کراچی، ۵۴۹/۶ زکریا)

والذي ينبغي متابعة المشايخ المذکورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني - وكفى بهما قدوة -، ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل، يأخذ أنقاضه للصوم والتمغليون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه. (رد المختار، كتاب الوقف / مطلب في أنقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ کراچی، وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره ۶۵۸/۱ کراچی، ۵۴۸/۶ - ۵۵۱ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ



## امام کے حجرہ کے اوپر مدرسہ کے لئے کمرہ بنانا؟

**سوال (۳۰۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک جگہ جو مسجد کے گراؤنڈ میں ہے، فی الوقت اُس جگہ میں ایک کمرہ موجود ہے، جو امام صاحب کی قیام گاہ ہے، مسجد کے کچھ حضرات اس جگہ کے اوپر مدرسہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** امام کے حجرہ کے اوپر مدرسہ کے لئے کمرہ بنانا درست ہے، اب اگر مدرسہ مسجد کے تابع ہے، تو مسجد و مدرسہ کی آمدنی الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کمرہ بھی مسجد کی ملک رہے گا اور اُس میں تعلیم درست رہے گی، ہاں اگر مسجد اور مدرسہ کا نظام الگ الگ ہے تو مدرسہ کی جگہ کا کرایہ اہل مدرسہ کو مسجد میں جمع کرانا ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۵/۲۲ میرٹھ)

اتحد الواقف والجهة جاز للحاکم أن یصرف من فاضل الوقف الآخر  
عليه، وإن اختلف أحدهما بأن بنی رجلاں مسجدین أو رجل مسجدًا و مدرسةً  
ووقف عليهما أوقافًا لا یجوز له ذلك، أي الصرف المذکور . (الدر المختار مع  
الشامی، کتاب الوقف / مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ کراچی، البحر الرائق / کتاب  
الوقف ۲۱۶/۵ کوئٹہ، مجمع الأنهر / کتاب الوقف ۵۹۶/۲ دار الکتب العلمیة بیروت)

رجل استأجر أرضًا موقوفةً وبنی فیها حانوتًا و سکنها - إلى قوله - فبعد  
ذلك رفع البناء إن كان لا یضر بالوقف، فللبانی رفعه، وإن كان یضر لیس له  
رفعه. (الفتاویٰ الہندیة، کتاب الوقف / الباب الخامس ۴۲۲/۲ زکریا، البحر الرائق / کتاب الوقف  
۲۳۷/۵ کوئٹہ، المحيط البرہانی، کتاب الوقف / الفصل السابع فی تصرف فی الأوقاف ۳۵۹  
المجلس العلمی غجرات) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۴۱۹/۳/۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین میں مدرسہ کے لئے دوکانیں بنوانا؟

**سوال (۳۰۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شیرکوٹ کی جامع مسجد شیرکوٹ کی آبادی بندوبست کے خسرہ و نقشہ میں ۱۴۴۱ نمبر پر درج ہے، جو شیرکوٹ میں قلعہ نامی مقام میں جانب مغرب ہے، اور زائد چار سو سال سے ہے، مسجد کی توسیع دوبار ہو چکی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کا تقاضا ہے کہ مسجد کو اور بڑھایا جائے، مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد شیرکوٹ جو ایک مکتب کی شکل میں زمین داروں کی خالی حویلیوں میں آئے ہے، ان حویلیوں کو بدلنے میں مجبور تھا؛ کیوں کہ مدرسہ کی اپنی کوئی عمارت نہیں تھی، مسجد کے مہتمم حضرات نے مسجد کی کچھ آراضی جو مدرسہ کے لئے جگہ دے دی جس پر مدرسہ کے لئے عمارت بن گئی، جو آج مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد کہلاتا ہے، مدرسہ قائم ہو گیا۔ مسجد کی کچھ آراضی جو مدرسہ سے مغربی جانب کو ہے، مسجد کی طرف سے اس پرائیٹوں کا فرش ہو گیا، جس پر نماز جنازہ ہوتی ہے، یہیں مسجد کی طرف سے کولہو لگا ہوا ہے، اور الوداع جمعہ کو نمازی مسجد میں جگہ کم ہونے کے باعث نماز ادا کرتے ہیں۔ اب مدرسہ مذکور کی کمیٹی اس آراضی پر جو مدرسہ کی عمارت ہے، جنوب کی طرف ہے، مدرسہ کی طرف سے دوکانیں بنوانا چاہتی ہے، جب کہ مسجد کی کمیٹی مسجد کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس آراضی پر مدرسہ کے لئے کوئی تعمیر نہیں کروانا چاہتی، ایسی صورت میں مسجد کی آراضی پر مدرسہ کے لئے دوکانیں بنوانا جائز و درست ہے؟

**نوٹ:** - بہت سی سے مدرسہ کو اتنی آمدنی ہے کہ چندہ فراہم کرنے کے لئے غیر بستوں میں جانا نہیں پڑتا، ایک صاحب خیر نے اپنا ایک بڑا باغ پرورش کر کے مسجد و مدرسہ کو باضابطہ دے دیا ہے، جب کہ مدرسہ مذکور شیرکوٹ کے سبھی مدارس سے کچھڑا ہوا چل رہا ہے، مدرسہ میں سات مدرس ہیں، طلبہ سو سو سے بھی کم ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی زمین پر مدرسہ کے لئے دوکانیں بنوانا جائز

نہیں ہے، یہ زمین صرف مسجد کی ضروریات میں ہی استعمال کی جائے۔

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدین أو رجل مسجدًا و مدرسة ووقف علیہا أو قافلاً لا يجوز له ذلك أي الصرف المذکور. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی نقل ائقاض المسجد ۱/۶ ۵۵ زکریاء کذا فی البحر الرائق / کتاب الوقف ۲۱۶/۵-۲۱۷ کوئٹہ، منحة الخالق / کتاب الوقف ۱/۵ ۵۵ کراچی، مجمع الأنهر / کتاب الوقف ۲/۶ ۵۹۶ دار الکتب العلمیة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۱/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد سے ملحق عمارت میں اسکول چلانا

**سوال (۳۰۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک آراضی برائے مسجد خریدی گئی اور چندہ بھی مسجد کی آراضی کے عنوان سے ہی ہوا، مسجد کی تعمیر اور زمین کے لئے ہی لوگوں نے چندہ دیا، محمد اللہ ان پیسوں سے زمین خریدی گئی اور مسجد کی تعمیر کی گئی، مسجد کی آراضی میں چند دوکانیں مسجد کے لئے بنادی گئیں؛ تاکہ اس سے مسجد کی کچھ آمدنی ہوتی رہے اور مسجد کی ضروریات میں صرف ہوتا رہے، ان دوکانوں کے اوپر کچھ کمرے بنائے گئے ہیں، جس میں جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بھی رہتی ہے، اور سردی کی صفوں سے وہ صف ملی رہتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کمروں میں اسکول چلا دیا گیا ہے۔ دیارفت طلب امر یہ ہے کہ آراضی کی خریداری برائے مسجد ہوئی ہے، کیا اس میں اسکول چلانا درست ہے؟ نیز اگر مسجد کی کمیٹی معقول اور مناسب کرایہ اسکول والوں سے لینا چاہے تو اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں؟

**نوٹ:** - عام مصلیوں کو اس اسکول کے قیام سے ناراضگی ہے، نیز عام طور پر جماعتیں آتی

رہتی ہیں؛ چوں کہ بڑی مسجد ہے اور اسکول میں پڑھانے والی مستورات ہیں، جس کی وجہ سے بے

پردگی ہوتی ہے؟

**الجواب وبالله التوفيق:** مسجد کی حدود اور اُس سے ملحق عمارتوں میں اسکول چلانا جائز نہیں ہے۔ اور بالخصوص ایسا اسکول جس میں عورتیں پڑھانے والی ہوں، اُس کو مسجد کے احاطہ میں قائم کرنا سخت ترین فتوہ کا موجب ہے؛ لہذا اسکول خواہ کرایہ پر ہو یا بلا کرایہ اُسے مسجد کے احاطہ میں چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی۔ (فتاویٰ رجیہ ۱۹/۷۷، فتاویٰ محمودیہ ۱۷/۲۱۴-۲۱۵)

ما اجتماع قوم في بيت من بيوت الله والعدل عن المساجد إلى بيوت الله ليشمل كل ما يبنى تقريباً إلى الله تعالى من المساجد والمدارس والربط، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يمكن أن يكون المراد بالتدارس المداولة المتعارفة، والأظهر أنه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. (مرقاة المفاتيح، كتاب العلم / الفصل الأول ۱/۲۷۱ المكتبة الأشرفية ديوبند)

شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر / كتاب الوقف من الفن الثاني ۱۰۶/۲ زكريا، كذا في الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب استأجر داراً فيها أشجار ۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶/۶۴۹ زكريا)

الخلوة بالأجنبية حرام. (الدر المختار مع الشامي / فصل في البيع من كتاب الحظر والإباحة ۶/۳۶۸ دار الفكر بيروت)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶/۶۶۵ زكريا، ۴/۴۵۱ كراچی)

فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة ولم تبني لأعمال الدنيا - إلى قوله - فما كان فيه نوع عبادة وليس فيه إهانة ولا تلويث لا يكره وإلا كره.

(الحلي الكبير / فصل في أحكام المساجد ۶۱۰ سهيل اكيڈمی لاهور)

لأن المسجد ما بنى إلا للصلاة أو ذكر شرعي وتعليم وعلم وتعلمه وقراءة القرآن. (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر / القول في أحكام المسجد ۶۳/۴ کراچی، البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها تحت فصل ۳۴/۲ کوئٹہ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۴/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حرم مسجد میں بنے ہوئے کمروں میں اسکول چلانا؟

**سوال (۳۰۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے حرم کے علاوہ کچھ کمرے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز میں استعمال ہوتے ہیں، شیخ وقتہ نمازوں میں اُس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کمروں میں ایسا اسکول چلانا جائز ہے جس میں دنیوی تعلیم کے ساتھ کچھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اگر جواز کی کوئی شکل ہو تو تحریر فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد سے ملحق کمروں میں صرف دینی تعلیم دینا جائز ہے، عصری تعلیم دینا جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ غرض واقف کے خلاف ہے۔

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (رد المحتار / مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۳۴۳/۴ دار الفکر بیروت، ۵۲۷/۶ زکریا)

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والعدول عن المساجد إلى بيوت الله ليشمل كل ما يبنى تقريباً إلى الله تعالى من المساجد والمدارس والربط، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يمكن أن يكون المراد بالتدارس المدارس المتعارفة، والأظهر أنه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم، إلا

نزلت علیہم السکینة و غشیتہم الرحمة و حفتہم الملائکة. (مراقاة المفاتیح، کتاب العلم / الفصل الأول ۲۲۲/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۲/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مدرسہ کی ٹرسٹ سوسائٹی کا مسجد کی زمین پر مدرسہ بنانا؟

**سوال (۳۰۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر گلبرگہ میں ایک بڑی جامع مسجد ہے، جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی ایک کمیٹی ہے جس کے ذمہ دار ہر تین سال پر انتخاب کے ذریعہ منتخب کئے جاتے ہیں، جس میں بلا تعین کوئی کسی بھی مسلک کا منتخب ہو سکتا ہے، اس مسجد کے تحت دوکانیں ہیں جو کرایہ پر دی جاتی ہیں، دوکانوں کو کرایہ پر لینے کے سلسلہ میں چار احباب نے کچھ رقم مسجد کو عطیہ دی تھی، کچھ مسائل کے سلسلہ میں کافی دنوں تک وہ رقم تذبذب میں رہی، اسی اثناء مسجد کمیٹی نے اس رقم سے مدرسہ قائم کرنے کی نیت سے ایک زمین خریدی، چونکہ وہ ’اِیگری کلچر لینڈ‘ تھی، جس کی رجسٹری قانوناً کمیٹی کے نام پر نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے اس سلسلہ میں ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اور وہ زمین اس ٹرسٹ کے نام پر رجسٹری کر لی گئی، اور بعد میں وہ زمین ’نان اِیگری کلچر‘ کر لی گئی، اب یہ ٹرسٹ جو مسجد کمیٹی سے الگ ہے، ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا شرعاً ان کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آیا اس اراضی پر مدرسہ قائم کرنے کے لئے اس اراضی کی قیمت خرید مسجد کو دینی پڑے گی، یا یوں ہی اس پر مدرسہ کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں چونکہ مسجد کی کمیٹی اور مدرسہ کی ٹرسٹ سوسائٹی دونوں الگ الگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے تابع نہیں ہے، اس لئے مسجد کی آمدنی سے خریدی گئی زمین کو بلا معاوضہ مدرسہ کے ٹرسٹ کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں ہے، مدرسہ کے

ٹرسٹ پر لازم ہے کہ وہ اس زمین کی قیمت مسجد کو ادا کر کے باقاعدہ اُسے خرید لے، اس کے بعد ہی اس زمین پر مدرسہ کا قیام شرعاً درست ہوگا۔

فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء. (شامي، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ۳۶۷/۴ دار الفكر بيروت، منحة الخالق على البحر الرائق / كتاب الوقف ۵۷/۵ زكريا)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسةً، ووقف عليها أو قافًا، لا يجوز له ذلك (الدر المختار) قوله: لا يجوز له ذلك: أي الصرف المذكور..... قال الخبير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى الخ. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب في نقل أقباض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴-۳۶۱-کراچی)

وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۲/۵ زكريا، ۲۱۷/۵ كوته) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۱/۱۰/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے وضو خانہ کے اوپر ہسپتال کھولنا؟

**سوال (۳۱۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے وضو خانے اور دوکانوں کے اوپر قوم مسلم کے غریب لوگوں کے لئے ہسپتال کھولنا کیسا ہے؟ اور اس ہسپتال سے مسجد کو کرایہ بھی دیا جائے گا، جواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔  
بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو جگہ مسجد کے لئے وقف ہے، اس میں مستقل طور پر

ہسپتال بنانا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ شرط واقف کے خلاف ہے، اور مسئلہ صورت میں اگر کرایہ کے طور پر بھی ہسپتال بنانے کی اجازت دی جائے گی، تو مستقبل میں اسے مسجد کی ضرورت کے وقت خالی کرنا آسان نہ ہوگا، جیسا کہ عام طور پر مشاہدہ ہے۔ بریں بناء مسئلہ صورت میں مسجد کے وضو خانہ اور دوکانوں کے اوپر کرایہ کے طور پر بھی ہسپتال نہ بنایا جائے؛ بلکہ اُس کے لئے کسی اور جگہ کا انتظام کیا جائے۔

مستفاد: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب

العمل به. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الوقف كنص الشارع، ومطلب: بيان

مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا، وکذا فی الأشباه والنظائر، کتاب الوقف / الفن

الثانی، الفوائد: ۱۰۶/۲ إدارة القرآن کراچی، تنقیح الفتاوی الحامدیة ۱۲۶/۱ المكتبة المیمینة مصر)

متولی الوقف إذا آجر داراً موقوفةً على الفقراء والمساكين أكثر من سنة

لا يجوز، وإن لم يشترط، فالمختار أن يقضي بالجواز في الضياع في ثلاث سنين

إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وفي غير الضياع يقضي بعدم الجواز إذا

زاد على السنة الواحدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وهذا شيء يختلف

باختلاف المواضع والزمان كذا في السراجية، وهو المختار للفتوى. (الفتاوى

الهندية / الباب الخامس في ولاية الوقف الخ ۴۱۹/۲)

وبالسنة يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة

بخلاف ذلك، ولهذا مما يختلف زماناً وموضعاً، وتحتة في الشامية: لأن أصل

عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب

الخوف على الوقف، فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت. (الدر المختار

مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب یراعی شرط الواقف فی إجارته ۵۰۶-۶۰۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۸/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## مدرسہ کے چندہ کے لئے مسجد میں اعلان کرنا؟

**سوال (۳۱۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید مدرسہ رحمانیہ جامع مسجد روڑکی کا چندہ کرتا ہے، اعلان اس طرح کرتا ہے کہ: ”محترم حضرات میں مدرسہ رحمانیہ جامع مسجد روڑکی سے چندہ کے لئے آیا ہوں، آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ مدرسہ ہذا میں تین سو طلبہ مع طعام و قیام زیر تعلیم ہیں، صدقہ کریں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الصدقة تروى البلاء“ صدقہ بلا مصیبت سے انسان کی اللہ رب العزت حفاظت کرتا ہے۔“ اس طرح اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مدرسہ کے

تعاون کے لئے مسجد میں چندہ کا مذکورہ اعلان کرنے کی گنجائش ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۳۷۱۵ تا ۳۷۱۶ ج ۱ بجیل)

عن عبد اللہ بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيتُه عن طيب نفسي فمبارك له فيه، ومن أعطيتُه عن مسئلة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع. (صحيح مسلم، كتاب الزكاة / باب النهي عن المسئلة ۳۳۳۱)

والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب، ولا يستل إلحافاً؛ بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال والإعطاء. (شامي، كتاب الصلاة / مطلب في الصدقة على سؤال المسجد ۶۱۳ ۴ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۰۴/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ مکان میں مسجد سے متصل لڑکیوں کا اسکول چلانا؟

**سوال (۳۱۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی جگہ جو مسجد سے بالکل متصل ہے، وہاں پر اسکول قائم کرنا اور اس کا کرایہ ادا نہ کرنا، جب کہ بجلی پانی پتائی وغیرہ کا خرچ مسجد اٹھاتی ہے، اور وہاں پر عورتوں کا پڑھانا، جوان لڑکیوں کا آنا، ساتھ ہی لڑکیوں کا مسجد میں گردش کرنا اور بوقت نماز ان کی آوازیں آنا؛ بلکہ چلتے پھرتے نظر آنا، ان حالتوں میں لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو اسکول کو ان تمام خرافات کے باوجود اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، حالاں کہ محلہ کے اکثر لوگ اس کے مخالف ہیں، کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی ملکیت والے مکان میں کرایہ ادا کئے بغیر اسکول

چلانا جائز نہیں ہے۔

وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتاً يخصصه لا يخلط بعضه ببعض؛ لأن الكل نوع حكماً يختص به؛ فإن لم يكن في بعضها شيء، فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء، رده في المستقرض منه. (تبيين الحقائق، كتاب السير / باب العشر والخراج والحزبية ۱۷۱/۴ زكريا، وكذا في البحر الرائق، كتاب السير / باب العشر والخراج والحزبية ۲۰۱-۲۰۱۵ زكريا)

اسی طرح مسجد میں عورتوں کی آمد و رفت اور نماز کے اوقات میں شور شرابہ کرنا آداب مسجد کے خلاف اور فتنہ انگیزی کا باعث ہے، اس سلسلہ کو بند کرنا ضروری ہے، جو آداب مسجد کی رعایت نہیں کرتے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۷۱/۴)

اعلم أن مبنی الشرائع على تعظیم شرائع اللہ تعالیٰ والتقرب بها إليه تعالیٰ ..... ومعظم شرائع اللہ تعالیٰ أربعة: القرآن والكعبة والنبي والصلاة .....، وأما الكعبة فكان الناس في زمن إبراهيم عليه السلام توغّلوا في بناء المعابد

والكنائس باسم روحانية الشمس وغيرها من الكواكب، وصار عندهم التوجه إلى المجرد غير المحسوس بدون هيكل يبني باسمه، يكون الحلول فيه والتلبس به تقرباً منه أمراً محالاً، تدفعه عقولهم بادی الرأي، فاستوجب أهل ذلك الزمان أن تظهر رحمة الله بهم في صورة بيت يطوفون به ويتقربون به إلى الله، فدعوا إلى البيت وتعظيمه. ثم نشأ قرنٌ بعد قرن على علم أن تعظيمه مساوق لتعظيم الله، والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله، فعند ذلك وجب حجه وأمره بتعظيمه. (حجة الله البالغة / باب تعظيم شعائر الله ٢٠٦١-٢٠٨ قديمي) و آداب المسجد ترجع إلى معان: منها: تعظيم المسجد، ..... ومنها: تنظيفه مما يستقذر ويتنفر منه، ومنها: الاحتراز عن تشويش العباد وهيشات الأسواق النخ. (حجة الله البالغة / المسلح من شعائر الله ٥٤١١-٥٤٤ قديمي) فقط واللّه تعالی اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ٢٥/٢/١٣١٦ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد کی اشیاء کرایہ پر دینا

## مسجد کی لائٹ کرایہ پر دینا؟

**سوال (۳۱۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی لائٹ کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ یا بغیر کرایہ کے کسی دوکان دار کو جو کہ مسجد کی دوکانوں میں ہے جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی لائٹ کسی گھریا غیر متعلق دوکان کو میٹر لگا کر دینا

خلاف قانون ہونے کی وجہ سے درست نہیں؛ البتہ اگر مسجد سے ملحق مسجد کی دوکان ہو تو میٹر لگا کر اُس میں مسجد کی لائٹ کی اجازت دی جاسکتی ہے، دوکان دار پر میٹر کی ریڈنگ کے مطابق ماہ بہ ماہ مسجد کو معاوضہ دینا لازم ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۷۸/۶)

متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله

من البيت إلى المسجد، كذا في قاضي خان. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب

الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم ۶۲۲/۴ زكريا، فتاوى

قاضي خان على هامش الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۴/۳ زكريا)

وإذا رأى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز إن لم يكن له قيمة، فإن كان

له أدنى قيمة لا يأخذها إلا بعد الشراء من المتولي أو القاضي أو أهل المسجد.

(البحر الرائق ۲۵۱/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۶/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے جنریٹر اور سیڑھی کو کرایہ پر دینا؟

**سوال (۳۱۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اگر یہ چیزیں استعمال کے لئے دی جائیں اور کرایہ لیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سیڑھی اور جنریٹر جیسی چیزیں جن کی مسجد کو ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی، اگر متولی یا کمیٹی مناسب سمجھے، تو ان چیزوں کو کرایہ پر دے کر مسجد کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہے۔

قال الفقيه أبو جعفر: إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف، فرأى القيم أن يواجرها ويدفعها مزارعة فما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء فعل. (خاتمه ۳۳۲/۳ زکریا)

وإنما يملك الإجارة المتولي أو القاضي. (فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۴/۶ بیروت)  
القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أن يستغل ويبيع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الفصل الثاني في الوقف على المسجد  
وتصرف القيم وغيره في حال الوقف عليه ۴۶۲/۲، الفتاوى التاتارخانية ۱۷۸/۸ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲/۱۸/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## تبلیغی جماعت سے مسجد کے برتن استعمال کرنے پر کرایہ لینا؟

**سوال (۳۱۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے برتن، لائٹ اور سچھے اور دیگر ڈیکلین، کمرہ اور کھانے پکانے کے برتن اور دیگر سامان جو یہاں پر آنے والی تبلیغی جماعت استعمال کرتی ہے، اُس کا اُن سے کرایہ لیا جائے یا پھر فی سبیل

اللہ ہو، طبیعت گھبراتی ہے، مسجد کا مال ہے، جواب عنایت فرمائیں؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** عام طور پر ہمارے علاقہ میں عرف یہ ہے کہ جن مساجد میں جماعتیں ٹھہرتی ہیں، اُن پر خرچ ہونے والی بجلی وغیرہ کو مسجد ہی کے خرچ میں داخل مانا جاتا ہے، جیسا کہ بعض مرتبہ دینی پروگرام مسجد میں ہوتے ہیں اور مسجد کی لائٹ اور پنکھے استعمال کئے جاتے ہیں اور اُس کو کوئی برائہ نہیں سمجھتا؛ لہذا ایسی صورت میں جماعت میں آنے والے لوگ اگر ضرورت کے بقدر بجلی وغیرہ یا مسجد کے برتن استعمال کریں، تو اُن سے کسی معاوضہ کے لینے کی ضرورت نہیں، اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیں تو حرج نہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱/۱۷۱ ذکر یا قدیم)

الثابت بالعرف کالثابت بالنص۔ (شامی / مطلب: فی التعامل والعرف ۵۶۶/۶)

ذکر یا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۶/۲۰۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی بجلی کا ضرورت سے زائد استعمال؟

**سوال (۳۱۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں ضرورت سے زیادہ بجلی کے بلوں سے چراغاں کرنا اس خیال سے کہ جتنی بجلی خرچ کر لو بل تو وہی آئے گا جو کم خرچ کرنے پر آتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، جس کی کسی

حالت میں اجازت نہیں ہے۔

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف،

جزء آیت: ۳۱] فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷/۶/۲۰۲۱ھ

## مسجد کی جائیداد کو اجرتِ مثل سے کم کرایہ پر دینا

**سوال (۳۱۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید جو کہ مسجد کا صدر ہے، مسجد کی جائیداد میں اپنے عزیز کو بارہ آنے کرایہ پر رکھتا ہے، جب کہ ایک روپیہ اور ایک روپیہ دس پیسے کے کرایہ دار موجود ہیں، اور درخواست لگا رکھی ہے؛ لہذا یہ چار آنہ یا ۳۵/ پیسے کا نقصان مسجد کے لئے کیسا ہے؟ صدر کا یہ عمل مسجد کے حق میں کہاں تک درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے مکان کو مثلی کرایہ پر اٹھانا چاہئے، یعنی اس مقدار پر جو اُس جیسے مکان و جائیداد کا عرف میں کرایہ ہوتا ہو، اس سے کم کرایہ نہ لیا جائے؛ لہذا مسؤلہ صورت میں زید کا مسجد کی جائیداد کو اجرتِ مثل سے کم کرایہ پر دینا شرعاً درست نہ ہوگا۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالاقفل ولو هو المستحق. (الدر المختار)  
أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في الإحارة  
الطويلة بقود ۴۰۲/۴ کراچی، ۶۰۸/۱۶ زکریا)

وإذا دفع أرض الوقف مزارعة، يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها. (الفتاوى الهندية / الباب الخامس في الوقف ۲/۲۳ زکریا، كذا في الفتاوى  
الهندية ۷۰۱۸ زکریا) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۰/۱۴۱۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

قبرستان کا کرایہ نامہ مسجد کے نام کر دینے کے بعد مسجد میں  
اُس کا کرایہ استعمال کرنا؟

**سوال (۳۱۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: سابق متولی مرحوم نے اپنا ذاتی قبرستان جو کہ مسجد سلطان شاہ والی پیرغیب مراد آباد سے ملا ہوا تھا، وہ قبرستان چوں کہ اپنی ملکیت تھی، اُس نے ایک شخص کو کرایہ پر زمین دے دی، اور کرایہ نامہ مسجد سلطان شاہ صاحب کے نام لکھ دیا۔ جب سے اس جگہ کا کرایہ مسجد وصول کر رہی ہے اور یہ زمین ان حالات میں کرایہ پر یوں دیا کہ ان دنوں میں پیرغیب کے قبرستان کو پیرغیب کے لوگ جو کہ قبرستان کے قریب میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے زور و شور کے ساتھ قبرستان کو اپنے مکانوں میں شامل کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے سابق متولی مرحوم نے یہ اپنا ذاتی قبرستان مسجد کے نام کر دیا، کیا اس کی آمد مسجد کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو اب موجودہ متولی کو کیا کرنا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب قبرستان کے مالکان نے اُس کا کرایہ نامہ مسجد کے

نام لکھ دیا، تو اُس جگہ کا کرایہ مسجد کو لینا بلاشبہ درست ہے۔

مستفاد: قال الزیلعی: ولو بلی المیت و صار تراباً جاز دفن غیرہ فی قبرہ

وزرعہ و البناء علیہ. (شمی / کتاب الجنائز ۱۳۸۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۹/۸ھ

**مسجد کی موقوفہ زمین مؤذن کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اجرت پر دینا؟**

**سوال (۳۱۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے گاؤں میں ایک پرانی مسجد ہے کسی نے اس مسجد کے لئے بہت پہلے ۲۵-۳۰ روپے لگائے

صحرائی زمین وقف کو کر دیا تھا، جس میں سے ۸-۹ روپے لگائے (۱۶۰-۱۸۰ روپے) زمین ابھی ایک

مؤذن کے قبضہ میں ہے، اور باقی زمین کس نے لی؟ کس کے قبضہ میں ہے؟ یہ معلوم نہیں، ہاں

کچھ کے بارے میں معلوم ہے کہ فلاں جگہ فلاں کے قبضہ میں ہے، جو زمین مؤذن کے قبضہ میں

ہے اس سے پہلے اُس کے باپ اور اُس سے پہلے اُس کے دادا کے قبضہ میں تھی۔ اب معلوم یہ کرنا

ہے کہ کیا اتنی زیادہ زمین کسی ایسے مؤذن کو اذان کی اجرت میں دینا اور اُس کے لئے رکھنا جو کہ



وراثتِ مؤذن بن رہا ہو جائز ہے؟ جب کہ مسجد کی حالت نہایت خراب ہے، جتنے نمازی جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، اتنے کے لئے جائے نماز بھی نہیں، باہری حصہ کا فرش پختہ نہیں ہے جہاں اونچ نیچ ہے، مسجد کا جو کام بھی ہوتا ہے، وہ الگ سے چندہ کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ امام کی تنخواہ بھی؟

(۲) مسجد کی باضابطہ کمیٹی نہیں ہے، متولی برائے نام ایک غیر ذمہ دار آدمی کو بنا دیا گیا ہے، جو صرف جمعہ کاروپہ لیتے ہیں، اور سالانہ رنگ و چونانہ وغیرہ کرواتے ہیں، پابند نماز بھی نہیں ہیں، تو کیا ایسے شخص کا متولی رہنا اور حساب و کتاب کا نہ لکھنا نہ دینا جائز ہے، اور کیا مسجد کے لئے ایسی صورت حال میں کمیٹی کا متعین ہونا ضروری ہے؟ اور ہو تو کس طرح ہو؟

(۳) اگر مؤذن سے زمین لے لی جائے تو پھر کونسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس زمین سے جو آبادی سے باہر ہے، جہاں صرف کھیتی وغیرہ ہو سکتی ہے، مسجد کے لئے آمدنی آئے اور اس کا انتظام درست رہے؟

(۴) وہ مؤذن ذاتی فقیر ہے غریب ہے، وراثتی زمین آ رہی ہے جو اذان کی اجرت میں ہے، اس سے کیسے لیا جائے؟ چوں کہ اس سے لینے میں اسے نہایت تکلیف پہنچے گی، اور دینے کو تیار نہ ہوگا؟

(۵) ایک عالم دین جو گاؤں میں معتبر مانے جاتے ہیں، اُن کا اس سلسلہ میں بولنا اور تقریروں میں کہنا کہ اتنی زیادہ زمین لینا اذان کی اجرت میں جائز نہیں ہے، آپ لوگ اس سے لے لیں اور اس سے مسجد کا انتظام درست کریں، کیسا ہے کیا جائز ہے؟ اور ترغیباً کہنا چاہئے یا نہیں؟ یا علی الاعلان کے بجائے پوشیدہ طور پر لوگوں سے کہیں، چوں کہ فقیر مؤذن کو اس سے تکلیف بھی ہوگی، اس کا اعتماد بھی اُن کے ہم نوا کے دلوں سے ختم ہوگا، جب کہ تقریباً سبھی لوگ مسائل سے ناواقف ہیں؟

(۶) مؤذن ذاتی فقیر اسی طرح دوسرے ذاتی فقیر اور ایک ذاتی فقیر مولوی جن کے پاس آمدنی بچوں کو پڑھانے سے اور دیگر طریقہ سے آتی ہے، اور سب صحت مند ہیں، ان کا گھروں گھروں پر جا کر اسی طرح عید گاہ پر لوگوں سے مانگنا جائز ہے، پھر ان کو رزکوۃ، صدقات اور فطرہ وغیرہ

دینا جائز ہے؟ اور دینے والوں کی زکوٰۃ اور فطرہ ادا ہو جائے گا؟ جو بھی شرعی حکم ہو تجھ پر فرمادیں۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی موقوفہ زمین مؤذن وغیرہ کو اجرت کے طور پر مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس طریقہ پر دینے سے آئندہ اُس کے وقف کی حیثیت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، مسجد کے ذمہ داروں پر لازم ہے کہ وہ زمین اپنے زیر انتظام لے کر اُس میں کاشت وغیرہ کرا کے آمدنی حاصل کریں، اور مؤذن کی تنخواہ مقرر کر کے اس کی ادائیگی مسجد کے فنڈ سے کی جائے؛ تا کہ مسجد کی موقوفہ زمین کی حفاظت ہو، حکم شرعی یہی ہے، اس کی تعمیل میں کسی کی خوشی یا ناخوشی کا لحاظ نہیں کرنا چاہئے، اور مسجد کا متولی ایسے ذمہ دار کو بنانا چاہئے جو دیانت و امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری، بجالاتے، اور جو زکوٰۃ و فطرہ کا مستحق نہ ہو، اس کے لئے زکوٰۃ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (تنوير الأبصار) وفي الشامي:  
قوله لا يملك: أي لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التملك  
لغيره بالبيع ونحوه. (شامي، كتاب الوقف / قبيل مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن  
۵۳۹/۶ زکریا)

ولا يملك الوقف بإجماع الفقهاء لقوله عليه السلام لعمر رضي الله  
عنه: تصدق بأصلها لا تبايع ولا تورث؛ ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف،  
وبلا ملك لا يتمكن من البيع أفاد بمنع تملكه، وتملكه منع رهنه. (البحر الرائق /  
كتاب الوقف ۳۴۲/۵ زکریا، إعلاء السنن ۲۴۳/۱۳ دار الكتب العلمية بيروت)

وإذا دفع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا  
يتغابن الناس فيها. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس الخ، مطلب لا يجوز البناء من  
غير زيادة الأجرة الخ ۴۲۳/۲)

إن المتولى عليها يوجرها ويعمرها بأجرتها ، إنما يملك الإجارة

المتولى أو القاضي . (فتح القدير / كتاب الوقف ٤١٦ / ٢٢ دار الفكر بيروت)

لو وقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن

والقيم . (البحر الرائق / كتاب الوقف ٤١٥ / ٣٥ زكريا)

وللمتولي أن يستأجر من يخدم المسجد يكتسبه، ونحو ذلك بأجر مثله

أو زيادة يتغابن فيها . (الفتاوى الهندية / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف

على المسجد وتصرف الخ ٤٦١/٢)

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . (مشكاة المصابيح ٣٢١)

ولا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر،

وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود . (شامي، كتاب الوقف / باب شروط

المتولى ٥٧٨/٦ زكريا، البحر الرائق / كتاب الوقف ٢٢٦/٥)

الصالح للنظر من لم يستل الولاية للوقف، وليس فيه فسق يعرف . (الفتاوى

الهندية، كتاب الوقف / الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف لقيم في الأوقاف لخ ٤٠٨/٢)

وإن كان عنده زائداً على قدر الحاجة وهو يساوي مائتي درهم لا يحل .

(الفتاوى الولولجية ١٧٧/١ دارالعلوم زكريا أفريقي)

غنى يحرم عليه السؤال والأخذ، ويجب عليه صدقة الفطر والأضحية،

وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلاً عن الحوائج الأصلية من غير أموال

الزكاة . (الفقه الحنفي / كتاب الزكاة ٣٦٩/١) فقط والله تعالى أعلم

كتبة: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰۱۹/۰۲/۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے مکان کو خالی کرانا ظلم نہیں؟

**سوال (۳۲۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مکان مسجد کے نام وقف ہے، جو بے انتہاء بوسیدہ اور خستہ حالت میں ہے، کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے، جب کہ مسجد کو مکان کی اشد ضرورت ہے اور کرایہ دار مکان خالی نہیں کر رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں مکان خالی کرانا ظلم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صحتِ سوال اگر مذکورہ مکان کا خالی کرانا واقعۃً مصالحِ مسجد کے مطابق ہے، تو اسے خالی کرانا ظلم نہیں ہے۔

وبہا أي بالسنة يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً. (الدر المختار، كتاب الوقف / فصل يراعي شرط الواقف في إجارته ۴۰۰/۴ كراچی، ۶/۶۰۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۹/۱ھ

## طویل مدتی کرایہ دار سے مسجد کی دوکان خالی کرانا؟

**سوال (۳۲۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اسماعیل بیگ والی مسجد پرنس روڈ مراد آباد کی دوکانوں میں سے ایک دوکان احقر کے والد مرحوم کے پاس کرایہ پر تھی، جس کا وارث احقر محمد نفیس خاں کرایہ دار ہے، متولی مسجد کا کہنا ہے کہ ہم دونوں دوکانوں کی تین دوکانیں بنائیں گے، اور جو پیسے زیادہ دے گا اُس کو دوکان کرایہ پر دیں گے، آپ دوکان خالی کر دیں، میرے والد مرحوم کے پاس یہ دوکان تقریباً ۲۸ برس سے کرایہ پر ہے؛ لہذا آپ حضرات سے ملتہم ہوں کہ شرعی اعتبار سے مجھے واضح کر دیں کہ میں کرایہ دار ہوں یا نہیں؟ میں متولی صاحب سے گزارش کر چکا ہوں کہ دوکان خستہ حالت میں ہے، میں اس کو اپنی جانب

سے تعمیر کرا لوں گا، اور مسجد سے اس کا کوئی خرچ نہ لوں گا، اور کرایہ داری کی رقم برابر ادا کرتا رہوں گا؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** یہ دوکان مسجد کی ملکیت ہے جب تک مسجد کے ذمہ دار آپ کو کرایہ دار کے طور پر اس سے انتفاع کی اجازت دیں، آپ کے لئے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، اور جب ذمہ دار ان مسجد خالی کرنے کو کہیں تو آپ پر اس جگہ کو چھوڑنا لازم ہے، طویل کرایہ داری کی وجہ سے آپ کی ملکیت اس جگہ میں نہیں آئی؛ اس لئے اپنا معاملہ منتظمین مسجد سے طے کر کے ہی دوکان سے نفع اٹھائیں اور بے جا قبضہ برقرار نہ رکھیں، اور مسجد کا مفاد پیش نظر رکھیں اور منتظمین مسجد کو بھی چاہئے کہ وہ حکمت عملی سے کام لیں اور مسجد کی خیر خواہی کو فوقیت دیں۔

إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة؛ لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة له، أو الأجرة المملوكة له لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز. (الهداية، كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة ۲۹۹/۳، ۳۱۵/۳ الأمين كتابستان دیوبند)

قال في العناية: لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة؛ لأن عقد الإجارة ينقذ ساعة فساعة على المنافع، فلو قلنا بالانتقال كان ذلك قولاً بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث.  
(فتح القدير / باب فسخ الإجارة ۱۴۵/۹ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲/۱۴۳۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں لاؤڈ اسپیکر اور اُس کا استعمال

مانک چیک کرتے وقت ”الحمد للہ“، ”سبحان اللہ“ وغیرہ کہنا؟

**سوال (۳۲۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے یہاں جب جلسہ یا اجتماع میں مسجد کا مانک چالو کرتے ہیں، تو بجائے ہیلو ہیلو کرنے یا اور کوئی جملہ ٹیٹ کا بولنے کے ”سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر“ یا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں؟ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ایسے مواقع پر ان مقدس کلمات کا بولنا بے ادبی تو نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد یا دینی جلسہ کا مانک چلاتے وقت ”سبحان اللہ“ یا

”الحمد للہ“ کہنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس جیسے کلمات جب مانک میں بولے جائیں گے تو ان کی آواز معتدل اور متوازن رہے، عرفاً یا شرعاً اس میں بے ادبی کا وہم و خیال نہیں ہوتا؛ لہذا مانک کو درست کرتے وقت ان کلمات یا قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی حرج نہ ہونا چاہئے؛ البتہ سیاسی اور دنیوی جلسوں میں مانک چلاتے وقت ان جیسے کلمات کا پڑھنا یقیناً بے ادبی کہلائے گا، اس سے احتراز لازم ہے۔

لا یقرأ جہراً عند المشتغلین بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لا یقرأ فی

الأسواق وفي موضع اللغو. (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ / الباب الرابع فی الصلاة والتسبیح

وقراءة القرآن ۳۱۶/۵)

الكلام منه ما یوجب أجراً كالتسبیح والتحمید وقراءة القرآن

والأحادیث النبویة وعلم الفقہ، وقد یأثم به إذا فعله فی مجلس الفسق وهو یعلمه

لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار  
وليشغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع  
في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ۳۱۵/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۱۱/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حدودِ مسجد میں مانگ سے اذان دینا؟

**سوال (۳۲۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ایک مسجد میں جس میں پہلے مانگ نہیں تھا، اُس وقت مسجد کی اونچی جگہ پر اذان ہوتی تھی،  
بغیر مانگ کے اُس اذان سے محلہ میں آواز نہیں جاتی تھی، تو آواز کے لئے مانگ کا انتظام کیا گیا،  
اب مانگ سے مسجد کی حد کے اندر اذان دی جاتی ہے، اس سے محلہ میں آواز جاتی ہے، تو مسجد کی حد  
کے اندر اذان دینا کیسا ہے؛ کیوں کہ لوگ مسجد کی حد کے اندر اذان دینے کو اعتراض کر رہے ہیں،  
کیا لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح ہے یا غلط؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد سے خارج کسی اونچی جگہ پر اذان دینے کا مقصد  
اذان کی آواز دور تک پہنچانا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان دینے کی صورت میں یہ مقصد ہر جگہ  
سے پورا ہو جاتا ہے، خواہ مسجد کے اندر اذان دی جائے یا باہر، اس لئے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ مسجد کے  
اندر اذان دینے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، نیز جمعہ کی اذانِ ثانی بھی بالاتفاق مسجد ہی میں  
ہوتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسری اذانوں کے لئے خارج مسجد کا حکم محض تبلیغ صوت کے  
لئے ہے؛ لہذا لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ (حسن الفتاویٰ ۲/۲۹۵، فتاویٰ محمودیہ ۱۶/۲۲۳، ۱۷/۱۰۱)

وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد، ولا يؤذن في المسجد  
كذا في قاضي خاں. والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون إسماع لجيرانه،

ویرفع صوته ولا يجهد نفسه، كذا في البحر . (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الباب الثاني في الأذان ۵۰۱، كذا في الشامي / باب الأذان ۴۸۱۲)

واعلم أن الأذان لا يكره في المسجد مطلقاً كما فهم بعضهم من بعض العبارات الفقهية وعمّموه هذا الأذان (الأذان بين يدي الخطيب) بل مقيداً بما إذا كان المقصود إعلام ناس غير حاضرين - إلى قوله - في الجلابي أنه يؤذن في المسجد أو ما في حكمه لا في البعيد منه، قال الشيخ: قوله في المسجد: صريح في عدم الكراهة الأذان في داخل المسجد. (إعلاء السنن / باب التأذين عند الخطبة ۶۹۱۸) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۷/۹۱  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا؟

**سوال (۳۲۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے بغیر کسی مجبوری کے اذان دینے میں کیا حکم ہے؟ نیز مکروہ و عدم مکروہ اور افضل اور غیر افضل کو بھی بحوالہ کتب تحریر فرمائیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اصل مقصود اذان کی آواز لوگوں تک پہنچانا ہے، پہلے یہ مقصود اُس وقت ہی حاصل ہوتا تھا جب کہ مسجد کے باہر منارہ پر کھڑے ہو کر اذان کہی جاتی تھی، اسی لئے فقہاء نے مسجد کے اندر اذان دینے کو خلاف اولیٰ قرار دیا تھا؛ لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی صورت میں مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے اب مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا خلاف مقصود نہیں ہے؛ کیوں کہ اسپیکروں کے ذریعہ اذان کی آواز دور تک پہنچ جاتی ہے، باقی اختلاف سے بچنے کے لئے مسجد سے متصل کسی کمرہ وغیرہ میں اذان کا نظم کر دیں تو بہتر ہے۔



ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم فإن لم يكن  
ثمة مكان مرتفع للأذان يؤذن في فناء المسجد، كما في الفتح. (طحطاوي على  
المراقي / كتاب الصلاة ۱۰۷ كراچی، ۱۹۷ دارالكتاب دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۵/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## دوسری منزل کے مصلیوں کو آواز پہنچانے کیلئے لاؤڈ اسپیکر لگانا؟

**سوال (۳۲۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ہماری مسجد دو منزلہ ہے، دوسری منزل پر امام صاحب کی آواز نہیں آتی ہے، مصلیان مقتدی  
کی تکبیر پر رکوع و سجود کرتے ہیں، حالات مذکورہ میں امام صاحب کے سامنے مانگ لگانا درست  
ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ضرورت کی بناء پر دوسری منزل پر اسپیکر لگانے کی شرعاً

گنجائش ہے، اس سے نماز میں فساد نہ آئے گا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۸۴۶/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۹/۸ھ

## سحر و افطار کے وقت مسجد میں سائرن بجانا؟

**سوال (۳۲۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: مساجد میں طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور سحر و افطار میں سائرن بجانا درست ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سحر و افطار کے اعلان کے لئے سائرن بجانے کی

اجازت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴۶/۱)

مگر طوع آفتاب کے لئے باقاعدہ اعلان کا ثبوت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۹/۸/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سحری میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر عورتوں کی نعت چلانا؟

**سوال (۳۲۷):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اگر کسی مسجد کا امام جو حافظ قرآن ہو اور ذمہ دار ہو، یعنی گاؤں والے اُن کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسے حافظ یا غیر حافظ قرآن کے لئے ایسا کرنا جائز ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ میں وقت سحر میں لاؤڈ اسپیکر میں پاکستان کی بالغ عورت یا لڑکی کی نعت پاک جو کیسٹ میں بھری ہوئی ہے، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر چلائے؟ حالانکہ امام صاحب وقت سحر میں وقتاً فوقتاً دینی باتیں بھی بتاتے ہوں؟

نیز سحری کے وقت مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر فلمی گانوں کے طرز پر بنائی ہوئی نعت کسی بھی نعت خواں کے لئے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** میوزک والی نعتیں اور عورتوں کی پڑھی ہوئی نظمیں سنانا

اور سننا کسی حال میں درست نہیں ہے، اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ان غیر شرعی آوازوں کو بجانا تو نہایت بے ادبی اور خسارے کی بات ہے۔

فظهر الكف عورة على المذهب، والقدمين على المعتمد، وصوتها على

الراجح (الدر المختار) قال ابن عابدين رحمه الله: قوله: على الراجح: عبارة

البحر عن الحلية: أنه الأشبه. وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده، ومقابلته ما في

النوازل: نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب، قال عليه الصلاة

والسلام: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء". فلا يحسن أن يسمعها الرجل

الخ، وفي الكافي: ولا تلبّي جهرًا؛ لأن صوتها عورة، ومشى عليه في المحيط في

باب الأذان، بحر. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة ۴۰۶/۱ كراچی)

ويرفع صوته بالأذان، والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة. (المبسوط

للسرخسي، كتاب الصلاة / باب الأذان ۲۷۷/۱ المكتبة الغفارية كوئٹہ، ۱۳۲/۱ بیروت)

قال العلامة الجصاص تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ وفيه دلالة على أن المرأة منهيّة عن رفع صوتها بالكلام بحيث

يسمع ذلك الأجنب، إذا كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها

ولذلك كره أصحابنا أذان النساء؛ لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة

منهيّة عن ذلك. (أحكام القرآن للجصاص / باب ما يجب من غض لبصر عن المحرمات ۴۶۰/۳)

واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام. (شامی کراچی ۳۹۰/۶)

وأما أذان المرأة؛ فلأنها منهيّة عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة.

(البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب الأذان ۴۵۸/۱ زكريا، وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح

/ باب الأذان ۱۹۹) فقط واللّه تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۱/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## سحر میں اعلان کیلئے مسجد میں نعت اور تقریر کی کیسٹ بجانا؟

**سوال (۳۲۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: رمضان شریف میں سحر کے وقت نیند سے بیدار کرنے کے واسطے گھنٹی اور سائرن کا استعمال

ہوتا ہے، اسی طرح سحر کے ختم پر گھنٹی اور سائرن بجاتا ہے، اس کے باوجود مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے

ذریعہ وقفہ وقفہ سے وقت کا اعلان ہوتا رہتا ہے، اسی پر بس نہیں؛ بلکہ بعض مساجد کے لاؤڈ اسپیکر

میں نعت وغیرہ کی کیسٹ بھی چلائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں مشغول حضرات کو بہت

پریشانی ہوتی ہے، اور برادرانِ وطن کو بھی یقیناً پریشانی ہوتی ہوگی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ یہ اعلانات یا کیسٹ وغیرہ چلانا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سحر و افطار کے وقت کی خبر دینے کے لئے گھنٹی اور

سائرن بجانے کی اجازت ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو مساجد سے اعلانات بھی کئے جاسکتے ہیں؛ لیکن اس وقت میں لاؤڈ اسپیکر پر نعتیں وغیرہ بجانا درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، یہ سلسلہ بند کرنا ضروری ہے، اور اعلانات میں بھی اتنی کثرت نہ کی جائے کہ سکون باقی نہ رہے۔ حضرات فقہاء نے ذکر میں بھی ایسے جہر سے ممانعت کی ہے، جو سونے والے، پڑھنے والے اور نماز میں مشغول شخص کے لئے مخل ہو۔

قال في الشامية تحت قول الدر: ويحرم فيه السؤال ..... أو شعر إلا ما

فيه ذكر، ورفع صوت بذكر (الدر المختار) أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على

استحباب الذكر الجماعة في المساجد وغيرها، إلا أن يشوش جهرهم على نائم

أو مصل أو قارئ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها،

مطلب في رفع الصوت بالذكر ۶۶۰/۱ کراچی، ۴۳۴/۲ زکریا، کذا في غمز عيون البصائر شرح الأشباه

والنظائر / القول في أحكام المسجد ۶۱/۴ رقم القاعدة: ۲۹ إدارة القرآن کراچی، مرقاة المفاتيح / باب

المساجد ومواضع الصلاة / الفصل الثاني ۱۶۱/۲ رشیدیہ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۹/۲۰۱۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**نماز جنازہ کی وجہ سے سب مسجدوں میں ایک وقت نماز کا اعلان کرنا؟**

**سوال (۳۲۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: یہاں کی مسجد میں ظہر کی نماز ہمیشہ ایک بجے ہوتی ہے، اور جمعہ ۲ بجے ہوتا ہے؛ لیکن جب

کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے اہل خانہ آ کر متولی سے یا بغیر معلوم کئے اعلان کر دیتے ہیں کہ آج نماز ظہر دو بجے ہوگی، جس مسجد سے یہ اعلان ہوتا ہے ایک نماز ظہر ہوتی ہے، دوسری مسجد جو کہ نماز ظہر ۲ بجے ہوتی ہے، میت کے اہل خانہ اور چند لوگ ہیں، تینوں مسجدوں کے نمازی جب ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد میں اول وقت نماز ظہر ہوتی ہے، اس مسجد میں دوسرے محلے اور بازاروں کے دوکان دار لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، بازار میں جو جامع مسجد ہے اُس میں نماز ظہر ۲ بجے ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے دوکان بند نہ کرنی پڑے، اس لئے دوکان کا ایک آدمی اول وقت والی مسجد میں نماز پڑھ آتا ہے، دوسرا بعد والی مسجد میں نماز پڑھ آتا ہے، جب اُن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج نماز دو بجے ہوگی، تو یہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور محلہ کے اکثر لوگوں کو بھی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ نماز کا وقت تبدیل ہو، محلہ میں کسی کا انتقال ہو یا کسی کے گھر پر عورتوں کا اجتماع دینی ہو، تو بھی اور اگر بچوں کے پولیو کے ٹیکے لگنے ہوتے ہیں، تو اس کا اعلان بھی مسجد کے لاء ڈاؤن اسپیکر سے ہوتا ہے، منع کرنے پر برامانتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مانگ سے تبلیغ نیز میت، پولیو وغیرہ کے اعلانات کے سلسلہ میں اگر واقف اور اہل خانہ کی اجازت ہو تو پھر اس طرح کے اعلانات کی گنجائش ہے، اور اگر مانگ صرف اذان اور مسجد کی ضرورت کے لئے ہو تو پھر دیگر اعلانات بلا اجرت کرنا شرعاً جائز نہیں ہیں۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا أن كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (الفتاوى

الهندية / الباب الحادي عشر، الفصل الثاني في الوقف ۲/ ۶۳۷)

علی انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

رہا نماز میں تاخیر کا مسئلہ تو جو وقت متولی و اہل خانہ نے طے و مقرر کر رکھا ہے، وہ وقت ہو جانے پر نماز میں تاخیر کرنا خصوصاً جب کہ بہت سے لوگوں کو اس سے ناگواری بھی ہوتی ہو، اور نمازی بھی کم ہو جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں نماز کو مؤخر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر تمام اہل محلہ کی رضامندی سے کسی خاص عذر کی بناء پر معمولی سی تاخیر ہو جائے تو گنجائش ہے۔

مستفاد: فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه.

(شامی، باب صفة الصلاة / مطلب في إطالة الركوع ۱۹۹/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۲/۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تیجہ اور چالیسواں کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تیجہ، دسواں، بیسواں اور چالیسواں کے موقع پر قرآن پڑھوانے اور چنے پڑھوانے کے واسطے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان عام کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ایسے بدعت والے اعمال کا

اعلان کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰۸/۱۵ قدیم زکریا)

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة، جزء آیت: ۲]

ولا ینشد ضالة في المسجد؛ فإن المساجد لم تبین لہذا. (أوجز المسالك

۳۳۵/۲، مرقاة المفاتیح ۱۹۹/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۲/۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر میت کی تدفین کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر میت کی تدفین کا اعلان کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مانک سے میت وغیرہ کے سلسلہ میں اگر

وقف کرنے والے کی اجازت اور اہل محلہ کی اجازت ہو، تو پھر اس طرح کے اعلانات کی گنجائش ہے، اور اگر مانک صرف اذان اور مسجد کی ضرورت کے لئے ہو تو پھر دیگر اعلانات بلا اجرت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد

فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (الفتاوى الهندية ۴۶۳/۲)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف / مطلب:

مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۱/۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر دنیوی اعلانات کرنا؟

**سوال (۳۳۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد میں جو اذان کے واسطے لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں، اس سے دنیوی اعلان کیا جاسکتا ہے؟ نیز مسجد میں بیسہ دے کر اعلان کرا سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مسجد کا لاؤڈ اسپیکر مسجد کی موقوفہ آمدنی سے صرف

اذان کی نیت سے خریدا تو پھر یہ لاؤڈ اسپیکر صرف اذان کے لئے وقف ہو گیا، اس مانک پر دوسرے

مقاصد کے لئے اعلان کرنا جائز نہیں ہے، اگر مسجد کا مانک اہل محلہ کے چندہ سے خریدا گیا ہو یا ایک آدمی نے مسجد کو دیا ہے تو واقف نے یا چندہ دہندگان نے عرفاً یا صراحۃً اجازت دے رکھی ہے، تو بوقتِ ضرورت پیسہ دے کر دیگر اعلانات کر سکتے ہیں، مگر ایسی صورت میں مانک کے ہارن دونوں مسجد سے باہر ہونا ضروری ہے۔ (مستفاد: مسائل امامت ۳۷۵، از: مفتی حبیب الرحمن صاحب آپ کے مسائل اور اُن کا حل ۱۴۳۲ھ، فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۷۱ جیل)

ثم السراج و البساط كذلك إلى آخر المصالح، لهذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ۳۶۷/۴ کراچی، الفتاویٰ البزازیة، كتاب الوقف / الرابع في المسجد وما يتصل به ۲۷۰/۶ زکریا، و کذا في البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۱۸/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹/۳/۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے مانک سے اجرت لے کر دنیاوی ضرورتوں کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں گرام ملک جہانگیر آباد میں مساجد سے ہر چیز اور ہر بات کا اعلان کیا جاتا ہے، مثلاً کوئی بھی سامان گاؤں میں بکنے کے لئے آتا ہے، تو تشہیر کے لئے اعلان کراتے ہیں، کسی کا بچہ گم ہو جائے، بکری گم ہو جائے، پولیو کی خوراک پلانے کے لئے کسی چیز کی دوکان گاؤں میں کھلے اُس کا اعلان، یعنی ہر چیز کا اعلان ۵ روپے لے کر مسجد کے مانک سے کیا جاتا ہے، آیا کچھ معاوضہ لے کر مسجد کے مالک سے یہ اور اس طرح کے دوسرے اعلانات کرنا جائز ہے یا ناجائز؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے مانک سے کچھ معاوضہ لے کر اعلانات کرنا مصالح مسجد کے پیش نظر جائز ہے، بشرطیکہ مانک اور اُس کا اسپیکر مسجد شرعی کی حدود سے باہر ہو۔  
(فتاویٰ محمودیہ ۲۲/۳۹۹ میرٹھ)



على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة، وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصاً. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زكريه، ۴۴۵/۴ كراچی)

الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة، قال في الخانية معزياً إلى أبي بكر البلخي: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۵/۵ كوهه)

قوله حيث وجدها: وفي المجموع أي مجامع النساء كالمساجد إلا أنه ينادي على أبواب المساجد لا فيها. (حاشية الطحطاوي على الدر / كتاب اللقطة ۵۰۱/۲ دار المعرفة بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۱۲/۱۴۳۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے مانگ سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے مانگ پر دینی اعلان کے علاوہ بکرا بکری، یا مرغی اور مرغی، یا کسی اور گمشدہ چیز کا اعلان بلا اجرت کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا مانگ دینی ضرورتوں کے لئے وقف ہوتا ہے اس پر بلا اجرت دینی اعلانات کرنا جائز نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبنْ لهذا. (مشكاة المصابيح / باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول ۶۸)  
وأما إنشاد الضالة، فالمنهي عنه رفع الصوت بذلك؛ إذ فيه الإضرار

دون غیرہ، وفيہ سوء تأذیب نسبه إلى المسجد الخ. (الکوکب الدرې، أبواب الصلاة /

باب في البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد ۳۱۹/۱ إدارة القرآن کراچی)

وأما إنشاد الضالة، فله صورتها: إحداهما: وهي أقبح وأشنع بأن يضل شيء خارج المسجد، ثم ينشده في المسجد لأجل اجتماع الناس فيه. والثانية: أن يضل في المسجد نفسه، فينشده فيه، ولهذا يجوز إذا كان من غير لغط وشغب.

(معارف السنن، أبواب لصلاة / باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد لضالة في المسجد ۳۱۳/۳ کراچی)

ويكره الإعطاء مطلقاً، وقيل: إن تخطى وإنشاد ضالة هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها، وفي الحديث: إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. (الدر المختار مع الشامى، مكروهات الصلاة / قبيل مطلب في

إنشاد الشعر ۴۳۲/۲ زكريا، ۶۶۰/۱ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۱/۲۱ھ

## مسجد کے مانگ سے بچہ گم ہو جانے کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کسی کی کوئی چیز گم ہو جانے پر جیسے جانور کا گم ہو جانا، کسی بچہ یا کسی شخص کا گم ہو جانا یا کسی

سرکاری پروگرام کا اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اذان اور دینی ضروریات کے لئے

وقف ہوتا ہے، اس سے گم شدہ چیزوں یا اپنی ضروریات کے متعلق اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ (فتاویٰ

محمودیہ ۳۹۴/۲ میرٹھ، ادجز المسائل ۲۹۸/۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۲/۱۱/۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے مانگ سے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے مانگ سے غیر مسجد کا کام لینا مثلاً گمشدہ بچوں کا اعلان، وفات کا اعلان یا اسی طرح مدرسہ و مکتب وغیرہ کی ضروریات میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ خصوصاً اس وقت جب کہ اعلان نہ کرنے کی صورت میں اختلاف و بے رغبتی کا خدشہ ہو؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر خالص مسجد کی آمدنی سے لاؤڈ اسپیکر خریدا گیا ہے، تو اذان و نماز کے علاوہ کوئی اور اعلان اجرت کے بغیر اس لاؤڈ اسپیکر پر کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر چندہ کر کے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا گیا ہے، اور چندہ دہندگان کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اس پر دیگر اعلانات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس پر حسب ضرورت ایسے اعلانات کئے جاسکتے ہیں، جو مسجد کے وقار کے خلاف نہ ہوں۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (الفتاوى الهندية ۶۳۱/۲)

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف بصلح مخصوصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۲/۲۰۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے پیسے سے خرید کر وہ مانگ سے خرید و فروخت کا اعلان کرنا؟

**سوال (۳۳۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے پیسے سے اذان دینے کے لئے مانگ خریدا گیا، مگر اس سے اذان کے بجائے کسی کی بکری کے کھونے کا اعلان کرنا، کسی کے یہاں تواضع (دعوت) کھانے کا اعلان پیسے لے کر کرنا

درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اذان دینے کے لئے مسجد میں جو مانگ خریدا گیا ہے اس کو عام اعلانات کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے؛ لیکن اگر اس مانگ کو مسجد سے باہر رکھ دیا جائے اور معاوضہ دے کر اس سے ضروری اعلانات کئے جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۰۲۲ء میرٹھ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۴۶/۱۱/۲۳ھ

## مسجد کے مانگ سے جانوروں کا اعلان کرانا؟

**سوال (۳۳۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی مانگ سے بکری، بکرا، بیل، گائے وغیرہ کا اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے مانگ سے مذکورہ اعلانات نہ کرائے جائیں، اس کے لئے خارج مسجد انتظام کرنا چاہئے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰۱۲ء میرٹھ)

ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقاً، وقيل: أن تخطي، وإنشاد ضالة (الدر المختار) هي الشيء الضائع، وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث: إذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. (شامي، كتاب الصلاة / مطلب في أفضل المساجد ۴۳۳/۲ زكريا، ۶۶۰/۱ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد کی چیزیں ذاتی استعمال میں لانا

## مسجد کی اشیاء ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۳۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی اشیاء کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنا اور مسجد میں سونا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اشیاء مسجد کو اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا درست

نہیں ہے مثلاً مسجد کا لوٹا، گھر میں لا کر استعمال کرنا یا مسجد کی موم بتی گھر میں لے آنا، تو اس طرح کا تصرف جائز نہیں ہے؛ البتہ نماز کی تیاری کے طور پر مسجد کے پانی سے وضو کرنا یا دوران نماز مسجد کا پنکھا استعمال کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور مسجد میں مستقل طور پر سونے کا معمول بنانا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر کوئی اتفاقاً سوجائے یا پردیسی مسافر ہو یا معتکف ہو، تو اُس کے لئے فقہاء نے سونے کی گنجائش دی ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۸۷/۲۲، دینی مسائل اور ان کا حل ۳۰۶)

متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله

من البيت إلى المسجد. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثاني عشر في الرباطات والحنانات

۴۶۲/۲ زكريا، فتاوى قاضي خان / باب الرجل يجعل داره مسجدًا ۲۹۴/۳ زكريا، الفتاوى التاتارية /

مسائل وقف المسجد ۱۶۹/۸ زكريا، البحر الرائق / فصل في أحكام المسجد ۴۲۰/۵ زكريا)

فإذا أراد إنسان أن يدرس الكتاب بسراج المسجد إن كان السراج

موضوعًا في المسجد للصلاة، قيل: لا بأس به، وإن كان موضوعًا في المسجد

لا للصلاة بأن فرغ القوم عن صلاتهم وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج في

المسجد، قالوا: لا بأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل ..... وفيما زاد على ثلث الليل، ليس لهم تأخير الصلاة، فلا يكون لهم حق الدرس. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجداً ۲۹۹/۳ زكريا، الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / مسائل وقف المسجد ۱۶۹/۸ إدارة القرآن كراچی، وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۰/۵ زكريا)

ولا يحتمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۱۰/۱ زكريا، البحر الرائق ۴۳۰/۵)

ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل؛ بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتج إليه للصلاة فيه (الفتاوى الهندية ۵۹۲/۴، كذا في الفتاوى التاتارخانية ۱۶۹/۸ زكريا)

ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الإعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما يشاء. (الفتاوى الهندية ۳۲۱/۵، عمدة القاري ۱۹۸/۴) فقط واللّه تعالى أعلم

الملاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۱۱/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا پرانا سامان ذاتی استعمال میں لانا؟

**سوال (۳۴۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں پر عموماً مسجد کا سامان مثلاً قالین سٹکھے الماریاں وغیرہ جب پرانے ہو جاتے ہیں، تو اُس کو تبدیل کر کے قدیم سامان تقسیم کر دیتے ہیں، یا پھر اُن کو ضائع کر دیتے ہیں، تو کیا مذکورہ سامان اگر کسی کو ملے تو وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟

بِسْمِ سُبْحَانَ تَعَالَى

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا مذکورہ سامان مفت میں لینا درست نہیں ہے،

اگر لینا ہو تو مناسب قیمت دے کر لیا جائے۔

هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن  
ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم. (شامی ۵۰۰/۶ زکریا)  
ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل. (الفتاویٰ الہندیة / الباب الخلس من  
الکراہیة ۱۹/۲ ۴۱ زکریا)

وكذا لو اشترى حشيشًا أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء عنه، كان  
ذلك له إن كان حيًا، ولورثته إن كان ميتًا، وعند أبي يوسف: يباع ذلك،  
ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد  
۴۲۳/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۲۳ھ

## مسجد کی چھت کا ٹین اپنے ذاتی استعمال میں لانا؟

**سوال (۳۴۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: مسجد کی چھت کی ٹین کی چادریں اپنے استعمال لانا اور اُس کی قیمت بھی مسجد میں نہ دینا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا جو سامان مسجد کے لئے وقف ہے، اُس کو اپنے  
ذاتی کام میں استعمال کرنا یا اُس کو بیچنا ناجائز ہے، مذکورہ اشیاء کو اگر کوئی اپنے استعمال میں لا رہا  
ہے، اور وہ چیز صحیح سالم اور قابل انتفاع ہو، تو اُس کو مسجد میں واپس لانا ضروری ہے، ورنہ اُس کی قیمت  
کا ضمان لازم ہوگا۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۶/۱-۱۳۶/۱۰، حسن الفتاویٰ ۶/۲۵، امداد المفتین ۸۰، عزیز الفتاویٰ ۵۹۶)  
قال في الہندیة: رد الغلۃ معها إن كانت قائمة بعینہا وان كانت مستهلكة

ضمن مثلها، كذا في الذخيرة. (الفتاویٰ الہندیة / الباب التاسع في غضب الوقف ۴۴۹/۲)

ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة /

الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۱۰/۱ زكريا، البحر الرائق ۴۳۰/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۱۸ھ

## مسجد کی صندلی کا بغیر اجرت کے ذاتی استعمال میں لانا؟

**سوال (۳۴۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مسجد کا سامان مثلاً صندلی جس پر کھڑے ہو کر صفائی، پوتائی، رنگائی وغیرہ کرتے ہیں، اُس کو مسجد

کے ذمہ دار حضرات اور اہل محلہ بھی لے جا کر بغیر اجرت استعمال کرتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** جو استعمالی چیز مسجد کی موقوفہ آمدنی سے خریدی گئی ہے،

اُس کو اہل محلہ بلا اجرت استعمال نہیں کر سکتے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۱۵)

ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة /

الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۱۰/۱ زكريا، البحر الرائق ۴۳۰/۵)

وفي الإسعاف: وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى

بيته. (البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۴۲۰/۵ زكريا، الفتاوى التاتارخانية / مسائل وقف

الأستجار ۸۵۱/۵ إدارة القرآن كراچی)

یہی حکم ٹھنڈے اور گرم پانی کا بھی ہے، ہاں اگر مسجد کی رقم سے الگ انفرادی یا اجتماعی طور پر

ٹھنڈے یا گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اسے صراحتاً یا عرفاً سب اہل محلہ کو استعمال کی اجازت

دی جاتی ہے، تو محلہ والے بھی اُسے استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه،

وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحلة لسليم رستم باز ۶۱/۱ رقم المادة: ۹۶ مکتبہ اتحاد دیوبند،



الأشباه والنظائر، كتاب الغصب / الفن الثاني، الفوائد: ۴۴۴/۲ رقم القاعدة: ۱۷۱۲ زكريا، وكذا في الدر المختار / كتاب الغصب ۲۰۰/۶ دار الفكر بيروت)

الخامس في حكمها، فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل، ومنه أن لا يوكل إلا بإذن أو تعميم، ومنه أنه أمين فيما في يده. (البحر الرائق / كتاب الوكالة ۲۳۸/۷ زكريا)

بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع. ولو كان العرف في ذلك الموضوع أن الإمام والمؤذن يأخذاه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۱۹/۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۳/۱۹۱۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی ٹنکی کا پانی گھر لے جانا؟

**سوال (۳۴۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے احاطہ میں مسجد کی ضروریات کے لئے ایک پانی کا بورنگ ہوا ہے، جس پر بجلی کا موٹر رکھا ہوا ہے، اس سے پانی کی ٹنکی بھری جاتی ہے، وضو کے لئے جوئل لگے ہوئے ہیں، اُن میں سے لوگ پانی بھر کر اپنی ضروریات کے لئے اپنے گھر لے جاتے ہیں (اکثر لوگ پینے کے لئے) اور بہت سے لوگ تو موٹر چلا کر ہی اس میں لگے ہوئے ٹل سے تازہ پانی بھرتے ہیں، جب کہ موٹر کی بجلی کا خرچ مسجد کے ذمہ ہے تو کیا مسجد کی ٹنکی کا پانی اپنے گھر میں لے جا کر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ٹنکی کا پانی مسجد کے لئے مخصوص ہے؛ لہذا صورت مسئلہ میں ٹنکی کا پانی اپنے گھر لے جانا کہ جس کے بھرنے کے لئے مسجد کی بجلی خرچ ہوئی ہو،

درست نہیں، مسجد کے موٹر کا پانی صرف نمازیوں کی ضرورت کے لئے استعمال ہونا چاہئے۔  
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۸/۱۷، فتاویٰ رحمیہ ۶/۹۰، احسن الفتاویٰ ۶/۴۷۷)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (رد المحتار/مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ۳۴۳/۴ دار الفکر بیروت، ۵۲۷/۶ زکریا)

لا يجوز الوضوء من الحيض المعدة للشرب في الصحيح، ويمنع من الوضوء منه، وفيه: وحمله لأهله إن مأذوناً به جاز، وإلا لا. (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة / فصل في البيع ۴۲۷/۶ كراچی، البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۷/۵ زکریا)  
كذا يستفاد من هذه، ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى

الهندية، كتاب الصلاة / الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۱۰/۱ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۴/۵/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی ٹنکی سے غسل کرنا؟

**سوال (۳۴۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) مسجد میں پانی کی ٹنکی میں بجلی کے ٹل کے ذریعہ برائے وضو و غسل پانی جمع کیا جاتا ہے، کسی مقیم کو اس پانی سے غسل و کپڑے دھونا جائز ہے یا نہیں؟  
(۲) مسافر کو جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱-۲) اگر نماز پڑھنے کی غرض سے کوئی شخص خواہ مسافر ہو یا مقیم، مسجد کے پانی سے کپڑے یا بدن کی طہارت حاصل کرے، تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؛ اس لئے کہ یہ پانی اسی مقصد کے لئے وقف کیا گیا ہے کہ نمازی لوگ اس سے طہارت حاصل

کریں، ہاں اگر کوئی شخص بلاوجہ مسجد کا پانی اپنے ذاتی استعمال میں لائے، تو یہ جائز نہ ہوگا۔

لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها

لغير ذلك. (شامي / مطلب: في الإسراف في الوضوء ۱۳۳/۱ کراچی، ۲۵۹/۱ زکریا)

ولا بأس أن يشرب من الحوض والبئر ويسقي دابته ويتوضأ منه. (البحر

الرائق، کتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۲۷/۵ ۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۳/۳/۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے جزئیٹ اور ٹنکی کا پانی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۴۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کا سامان مثلاً جزئیٹ، ٹنکی کا پانی اور سیڑھی وغیرہ کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت یعنی شادی یا

دوسری تقریبات میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کرایہ دے کر استعمال کرے تو کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے جزئیٹ اور ٹنکی کے پانی وغیرہ کو اپنے ذاتی

اُمور میں صرف کرنا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر مسجد میں کوئی سامان کرایہ پر چلا کر آمدنی کے لئے

خریدا گیا ہے، تو اُس کا کرایہ ادا کر کے استعمال درست ہوگا، جیسا کہ علاقوں میں برتن اور دیگیں

وغیرہ مسجد کے حجرہ میں رکھ کر اُن کے کرایہ سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔

القیم إذا اشتری من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أن يستغل ویباع عند

الحاجة، جاز إن كان له ولاية الشراء، وإذا جاز له أن یببعه، کذا فی السراجیة

..... الفاضل من وقف المسجد هل یصرف إلى الفقراء؟ قیل: لا یصرف، وإنه

صحیح، ولكن یشتری به مستغلاً للمسجد. (الفتاویٰ الہندیة، کتاب الوقف / الفصل

الثانی فی الوقف علی المسجد وتصرف القیم وغیرہ فی حال الواقف علیہ ۶۲۲-۴۶۳-۴ زکریا، الفتاویٰ

التاتاریخانیة، کتاب الوقف / الفصل الحادی والعشرون فی المساجد ۵۸۴/۵ إدارة القرآن کراچی)

و متولسى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (الفتاوى

الهندية ٤٦٢/٢ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتابتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے پانی اور استنجاء خانے کو بے جا استعمال سے بچانے کے لئے دروازہ بند کرنا؟

**سوال (۳۴۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد جو کہ بیچ بازار میں ہے، اس کا ایک عام راستہ اندر جانے کا ہے، جس سے نمازی بھی داخل ہوتے ہیں اور بے نمازی؛ بلکہ عام پبلک کے لوگ خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم حتیٰ کہ بھنگی بھی اندر گھس کر نل سے پانی پیتے ہے، عورتیں بھی گھس آتی ہیں، سبھی لوگ پانی پینے، بھر کر لے جانے اور پیشاب کرنے کے چکر میں ہر وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جس کی بنا پر بارہا نل خراب ہو چکا ہے، اور پیشاب خانہ سے بدبو پھیلتی ہے؛ بلکہ بعض غیر مسلم پیشاب خانہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور باوجود منع کرنے کے نہیں مانتے ہیں، نیز پیشاب خانہ میں پاخانہ بھی کر جاتے ہیں، مذکورہ وجوہات کی بنا پر چھت کے حصہ میں بعد مشورہ ایک راستہ نکال دیا گیا ہے، جس کا ایک گوشہ مسجد کے صحن کی فضا میں پڑتا ہے؛ تاکہ بعد فراغ نماز عام راستہ میں تالا ڈال دیا جائے، اور جن صاحب کو نماز وغیرہ پڑھنا ہو وہ اوپر بنائے گئے خاص راستہ سے اندر داخل ہو کر نماز وغیرہ پڑھیں، مذکورہ نظام بنانے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے، جس کی بنا پر بعض لوگوں نے مسجد ہذا کو مسجد یزید کا خطاب دے دیا، جب کہ ایک نل مسجد کے سامنے نگر پالی کا کی طرف سے لگا ہوا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو راستہ خاص اوپر سے مسجد میں آنے کے لئے کھولا گیا ہے، کیا وہ درست نہیں ہے؟ اور عام گیٹ مستقل کھولنے سے مسجد کا نقصان نہیں ہے، کیا مذکورہ صورت حال

میں تمام گیٹ عام حالات میں بند رکھنے کی مقتضی نہیں ہے؟ برائے مہربانی مسئلہ ہذا کو مع دلائل واضح فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** مسجد میں پانی کا ٹل ٹنکی یا استنجاء خانہ کی سہولت عام لوگوں کے لئے نہیں ہوتی؛ بلکہ صرف نمازیوں کے لئے ہوتی ہے؛ لہذا نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد کے دروازہ کو مطلقاً بند رکھنا بھی درست ہے؛ تاکہ غیر متعلق لوگوں کی وہاں آمد و رفت نہ ہو سکے، اور مسجد کو بدبو وغیرہ سے بچایا جاسکے، اور ضرورتاً عام دروازہ کو بند کر کے اوپر کی جانب سے خاص راستہ بنانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ مسئلہ صورت میں ایسا کرنا بہتر اور مصلحت کے عین مطابق ہے؛ اس لئے سوال میں مذکور مسجد کے لئے جو صورت اپنائی گئی ہے اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، اس پر اعتراض بے جا ہے۔

كما كره غلق باب المسجد إلا لخوف على متاعه به يفتى. (الدر المختار) هذا أولى من التقييد بزماننا؛ لأن الممدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح. (الدر المختار مع الشامى / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٤٢٨/٢ زكريا، كذا في البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٤٢١/١ دار الفكر بيروت) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۶/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

مسجد کے چراغ کو درست کرتے وقت انگلی پر لگے تیل کو استعمال کرنا؟

**سوال (۳۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: دیہات کی مساجد کے اندر بجلی نہ ہونے کی صورت میں سرسوں کے تیل سے چراغ جلائے

جاتے ہیں، جب چراغ کو درست کرتے ہیں تو چراغ کا تیل ہاتھوں میں لگ جاتا ہے، اب اگر ہاتھوں کو پانی دھوتے ہیں تو وہ تیل ضائع ہوتا ہے اور اگر اس کو اپنے سر وغیرہ میں لگاتے ہیں تو وہ تیل مسجد کا ہے، کچھ اپنے سر وغیرہ میں لگاتے ہیں، تو وہ تیل مسجد کا ہونے کی وجہ سے دوسرے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے سر وغیرہ میں لگانا درست نہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** چراغ درست کرتے وقت جو تیل انگلیوں کو لگ جاتا ہے وہ بہت معمولی ہوتا ہے، اور عموماً اُس کو درست کرنے والے کے لئے اپنے سر سے صاف کرنے کی صراحت نہ سہی دلالت واقف اور دینے والے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے؛ لہذا انگلیوں پر لگے تیل کو سر میں صاف کرنے اور پوچھنے کی شرعاً گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۴۷۱/۲، امداد المفتین ۷۸۱)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ..... وبين قدره يصرف إليه إن كان فقيراً، وإن كان غنياً لا يحل. (الفتاوى الهندية ۶۳/۲، كذا في الشامى / الفصل الثاني في الواقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الواقف عليه ۱۶ زكريا)

ولو كان العرف في ذلك الموضوع أن الإمام والمؤذن يأخذ من غير صريح الإذن في ذلك، فله ذلك. (البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۱۹۱۵ زكريا)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۳/۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**شہید کی ہوئی مسجد کے ملبہ کا بلا معاوضہ استعمال کرنا؟**

**سوال (۳۲۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: شہید کی ہوئی مسجد کا جو ملبہ ہے، مثلاً اینٹ مٹی وغیرہ، اُسے عام آدمی کا بلا معاوضہ مکان

وغیرہ میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ ملبہ اٹھوانے میں بھی مسجد کی رقم خرچ ہوتی ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر اُس مسجد کے ملبہ کی معمولی قیمت بھی ہو، تو اس کا کسی کے لئے بلا معاوضہ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے؛ لہذا صورتِ مسئلہ میں مذکورہ مسجد کا ملبہ معاوضہ دے کر ہی استعمال میں لانا چاہئے۔

وإذ أراى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز إن لم يكن له قيمة، فإن كان له أدنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولي أو القاضي أو أهل المسجد. (البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۴۲۰/۵) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۱۲/۱۴۲۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی چیزیں محلہ والوں کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں

**سوال (۳۴۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی چیزیں جیسے بیڑھی، جنیٹر، ٹینکی کا پانی وغیرہ اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ مسجد کی کمیٹی کی اجازت ہو؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد سے غیر متعلق لوگوں کے لئے مسجد کی مذکورہ چیزیں ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر کوئی شخص مسجد سے متعلق ہو، مثلاً امام یا مؤذن تو وہ کمیٹی کی اجازت سے مسجد کی اشیاء کو استعمال کر سکتا ہے۔ (احسن الفتاویٰ ۶/۲۵۷، فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۶۲۳، ۱۵/بھیل)

للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة. (شامی / مطلب: في نقل أفضاض

ولا يحتمل الرجل سراج المسجد إلى بيته، ويحتمل من بيته إلى المسجد.  
 (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة / الباب السابع فيما يفسد لصلاة وما يكره فيها ۱۱۰/۱ زكريا، البحر الرائق  
 ۴۳۰/۵، الفتاوى التاتارخانية / مسائل وقف المساجد ۸۵۱/۵ إدارة القرآن كراچی، خانیه علی الهندیة /  
 باب الرجل يجعل داره مسجداً ۲۹۴/۳)

لو كان العرف في ذلك الموضوع أن الإمام والمؤذن يأخذاه من غير  
 صريح الإذن من ذلك فله ذلك. (البحر الرائق ۲۵۰/۵ كوثه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
 املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۲/۱۴۳۱ھ  
 الجواب صحیح:۔ شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے حجرے میں تجارت کا سامان رکھنا؟

**سوال (۳۵۰):**۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: ایک مسجد کے امام صاحب، اسی طرح ایک شہری آدمی کا روبرو کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار کا  
 سامان بلا اجازت متولی مسجد کے کمرے میں رکھتے ہیں، جب کہ امام صاحب کے رہنے کے لئے  
 الگ سے مکان دے رکھا ہے، تو کیا اُن کا یہ فعل درست ہے؟ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرمائیں؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر امام صاحب کو مسجد کی طرف سے کوئی کمرہ ملا ہوا ہے  
 تو وہ اپنے کمرہ میں اپنا جو چاہے سامان رکھ سکتے ہیں، اس میں متولی سے اجازت کی ضرورت نہیں  
 ہے؛ لیکن اس کے علاوہ مسجد کے کسی اور کمرہ میں بلا اجازت سامان تجارت رکھنا جائز نہ ہوگا۔

لو سكن بلا إذن أو أسكنه المتولي (الدر المختار) أي أسكن فيه غيره إلا  
 إذا كان موقوفاً للسكنى وانحصرت فيه، فإن له إعارته، ولو سكنه المتولي  
 بنفسه؛ ولم يكن للسكنى، فإنه يلزمه أجر المثل. (الدر المختار مع الشامى ۶۱۵/۶ زكريا)  
 فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز، كان خائناً يستحق العزل. (البحر



کتابتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۴/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر ضروری سامان بیچ کر مسجد کی ضروریات میں لگانا؟

**سوال (۳۵۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کا پرانا سامان جس کے استعمال کی ضرورت مسجد میں نہ ہو، مثلاً دروازہ، کھڑکی، دھنی اور پرانی ایٹیشیں وغیرہ، تو یہ سامان فروخت کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جب کہ فروخت کر کے مسجد ہی میں لگانے کا ارادہ ہو۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** غیر ضروری سامان بیچ کر مسجد کی دیگر ضروریات پوری

کرنا درست ہے۔ (کفایت المفتی ۶۱۷، فتاویٰ محمودیہ ۲/۲۱۲)

و صرف الحاکم أو المتولي أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه، ويمسك ثمنه ليحتاج.

(الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته ۳۷۶/۴-۳۷۷ کراچی)

وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع و صرف ثمنه إلى المرممة صرفاً

للبديل إلى مصرف المبدل. (الهداية / کتاب الوقف ۶۲۰/۲، شامی / مطلب في نقل أنقاض

المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ کراچی، ۵۵۰/۶ زکریا)

وفي الحاوي: فإن خيف هلاك النقص، باعه الحاکم، وأمسك ثمنه

لعمارته عند الحاجة، فعلى هذا يباع النقص في موضعين: عند تعذر عوده، وعند

خوف هلاكه. (البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۶۸/۵ زکریا)

و أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا

الشرط؛ لأن في صيرورته وقفًا خلافاً، والمختار أنه لا يكون وقفًا، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد

أو غيره ۳۷۷/۴ کراچی، فتح القدير / كتاب الوقف ۲۲۴/۶-۲۲۵ مصطفی البابی الحلبي مصر)

و یصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه للاحتياج ..... وإلا یمسكه حتى یحتاج إليه ..... وإن تعذر إعادة عينه بیع، و صرف ثمنه إلى العمارة؛ لأن البدل یقوم مقام المبدل فیصرف مصرف البدل. (تبیین الحقائق / كتاب الوقف ۳۶۷/۴ دار الکتب العلمیة بیروت، ۲۶۷/۴ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۲/۱ھ

## مسجد کی زمین کا کوئی حصہ کسی کے ذاتی مفاد کے لئے چھوڑنا؟

**سوال (۳۵۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جو پہلے سے بنی ہے اور اس کے آگے صحن کے لئے آدھی زمین ہے، اور آدھی دوسرے کی زمین تھی، اب انہوں نے مسجد کے لئے بیچ دی، اس کا راستہ پورب اور دکھن کی جانب ہے، اتر کی جانب راستہ کی ضرورت نہیں ہے؛ لیکن پڑوس میں جو آدمی رہتے ہیں ان کی بیٹھک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اتر میں بھی راستہ کھلے اور مسجد کی جگہ کو آٹھ فٹ چھوڑ کر دیوار چنوا دی جائے، اس لئے کہ ان کی بیٹھک کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے، ویسے فی الحال اس طرف راستے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود مسجد کی کمیٹی راستہ کھولنے کو تیار ہے؛ لیکن ان کا کہنا ہے کہ راستہ بھی نکالو اور آٹھ فٹ جگہ بھی چھوڑو، تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر بتائیں کہ ان کے کہنے کے مطابق ۸ فٹ جگہ چھوڑنا درست ہے یا نہیں؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی خرید کردہ جگہ میں سے ۸ فٹ کے بقدر جگہ

چھوڑنے کا کسی کو مطالبہ کا حق نہیں ہے، یہ جگہ موقوفہ ہے یہ کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔  
 أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (الدر المختار ۳۵۸/۴ کراچی،  
 ۵۴۸/۶ زکریا)

ہاں اگر دروازہ کھولنے کی ضرورت ہو تو منتظمین اس طرف دروازہ کھول سکتے ہیں۔

روى مالك عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد يضيق عن أهله، قال: وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شاعة في المسجد. كذا في وفاء الوفاء ۳۶۶/۱. وروى ابن النجار عن أهل السير نحوه أن الحجرات كانت خارجة من المسجد مدبرة به إلا من المغرب، وكانت أبوابها شرعة في المسجد. (كذا في وفاء الوفاء أيضاً ۳۲۵/۱. قلت: ولم يختلف إثنان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من حجراته إلى المسجد. (إعلاء السنن، كتاب وقف الأرض وجعلها مسجداً/ باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب رقم: ۲۵۲/۱۳ ۴۶۷۶ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۱/۲ھ



# ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

ایک مسجد کا غیر ضروری سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا؟

**سوال (۳۵۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کا سامان جو زائد ہے، استعمال میں بالکل آتا ہی نہیں، اُس کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا جہاں ضرورت ہو جائز ہے یا نہیں؟ جیسے مٹی کا لوٹا وغیرہ۔

**نوٹ:** - ایسی مسجد میں امامت کرنی چاہئے یا نہیں؟ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی

میں کتب معتبرہ کے حوالہ سے جواب تحریر فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر ایسا زائد سامان ہے کہ موجودہ یا آئندہ اُس کے

استعمال کا موقع ہی نہیں ہے اور رکھے رکھے اُس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اُسے دوسری مسجد میں دیا جاسکتا ہے۔

ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو

حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أو قافه

إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم. (رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب

المسجد أو غيره ۳۵۹/۴ كراچی، فتح القدير، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۲۳۷/۶

ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة، فللقاضي صرف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه، وإن علم يصرفها هو بنفسه. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۴/۵ زكريا، فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / فصل في المقابر والرباطات ۳۱۵/۳ زكريا)

**نوٹ:-** ایسی مسجد میں امامت ممنوع نہیں: البتہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۳/۱۹۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں بغیر اجازت استعمال کرنا؟

**سوال (۳۵۴):-** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کسی مسجد کی اینٹ، سر یا اور تعمیر کام میں آنے والا دیگر سامان اس مسجد کے علاوہ دوسری جگہ بغیر اجازت استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے؛

البتہ اگر یہ سامان اس مسجد کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو منقطعہ کمیٹی کی اجازت سے دوسری ضرورت مند مسجد میں لگانے کی گنجائش ہوگی۔

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصصه، ولا يخلط بعضه ببعض،

وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانه، وليس فيها ما يفتى به يستقرض من خزانه غيرها،

ثم إذا جعل التي استقرض بها مال يؤدي إلى المستقرض. (شامي ۵۷/۲ کراچی)

يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: فيما لو خرب

وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك .

(فتاویٰ قاضی خان ۲۸۸/۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۴/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ایک مسجد کی زائد درمی دوسری مسجد میں لے جانا؟

**سوال (۳۵۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد جس میں دریاں وغیرہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسری مسجد محتاج ہے، تو کیا ایک مسجد کی درمی وغیرہ دوسری مسجد میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر مسجد میں زائد دریاں موجود ہیں، تو بغیر واقف کی

اجازت کے دوسری مسجد میں لگانا اصولاً جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ واقف کی غرض کے خلاف ہے؛ لیکن اگر اُس مسجد میں رکھے رکھے دریوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو اُسے دوسری مسجد میں جہاں ضرورت ہو؛ دے سکتے ہیں۔

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: الفتویٰ علی أن المسجد لا يعود میراثاً

ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (رد المحتار، کتاب الوقف / مطلب فیما لو

حرب المسجد أو غیرہ ۳۵۹/۴ کراچی)

وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود میراثاً، ولا

يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتویٰ،

كذا في الحاوي القدسي. وفي المجتبى: وأكثر المشايخ علی قول أبي يوسف،

ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه. (البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل في

مراجعة غرض الواقفين واجبة. (شامي ۵۴۹/۶ زكريا، ۴۲۳/۳ نعمانية)

شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمخالفة النص. (الأشباه والنظائر ۱۹۲)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم لمخالفة

۴۳۳/۴-۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد:

۱۰۶/۲ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۰/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ضرورت سے زائد موقوفہ قرآنوں کا فروخت کرنا؟

**سوال (۳۵۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہماری مسجد میں بہت قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کا نمبر سالوں تک

پڑھنے کا نہیں آتا، کیا ایسی شکل میں متولی مسجد فاضل قرآن کو فروخت کر کے مسجد کے دیگر مصارف

میں لگا سکتا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد پر وقف قرآن کریم کو بیچنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ

انہیں کسی دوسری مسجد میں منتقل کر دیا جائے، جہاں ضرورت ہو۔

وقف مصحفاً علی أهل مسجد للقراءة إن یحصون جاز، وإن وقف علی

المسجد جاز، ویقرأ فیہ، ولا یكون محصوراً علی هذا المسجد، وبہ عرف

حکم نقل کتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها، والفقهاء بذلک مبتلون، فإن

وقفها علی مستحقی وقفہ، لم یجز نقلها. (الدر المختار / کتاب الوقف ۳۶۵/۴ کراچی)

وإن وقف علی المسجد جاز ویقرأ فی ذلك المسجد، وفي موضع آخر

ولا يكون مقصوراً على هذا المسجد. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۳۸/۵ زكريا) فقط  
والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۴۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کا سامان اجتماعات میں لے جانا؟

**سوال (۳۵۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی بجلی کا موٹر، بالٹیاں، شامیانہ اور صفیں مسجد سے دور لے جا کر اجتماع گاہ کے سستے ہوٹل میں مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لئے لے گئے، اور پھر یہ تمام چیزیں مسجد ہی میں لا کر رکھ دیں، جب کہ مسجد کی صفیں ٹوٹ گئیں، اس نقصان کی وجہ سے نئی صف مسجد کو خرید کر دے دی گئی، تو ایسا کرنا جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے کسی بھی سامان کو اجتماعات وغیرہ میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، صورتِ مسئلہ میں مسجد کا جو نقصان ہوا ہو، اُس کی پوری تلافی کرنا ضروری ہے، محض ایک صف دینا کافی نہیں۔

ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجدٍ آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى. (شامی / مطلب فيما لو حُرِب المسجد أو غيره ۳۵۸/۴ کراچی، ۴۸۱/۶ زکریا، کنا فی البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل فی أحكام المساجد ۴۲۱/۵ زکریا، خلاصة الفتاوى / الفصل الرابع فی المسجد ۴۲۴/۴ سہیل اکیڈمی لاہور، الفتاوى التاتارخانية / مسائل وقف المساجد ۸۴۶/۵ إدارة القرآن کراچی)

لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل. (الأشباه والنظائر ۳۰۵/۱) فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ



## مسجد کی صفوف اور لوٹے عید گاہ میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۵۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سبھی نمازی اور عوام اتفاق کر لیں کہ مسجد کی صف اور لوٹا وغیرہ نماز عیدین کے لئے عید گاہ میں استعمال کیا جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ مسجد کے امام صاحب آداب المساجد مؤلفہ مفتی محمد شفیع صاحب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں درست نہیں؛ لیکن وکیل صاحب کہتے ہیں کہ صفوف مسجد اور لوٹا وغیرہ نماز اور نمازی کے لئے ہیں، اور یہی کام عید گاہ میں ہوتا ہے؛ اس لئے کوئی حرج اور خرابی نہیں، رہا ”آداب المساجد“ کا حوالہ تو اس میں ممانعت کی کوئی وجہ مذکور نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** ”آداب المساجد“ میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ درست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ واقف نے ان اشیاء کو صرف مسجد کے لئے ہی وقف کیا ہے، دوسری جگہ کے لئے نہیں؛ لہذا غرض واقف کے خلاف عید گاہ میں ان کا استعمال درست نہ ہوگا، اور وکیل صاحب کا یہ استدلال غلط ہے کہ دونوں جگہ کام ایک ہی ہوتا ہے؛ اس لئے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ استعمال کر لی جائے؛ کیوں کہ اگر وکیل صاحب کی بات صحیح مان لی جائے تو کسی بھی مسجد کا سامان محفوظ نہ رہے گا، اور ایک مسجد والے دوسری مسجد کا سامان اٹھالے جائیں گے اور کہیں گے کہ دونوں جگہ نمازی ہیں اور دونوں جگہ عبادت ہی کا کام ہوتا ہے، ہاں اگر واقفین نے وقف کرتے وقت صراحتاً یا دلالتاً یہ نیت کی ہو کہ یہ اشیاء عید گاہ میں بھی استعمال کی جائیں گی، تو پھر وہ چیزیں مسجد اور عید گاہ دونوں جگہ استعمال کی جاسکتی ہیں۔

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية. (رد المحتار / مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم

تخالف الشرع ۳۴۳/۴ دار الفکر بیروت، ۵۲۷/۶ زکریا)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن

المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني ۴۶۳/۲ زكريا، وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف / الفصل الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله ۴۲۶/۴ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹/۲/۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجدوں کے موقوفہ تالاب کی آمدنی عید گاہ پر خرچ کرنا؟

**سوال (۳۵۹):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں دو مسجدیں اور ایک عید گاہ ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں کا تالاب ہے، اُن لوگوں نے وہ تالاب مسجد میں دے دیا کہ دونوں مسجدوں کی جانب سے مچھلیاں ڈلوادو اور آمدنی دونوں مسجدوں میں لگا دو۔ صورت یہ ہوئی کہ دونوں مسجدوں کے بعض ذمہ داروں نے پیٹھ کر تالاب والوں سے تالاب مسجد کے نام لکھوا کر ٹھیکہ پراٹھا دیا اور ٹھیکہ داروں نے پیسہ بھی ادا کر دیا، اب گاؤں کے کچھ لوگ اور کچھ تالاب والوں کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ عید گاہ میں ضرورت زیادہ ہے؛ لہذا وہ تالاب عید گاہ کے نام کر کے آمدنی عید گاہ کی تعمیر وغیرہ میں لگا دی جائے، کیا مسجد کے نام لکھ دینے کے بعد اب عید گاہ کو وہ تالاب دیا جاسکتا ہے؟ جب کہ سب تالاب والے بھی راضی ہو گئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حسب تحریر سوال جب کہ مذکورہ تالاب گاؤں کی دو مسجدوں کے نام وقف کر دیا گیا ہے، تو اب اُس کو عید گاہ کی طرف منتقل کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے، اس تالاب کی آمدنی صرف مذکورہ مسجدوں ہی پر خرچ کرنی لازم ہے۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يوهن. (الدرالمختار، كتاب الوقف / قبيل:

مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله: موقوفة، وقوله: فموقوفة على فلان ۳۵۱/۴ كراچی، ۵۳۹/۶ زكريا)

اتحد الواقف والجهة جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه، وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسةً ووقف عليهما أوقافًا لا يجوز له ذلك، أي الصرف المذكور. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف / مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۴ كراچي، البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۶/۵ كوثه، مجمع الأنهر / كتاب الوقف ۵۹۶/۲ دار الكتب العلمية بيروت)

بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع. ولو كان العرف في ذلك الموضوع أن الإمام والمؤذن يأخذاه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك.

(البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۱۹/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۱۱/۲۹ھ

## ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۶۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گاؤں والوں نے مل کر ایک خاص مسجد کے لئے چندہ کیا، اسی طرح کسی خاص مسجد کو قرآن وغیرہ ہدیہ کیا، اب ان چیزوں کو دوسری مسجد میں لگانا اور صرف کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد کی ضروریات میں صرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسةً ووقف عليها أوقافًا لا يجوز له ذلك أي الصرف المذكور. (شامى، كتاب الوقف / مطلب في نقل انقاض لمسجد ۵۵۱/۶ زكريا، كذا في البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۶/۵-۲۱۷ كوثه،

منحة الخالق / كتاب لوقف ۵۵۱/۱۵ كراچی، مجمع الأنهر / كتاب الوقف ۵۹۶/۲ دار الكتب العلمية بيروت)

البتہ ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں اس وقت استعمال کرنا یا منتقل کرنا درست ہے جب کہ اس مسجد کی ضرورت سے زائد ہو، یا وہاں پر استعمال میں نہ آتے ہوں۔

إن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصوراً على هذا المسجد، وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (الدر المختار مع الشامی / كتاب الوقف ۵۵۸/۶ زکریا، کذا فی البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۳۸/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱/۱۰ھ

## ایک مسجد کیلئے جمع شدہ روپیہ دوسری مسجد میں صرف کرنا؟

**سوال (۳۶۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد کا روپیہ دوسری مسجد میں منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں کہ غیر مسلموں نے مسجد بنانے سے روک دیا ہے، اب جہاں اپنی آبادی ہے وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو سب لوگوں کی خواہش ہے کہ اس میں یہ جمع شدہ رقم لگ جائے، شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسئلہ صورت میں ایک مسجد کا روپیہ پیسہ اور سامان وغیرہ ضرورت کی بنا پر دوسری مسجد میں منتقل کر سکتے ہیں؛ لیکن مسجد کی زمین کو منتقل کرنا یا بیچنا جائز نہیں ہے۔

ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف، فبياع نقضه بإذن القاضي، وبصرف ثمنه إلى بعض

المساجد. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ۵۴۹/۶ زکریا)

وعن الثاني: ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ..... حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف

وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض . (الدر المختار / كتاب الوقف ٣٥٩/٤ كراچی، ٥٤٩/٦ زكريا)

وسئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفريق الناس: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / الفصل الرابع والعشرون في الأوقات التي يستغني عنهما ٨٧٧/٥ إدارة القرآن كراچی، ١٩٦/٨ رقم: ١١٦٢٤ زكريا، وكذا في الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغني عنها الخ ٤٧٨/٢ زكريا، وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف / مطلب: فيما لو خرب المسجد أو غيره ٣٥٩/٤ كراچی) فقط والله تعالى أعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۴/۲/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں خارجی تصرف کرنا

مسجد کے منبر و محراب اور صفِ اول کو منہدم کر کے دوکان بنانا؟

**سوال (۳۶۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: دوسو سو ہری چگوں والی اصالت پورہ میں واقع ہے، جس میں نماز پنج وقتہ و جمعہ و عیدین ہوتی ہے، اور کثیر تعداد میں قرب و جوار و دیگر محلوں سے لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں، منتظمین مسجد؛ مسجد کی آمدنی بڑھانے کی غرض سے مسجد کے منبر و محراب و صفِ اول کو منہدم کر کے اُس جگہ پر دوکانوں کی تعمیر کا منصوبہ رکھتے ہیں، جب کہ مسجد سے ملحق چار دوکانیں دو بیٹھک و بالائی کمرے مسجد کی عمارت کا حصہ ہیں، براہ کرم شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد شرعی کے کسی بھی حصہ کو منہدم کر کے اُس جگہ

دوکانیں وغیرہ بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، جو لوگ مسئلہ مسجد میں ایسی تبدیلی کا منصوبہ رکھتے ہیں انہیں اپنے عمل سے باز آنا چاہئے اور مسجد کے بارے میں احکام شریعت پر عمل کرنا چاہئے، اگر مسجد کو آمدنی کی ضرورت ہو، تو اس کے لئے جائز طریقے اختیار کئے جائیں۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (الدر المختار) وأما لو تمت

المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء؛ فإنه لا يمكن من ذلك. (الدر المختار مع

الشامي، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مسجد کی سطح زمین کھود کر دوکان بنانا؟

**سوال (۳۶۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک قطعہ مسجد پختہ منزل بالائی پر قائم ہے، مسجد کے نیچے منزل زیریں میں بجانب جنوب لب سڑک مسجد کی پرانی دوکانیں ہیں، اور مسجد کے نیچے بجانب شمال جدید تعمیر ہوئے مسجد کے گودام ہیں، جو زیر کرایہ داری کرایہ دار ہیں، مسجد کی زیریں منزل میں سمت شمال و جنوب کہ اُن کی دوکانوں کی کچھ گہرائی بجانب شمال مٹی کی سطح کاٹ کر بڑھادی جائے، تو وہ شرح کرایہ بڑھا کر دوگنا کر دیں گے، جس سے مسجد کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور صرفہ مسجد میں آسانی ہوگی؛ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گہرائی بڑھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی ٹھوس سطح مسجد ہی کے حکم میں ہے؛ لہذا اُسے

کھود کر وہاں دوکان بنانا جائز نہیں ہے۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء (الدر المختار) وفي الشامي: وكذا إلى

تحت الثرى كما في البيروني عن الإسيبيجابي. (الدر المختار مع الشامي ۶۵۶/۱ کراچی،

۴۲۹/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۲/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد شرعی میں سے دو صفیں کم کر کے وضو خانہ بنانا؟

**سوال (۳۶۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: پنجابی مسجد محلہ نیل گراں شہر جے پور کی تفصیل یہ ہے کہ اس مسجد کا رقبہ بڑا ہے؛ لیکن بہت سالوں پہلے نمازیوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اصل مسجد جہاں تک صفیں لگتی تھیں بہت چھوٹی تھی؛ لیکن نمازیوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے مسجد کی صفیں لگتی ہیں، معتکف مسجد سمجھ کر جاتے

آتے ہیں اور عبادت و تلاوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تیرہ صفوں تک ہے، پیچھے کی طرف وضو خانہ ہے، استنجا خانہ الگ، جی علی الفلاح کی طرف بہت جگہ ہے، دوکانیں بھی علاحدہ، مکتب بھی ہے، امام مؤذن کے حجرے جو اصل مسجد سے باہر ہیں، موجودہ حالات یہ ہیں کہ مسجد کی عمارت چوں کہ بہت قدیم تھی، اس لئے اُس کو شہید کر کے از سر نو تعمیر ہونے جارہی ہے، پہلے اصل مسجد تیرہ صفوں تک متعین کر دی گئی تھی، موجودہ انتظامیہ اس میں سے دو صفوں کی جگہ کم کر کے متعینہ مسجد کی دو صفوں میں وضو خانہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جی علی الفلاح کی طرف مسجد بڑھانا چاہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ متعینہ مسجد کی پیچھے سے کم کر کے دو صفوں میں وضو خانہ بنانا چاہتی ہے اور اس کے بدلے جی علی الفلاح کی طرف مسجد بڑھانا چاہتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس استفتاء میں مذکور موجودہ صورت حال کے پیش نظر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا متعینہ مسجد کی دو صفیں کم کرے، وضو خانہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اصل مسجد میں کچھ صفیں کم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مکمل و مفصل جواب عنایت فرمائیں کہ موجودہ صورت حال میں ہم کیا کریں؟ انتظامیہ کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ جب کہ وضو خانہ وغیرہ کے لئے مسجد کے رقبے میں اچھی خاصی جگہ موجود ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو حصہ پہلے سے مسجد شرعی میں داخل کیا جا چکا ہے، اُسے مسجد سے خارج کر کے وہاں کچھ اور تعمیر کرنے کی اجازت نہیں؛ لہذا مسئلہ صورت میں متعینہ مسجد میں سے دو صفیں کم نہ کی جائیں، اور وضو خانہ وغیرہ مسجد کے خارجی حصہ میں ہی بنایا جائے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (الدر المختار) وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء؛ فإنه لا يمكن من ذلك. (الدر المختار مع الشامي،

كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۰/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



## حدودِ مسجد کے ایک حصہ کو مصلیٰ الجنازہ قرار دینا؟

**سوال (۳۶۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک بڑی مسجد کے صحن میں ایک مکان تھا جس کو خرید کر مسجد ہی میں شامل کر دیا، مکان منہدم کرنے کے بعد ایک سال تک وہ مسجد ہی کے حدود میں رہا، اور اُس میں عیدین والوداع کی نماز بھی ہوئی، اراکین کے بعض اَحباب کو خیال آیا کہ اس مسجد میں جنازہ کی نماز ہونی چاہئے، اور چوں کہ جنازہ کی نماز مسجد میں مکروہ ہے، اس لئے اس حصہ کو مسجد کے حدود سے خارج کر دیا ہے، آیا اس حصہ کو عرصہ سے مسجد کے حدود میں رکھا، اس پر نمازیں بھی ہوئیں، اب اس کو جنازہ کی نماز کے لئے خارج کرنا اور اس کی نشان دہی یعنی علامت متعین کرنا از روئے شریعت درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر مذکورہ خرید کردہ مکان شرعی مسجد کی حدود میں داخل کر دیا گیا ہے، تو اب اُسے خارج نہیں کیا جاسکتا، اور اس جگہ جنازہ کی نماز مکروہ ہوگی۔

وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف. (شامي / مطلب في

احكام المسجد ۵۴۵/۶)

التسليم في المسجد أن يصلى الجماعة بإذنه، ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً. ولو جعل رجل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق الخ. (الفتاوى الهندية، كتاب

الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۵۵/۲ زكريا)

وتكره صلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروه. (الفتاوى

الهندية / كتاب الجنائز ۱۶۵/۱ زكريا، شامي / باب الجنائز ۱۲۶/۳ زكريا)

والحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة الخ. (المبسوط

للسرخسی / باب الحمل والمملوك والكافر ۱۵۹/۹ المكتبة الغفرية كوثه

ففي الذخيرة ما نصه: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعةً، فإنه يصير مسجدًا. (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل ۴۱۵-۴۱۶ زكريا)

وبالصلاة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه يصلي فيه جماعة؛ فإنه يصير مسجدًا، ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف / مسائل وقف المساجد، الفصل الحادي والعشرون في المساجد ۸۳۹/۵ إدارة القرآن كراچی، ۱۵۶/۸ زكريا، وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف / فصل ۲۳۳/۶ مصطفى البابی الحلبي مصب فقط والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے قبلہ کی جانب سوئمنگ پل بنانا؟

**سوال (۳۶۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے قبلہ کی جانب مسجد سے ہٹ کر ایسی جگہ پر جس سے مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوئمنگ پل (نہانے کا تالاب) بنانا؛ تاکہ اُس کی آمدنی مسجد کے لئے استعمال ہو، ان شرائط کے ساتھ کہ وہاں پانی، پان پراگ، بیڑی، سگریٹ اور شراب وغیرہ نشہ آور چیزیں نہیں ہوں گی، ان شرائط کے ساتھ سوئمنگ پل بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کا مجوزہ نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوئمنگ پل میں عموماً بے لباسی ہوتی ہے، اور فواحش کا

ارتکاب ہوتا ہے، اس لئے مسجد کی آمدنی کے واسطے سوئمنگ پل بنانا مطلقاً جائز ہے، اور محض بیڑی سگریٹ اور شراب وغیرہ کی ممانعت کرنے سے اُس کے اصل مفاسد میں کوئی کمی نہیں آسکتی؛ لہذا اس سے بہر حال منع کیا جائے گا۔

عن بھز بن حکیم حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: إ حفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها، قال: قلت يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيي منه من الناس. (شعب الإيمان للبيهقي، باب الحياء / فصل في ستر العورة ١٥٠/٦ رقم: ٧٧٥٣ دار الکتب العلمیة بیروت)

دخول الحمام من غير إزار حرام، وإن كان ذلك عادة له لا يعدل في شهادته أريد بذلك لم يعرف رجوعه عن ذلك، وإلا فالدخول من غير إزار مرة واحدة يكفي لسقوط العدالة. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع والعشرون في دخول الحمام ٣٦٣/٥ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۴/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ضرورت کے وقت مسجد کا کچھ حصہ سڑک میں شامل کرنا؟

**سوال (۳۶۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فتاویٰ عبدالحئی کے ص: ۲۷۱ پر ”الاشباہ والنظائر“ کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے کہ سڑک کے تنگ ہونے کی صورت میں کشادہ مسجد کی کچھ زمین سڑک میں شامل کر لینا جائز ہے، عبارت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت خانہ یا محراب میں سے بھی کچھ حصہ شامل کر سکتے ہیں، اس عبارت کا مطلب اور مفتی بقول کی وضاحت فرمائیں؟

**الجواب وبالله التوفيق:** اس بارے میں فقہاء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں، بعض میں گنجائش ہے اور بعض میں نہیں، تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے جو اصل مسجد کا حصہ نہیں؛ بلکہ توابع میں سے ہو، اُس کو ضرورت کے وقت راستہ میں شامل کرنے کی اجازت ہو اور جو حصہ اصل مسجد میں شامل ہو اُس کی اجازت نہ دی جائے۔ مصلحت کا تقاضہ یہی ہے، ورنہ تو لوگ معمولی بہانوں سے مسجد کی حرمت کو پامال کرنے لگیں گے۔

ويؤيده ما في التاتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين، فقد قيل: ليس لهم ذلك، وإنه صحيح، ثم نقل عن العتائبية عن خواهرزاده: إذا كان الطريق ضيقاً والمسجد واسعاً، لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن كلها للعامة، والمتون على الثاني فكان هو المعتمد. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً ٥٧٦/٦ زكريا، الفتاوى التاتارخانية ١٥٨/٨ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ ۱۴۲۵/۱۱/۲۸

## مسجد کے طاق کے اوپر سے اپنے زینہ کی چھت نکالنا؟

**سوال (۳۶۸):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا مکان ٹھیک مسجد کے پیچھے واقع ہے، اور اب تک کوئی شکوہ شکایت نہ تھی اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اب زید نے اپنے زینہ کی چھت ٹھیک مسجد کے بیچ طاق کے اوپر سے نکال لی ہے، اب مسجد کی بیچ طاق زید کے زینہ کے نیچے آ گیا ہے، نیز لوگوں میں بد امنی پھیلتی جا رہی ہے، ہر جگہ اسی بات کا ذکر ہے؛ لہذا التماس ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیں۔

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی زمین کے اندر اپنے مکان کی دیوار کھڑی کرنا یا اس پر اپنے مکان کی چھت بنانا، الغرض کسی طرح کا بھی تصرف کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، فقہاء نے مسجد کی دیوار پر کسی چھت کی کڑی تک رکھنے کو منع فرمایا ہے۔

وفي الهندية: قيم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فناءه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكناً تسقط حرمة، وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني ٤٦٢/٢ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۲/۱۲ھ

## مسجد کی موقوفہ زمین پر ذاتی مکان بنانا؟

**سوال (۳۶۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جس کی زمین بکرنے وقف کی ہے اور اب زید نے اُس زمین پر قبضہ کر کے اپنا مکان بنا لیا ہے، اور وہ پھوس کا مکان ہے، جسے توڑ دینے سے صاحب مکان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اب زید اس زمین کے بدلہ میں سڑک کی زمین دے رہا ہے، اور زمین وقف کرنے والا انتقال کر گیا اور اس زمین کا کاغذ مسجد کے نام سے بن چکا ہے، اگر وہ قبضہ کی ہوئی زمین زید کے ہی حوالہ چھوڑ دی جائے، تو آپس میں انتشار کا خطرہ ہے؛ لہذا اس صورت میں شریعتِ مطہرہ کا حکم کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بکرنے جو زمین مسجد کے لئے وقف کی ہے، اس زمین پر زید کا مکان بنانا شریعت کی رو سے درست نہیں ہے، اور وہ زمین مسجد ہی کی رہے گی۔ ذمہ دار حضرات کو بیچ میں ڈال کر مسجد کی زمین خالی کرالی جائے۔

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴ - ۴۳۴ كراچی، ۶۴۹/۶ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۱۰۶/۲ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

وفي الشامي: على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ ۶۶۵/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۱۱/۱۴۱۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے موقوفہ مکان پر قبضہ کر کے ذاتی استعمال میں لانا؟

**سوال (۳۷۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مسجد کے نام مکان خریدا گیا یا مسجد میں وقف کیا گیا ہو، پھر کوئی شخص اس مکان پر قبضہ کر کے مسجد کے مفاد سے ہٹ کر اپنے ذاتی استعمال میں رکھے، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی ملکیت یا مسجد کا موقوفہ مکان بلا استحقاق اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۳/۱۳۶۱)

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ ۳۵۲/۴ دار الفکر بیروت، ۵۳۹/۶ زكريا)  
فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۱۱/۱۴۱۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی خالی زمین میں نرسری کھولنا؟

**سوال (۳۷۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد کی زمین میں جو مسجد کے بغل میں زائند پڑی ہوئی ہے، نرسری کھولنا درست ہے، اگر نہیں تو کیا کرایہ پر لے سکتے ہیں، اور اس پر نرسری کے لئے عمارت بنا سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی زائند زمین کرایہ پر دی جاسکتی ہے، اور مسجد کا کوئی نقصان نہ ہو تو اُس میں نرسری بنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔

وفي الضياع: يجوز إلى ثلث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان. (شامي، كتاب الوقف / فصل: يراعي شرط الواقف في إجارته ٤٠١٤ كراچی، ٦٠٦/٦٠٦ زكريا) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین میں قبرستان بنانا؟

**سوال (۳۷۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد کی زمین میں قبرستان بنانا جائز ہے یا ناجائز؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کی موقوفہ زمین کو قبرستان بنانا درست نہیں ہے۔

لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني):

وفي الشامي: على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي،

كتاب الوقف / مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ ٦٦٥/٦ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۲/۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے تہ خانہ کو پارکنگ میں استعمال کرنا؟

**سوال (۳۷۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہماری مسجد میں اجتماعات اور اجلاس کے وقت حاضرین کی گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ مسجد کے ہی تہ خانہ میں کھڑی کر دی جاتی ہیں، تو کیا مسجد کے تہ خانے کو اس تصرف میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر شروع ہی سے مسجد کے تہ خانہ کو پارکنگ کے مقصد

کے لئے بنایا گیا تھا اور اس کی چھت پر مسجد شرعی بنائی گئی تھی، تو ایسی صورت میں یہ تہ خانہ مسجد شرعی نہ بنے گا؛ بلکہ مصالح مسجد میں شمار ہوگا، اور وہاں نمازیوں کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا؛ لیکن گاڑی کھڑی کرنے پر مناسب کرایہ ادا کرنا چاہئے، جیسا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں بنی ہوئی زیر زمین پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کرنے پر کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔

وإذا جعل تحته سردابًا لمصالحة أي المسجد جائز كمسجد القلنس .

(الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ٥٤٧/٦ زكريا)

إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز؛ لأنه إذا انتفع به عامة

المسلمين، صار ذلك لله تعالى أيضًا ..... لو جعل تحته حانوتًا، وجعله وقفًا على المسجد، قيل: لا يستحب ذلك، ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار

مسجدًا، وما تحته صار وقفًا عليه، ويجوز المسجد والوقف الذي تحته. (حاشية



الشلبی علی تبیین الحقائق / کتاب الوقف ۲۷۱/۴ دار الکتب العلمیة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۷/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی موقوفہ زمین کو ہڑپ کرنے والے کی سزا؟

**سوال (۳۷۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: جو شخص مسجد کی وقف کردہ زمین ہڑپ کر لے، یا اُس کی پیداوار کو اپنے مصرف میں لے

آئے، تو اُس کے لئے شرعی سزا کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** موقوفہ زمین پر ناحق قبضہ کرنا یا اُس کی پیداوار اپنے

صرفہ میں لانا سخت گناہ ہے، اسلامی حکومت میں ایسے شخص کو قاضی سزا دے سکتا ہے؛ لیکن جہاں

اسلامی حکومت نہیں، وہاں اُس شخص کو توبہ و استغفار کرنا اور جتنا مال خرچ کیا ہے، اُس کے بقدر مسجد کو

ضمان دینا ضروری ہوگا۔

عن السائب بن یزید عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً، فمن أخذ عصا أخيه

فليبردها إليه. (سنن الترمذي، أبواب الفتن / باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً ۳۹۱۲ رقم:

۲۱۶۰، سنن أبي داود، كتاب الأدب / باب من يأخذ الشيء على المزاح رقم: ۵۰۰۳ دار الفكر بيروت)

عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم قال: علي اليد ما أخذت حتى تؤدّيه. (سنن أبي داود، كتاب الإجارة / باب في

تضمين العارية رقم: ۳۵۶۱ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي رقم: ۱۲۶۶، سنن ابن ماجه / باب العارية

رقم: ۱۷۳ ۲۴۰۰ دار الفكر بيروت)

عن يعلى بن مرة قال: ..... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: من أخذ أرضاً بغير حقها كُلف أن يحمل ثرابها المحشور. (المسند للإمام أحمد بن حنبل ۱۷۲/۴، لمعات التفتيح، كتاب البيوع / باب الغصب والعارية ۶۲۶/۵-۶۳۲ رقم: ۲۹۴۸-۲۹۵۰-۲۹۵۹ دار النواحر)

ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف فإن أبي وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد؛ فإن كان دخل الوقف نقص عزم النقصان ويصرف إلى مرمة الوقف. (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / الباب التاسع في غصب الوقف ۴۴۷/۲ كونه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۷/۱۴۱۳ھ  
الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد پر غیر مسلموں کا غاصبانہ قبضہ کرنا؟

**سوال (۳۷۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد مرزا لدھیانہ بازار میں واقع ہے، ۱۹۳۷ء سے اس مسجد میں ریفرنڈم کے پانچ خاندان بھگوان داس وغیرہ رہائش پذیر ہیں، انہوں نے مسجد مذکور میں ہر ممکنہ رد و بدل کر کے اُس کی شکل بھی بدل ڈالی ہے، یہ مسجد ایک رہائشی مکان اور بڑی دوکان بن کر رہ گئی ہے۔ بورڈ کے قیام سے قبل کسٹوڈین کے زیر انتظام تھی، جس نے بھگوان داس وغیرہ کو معمولی کرایہ پر الاٹ کر دی تھی، قانونی پیچیدگیوں اور ملک کے خصوصی حالات کے پیش نظر مسجد کی واگذاری ممکن نظر نہیں آتی، لدھیانہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود ہے اور تجارت کے سلسلہ میں بہت سے مسلمانوں کی ہمہ وقت آمد و رفت رہتی ہے، اس وجہ سے اس علاقہ میں مسجد کی سخت ترین ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔

لدھیانہ میں مسلمانوں کی تعداد کی بہ نسبت مساجد کی کمی ہے، ایک سو سے زیادہ مساجد ختم کی جا چکی ہیں، اس ضمن میں وقف بورڈ بھی کچھ نہ کر سکا۔

یاد رہے کہ اس مسجد کی واگذاری کے سلسلہ میں ”مسلم سدھار کمیٹی لدھیانہ“ کی جانب سے عدالت دیوانی میں مقدمہ دائر کیا جو خارج ہو گیا، اور جب مسجد کی واگذاری کے سلسلہ میں مسلمانوں نے بھگوان داس اور دیگر رہائش پذیر لوگوں سے بات چیت کی اور اس مسئلہ کا حل یہ نکالا کہ اگر وقف بورڈ مسجد مذکور میں رہنے والوں کو ان کی مرضی کے مطابق تعمیر کی اجازت دیدے، تو وہ اس تعمیر شدہ عمارت پر مسجد بنانے پر کوئی اعتراض نہ کریں گے، اور بورڈ کو کرایہ بھی معقول ادا کرنے لگیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آگے چل کر کرایہ دار خود قبضہ دے دیں، یا کچھ معاوضہ دے کر خالی کرالیں گے، اس طرح مسجد بھی تعمیر ہو جائے گی اور نچلی تعمیر مسجد ہی کی ملکیت ہوگی اور اس کی آمدنی سے مسجد خود کفیل بھی ہو جائے گی۔ فتویٰ صادر فرمائیں کہ حالات اور واقعات کی رو سے کیا ایسا معاہدہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب مسجد بنالی جائے تو وہ جگہ زمین کے نیچے سے لے کر آسمان تک مسجد ہی شمار ہوتی ہے، اور امتدادِ زمانہ کے باوجود اس کے مسجد ہونے میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء (الدر المختار) وكذا إلى تحت الثرى. (الدر

المختار مع الشامي، كتاب الصلاة/ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد

۶۵/۶۱ کراچی، ۲۸/۱۲/۴۲ زکریا)

لہذا حسب تحریر سوال صورتِ مسئلہ میں مسجد پر غیر مسلموں کا قبضہ غاصبانہ ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ جس طور پر بھی ممکن ہو سکے مسجد پر سے ان کے قبضہ غاصبانہ کو ہٹانے کی سعی کریں اور فی الحال مسجد کے جس حصہ پر بھی قبضہ مل جائے اُسے حاصل کر کے وہاں نماز وغیرہ شروع کر دیں اور پوری مسجد کی واگذاری کے لئے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ (مستفاد: کفایۃ المہتمی ۲۸۰۹ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## مسجد کی دوکان پر کرایہ دار کا غاصبانہ قبضہ کرنا؟

**سوال (۳۷۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد نئی بازار محمود آباد میں ایک پرانی مسجد تھی، جو مصلیوں (نمازیوں) کے لئے ناکافی تھی، جس کی وجہ سے اُس کی توسیع کا کام شروع ہو کر تکمیل کے قریب ہے، مسجد کے اگلے حصہ میں ایک دوکان ہے، جو ایک صاحب ایمان کے پاس بطور کرایہ ہے، اور وہ دوکان زیر تعمیر مسجد کے کام میں رکاوٹ کا سبب ہے؛ کیوں کہ اس سے مسجد کی تعمیر ناقص ہو رہی ہے، اُن سے دوکان خالی کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ دوکان خالی نہیں کر رہے ہیں، نیز کئی سالوں کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ مزید یہ کہ مقدمہ بھی دائر کر چکے ہیں اور کمیٹی کو طرح طرح سے ستاتے و پریشان کرتے ہیں اور مسجد کے تعمیر ہونے میں روڑہ بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اُن کے الفاظ یہ ہیں کہ مسجد کی دوکان خالی نہیں کریں گے؛ بلکہ مسجد اڑا دیں گے، ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ نیز مسلمانوں سے ان کا بائیکاٹ کرنا اور قطع تعلق کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی دوکان پر مذکورہ کرایہ دار کا قبضہ کرنا اور ضرورت کے باوجود دوکان خالی نہ کرنا؛ بلکہ مسجد کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دینا بدترین جرم ہے، شہر کے بااثر افراد پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کے غاصبانہ قبضہ سے مسجد کو چھٹکارا دلائیں اور اُس کے لئے ہر ممکن اقدامات کریں، قطع تعلق کرنا اس دور میں زیادہ مفید نہیں ہے، اس لئے اس میں احتیاط لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۲۰۶/۹)

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا

اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة، جزء آیت: ۱۱۴]

قال تعالیٰ: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود، جزء آیت: ۱۱۳]

قال الشيخ كمال الدين ابن الهمام: ولا يخفى أن امتياز الإمام مقررٌ مطلوبٌ في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجب عليه، وغاية ما هناك كونه في خصوص مكان ولا أثر لذلك، فإنه بنى في المساجد المحارِب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تُبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان؛ لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب؛ إذ قيامه في غير محاذاته مكروه. (غنية المستملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي الكبير، كتاب الصلاة / فصل في ما يكره فعله في الصلاة فروع ۳۶۱ لاهور) ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان، حتى كان التقدم واجباً عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك؛ لأنه يحاذي الصف وهو المطلوب؛ إذ قيامه في غير محاذاة مكروه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۴۵۱۲ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۸/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## افسران کا مسجد کا حصہ سڑک کی توسیع میں شامل کرنا؟

**سوال (۳۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر مکنڈنگر احمد نگر ضلع احمد نگر، مہاراشٹر کی معراج مسجد میں بائیں طرف روڈ (سڑک) بن رہی ہے، اس سرکاری روڈ کے ذمہ داران مسجد کے جماعت خانہ سے تقریباً پندرہ فٹ زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک کی تعمیر کے لئے دے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ مسجد کی دائیں سائڈ مسجد کی اپنی آراضی دس ہزار اسکوائر فٹ موجود ہے، اس کی طرف مسجد کی توسیع بھی کرنے کی گنجائش ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں سرکاری ذمہ داران کا یہ دعویٰ کرنا

کہ سرکاری زمین مسجد میں داخل ہوگئی ہے، اس دعویٰ کی سرکاری کاغذات کے اعتبار سے تصدیق کی ضرورت ہے، اگر ان کے دعویٰ کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو مقامی علماء و ذمہ داران کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے دعویٰ کی تصدیق نہیں ہو سکتی تو مسجد شرعی کا کوئی بھی حصہ اپنی مرضی سے سڑک میں شامل کرنے کے لئے چھوڑنا قطعاً جائز نہ ہوگا، اور شہر کے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ جہاں تک ہو سکے مسجد کے تحفظ کے لئے کوشش کریں۔

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (تنوير الأَبصار) وفي الشامي:  
 قوله لا يملك: أي لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التملك  
 لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (شامي، كتاب الوقف / قبيل  
 مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن ۵۳۹/۶ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۶/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



---

---

# آدابِ مساجد

---

---

# مسجد کو گزر گاہ بنانا

## مسجد میں دوڑ لگانا؟

**سوال (۳۷۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے اندر امام یا کسی شخص کا بھی دوڑ لگانا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** تفریح اور لہو و لعب کے لئے مسجد میں دوڑ لگانا جائز نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے نہ کہ دوڑنے کی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱/۲۸۳)

لا يتخذ طريقاً في المسجد بأن يكون له بابان، فيدخل من ههنا ويخرج من ذلك. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۱/۳۲۱ زكريا)

رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقاً إن كان لغير عذر لا يجوز. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۲۱ زكريا الدر المختار / كتاب الصلاة ۶۱۱ ۲۵ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۴/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## وضو خانے کے اوپر جوتے چپل کے ساتھ جانا؟

**سوال (۳۷۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: وضو خانے کے اوپر دوسری منزل میں جو خاریجی حصہ ہے، وہاں بیت الخلاء بھی ہے، اور فرش



بھی اچھی نہیں ہے، اور امام صاحب کا کمرہ اوپر دوسری منزل میں بنا ہوا ہے، چٹائی بچھا کر رمضان میں تراویح کی نماز دس یا پندرہ دن میں مکمل ہوتی ہے، اور سال بھر میں کبھی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس حالت میں اوپر چپل جو تیاں پہن کر جانا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر یہ حصہ مسجد شرعی سے خارج ہے، تو وہاں چپل پہن

کر جانا بے ادبی نہیں ہے، پھر بھی اگر نہ پہنیں تو بہتر ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۰۰۶)

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: ﴿وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ

الْقُلُوبِ﴾ [الحج، جزء آیت: ۳۲]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومتنعلاً. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة / باب

الصلاة في النعل ۹۶۱)

عن النعمان بن سلام عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحياناً

يصلي، فيشير إلي وهو في الصلاة، فأعطيته نعليه، ويقول: رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. (سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة / أبواب إقامة الصلوات

والسنة فيها، باب الصلاة في النعال ۷۲)

من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب. (رد المحتار، كتاب الصلاة / باب

ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: في أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، کذا في البحر الرائق، كتاب

الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۱۱/۲ زکریا)

و دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب، كذا في السراجية. (الفتاوى الهندية، كتاب

الکراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰۲۲/۱۲/۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## صحن مسجد کے ایک حصہ کو طلبہ و مدرسین کی مخصوص گزرگاہ بنانا؟

**سوال (۳۸۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بانی ادارہ مولانا..... کے مکان سے متصل ایک مسجد ہے، جس کے شمالی جانب ایک حجرہ تھا، جس میں جانے کے لئے صحن مسجد سے گزرنا پڑتا تھا، جب ادارہ قائم ہوا تو طلبہ اُس حجرہ میں رہتے رہے، پھر ادارہ کو ترقی ہوئی تو مسجد کی بھی توسیع ہوئی اور صحن کو بانی ادارہ کے مکان کی شمالی دیوار سے ملادیا گیا، سامنے کا وضو خانہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا اور جنوبی جانب نیا وضو خانہ بنا دیا گیا، پھر مسجد کے پیچھے والا وسیع مکان ادارہ کو مل گیا، جس میں دارالطلبہ تعمیر کیا گیا، جس کا راستہ صحن مسجد ہی تھا، پورے صحن کو گندہ ہونے سے بچانے کے لئے شمالی جانب دیوار مکان کے قریب قریب کچھ حصہ صحن الگ کر کے راستہ بنا دیا گیا، جس میں طلبہ گذرتے ہیں، اور اب ناظم دارالاقامہ کی رہائش گاہ دارالطلبہ میں بن جانے کے سبب اُن کے اہل خانہ بھی گذرتے ہیں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ توسیع شدہ صحن مسجد کے ایک مختصر حصہ کو طلبہ و مدرسین کے لئے ہی مخصوص گزرگاہ بنا دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو مطلق جائز ہے یا کچھ شرائط ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مسجد کے صحن میں اضافہ مسجد کی ہی نیت سے کیا گیا تھا، یعنی وہ اضافہ فناء مسجد کے بطور نہیں؛ بلکہ اصل مسجد میں شمولیت کی غرض سے تھا؛ لہذا اس اضافہ شدہ حصہ پر بھی مسجد شرعی کے احکامات جاری ہوں گے اور مسجد کے کسی بھی حصہ کو گزرگاہ بنانا درست نہ ہوگا۔

و کرہ تحریماً.....، واتخاذہ طریقاً بغير عذر، و صرح في القنية بفسقه

باعتيادہ. (الدر المختار مع لشمای، کتاب لصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱، کراچی، ۴۲۸/۲ زکریا)

وفي صلاة الجلابي لا يتخذ طريقاً في المسجد. (الفتاوى الهندية، کتاب

الکراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا)

رجل یمرّ فی المسجد ویتخذہ طریقاً إن کان بغیر عذر لا یجوز. (البحر

الرائق / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها ۶۲/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۰/۱۱ھ

## مسجد کے متولی کا مسجد کے ایک حصہ کو گزرگاہ بنانا؟

**سوال (۳۸۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: متولی مسجد کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ مدرسہ و مسجد کی مصالح کے تحت مسجد کے صحن کے

ایک حصہ کو گزرگاہ بنا سکے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** متولی مسجد و مدرسہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حرمت مسجد

کے خلاف کوئی کام کرے، اور مسجد شرعی کے کسی حصہ کو گزرگاہ بنانا حرمت مسجد کے خلاف ہے۔

قال فی الشامیة: قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات فی

المساجد کالتي فی رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما یترتب علی ذلك من

تقدیر المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه. (شامی ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

رجل یمرّ فی المسجد ویتخذہ طریقاً إن کان بغیر عذر لا یجوز. (البحر

الرائق / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها ۶۲/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۰/۱۱ھ

## مسجد کی دیوار کے متصل مسجد کی زمین میں گزرگاہ کو بند کرنا؟

**سوال (۳۸۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک مسجد و محلوں کے باڈر پر واقع ہے، اور دونوں ہی طرف سے مسجد کا راستہ ہے، اس

راستہ کی شکل یہ ہے کہ ایک گلی سی چھوٹی ہوئی ہے، یہ آراضی مسجد کی ہی ہے، اور گلی ہونے کی وجہ سے یہ عام راستہ ہو گیا ہے، اس میں سے ہر ایک مذہب کا ہر ایک کردار کا انسان گزرتا ہے، یہاں تک کہ عورتیں بھی گذرتی ہیں، اس مسجد کی کمیٹی اس عام راستہ کو بند کر کے مسجد میں توسیع کرنا چاہتی ہے، اور اس جگہ پر وضو خانہ بنانا چاہتی ہے، اب کچھ لوگ اس راستہ کو بند کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ بند نہیں ہوگا، تو اس صورت میں مسجد کی کمیٹی شرعی اعتبار سے اس راستہ کو بند کر کے وضو خانہ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟ اور یہ راستہ حدودِ مسجد میں ہے یعنی مسجد کی چہار دیواری کے اندر؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مذکورہ آمدورفت کی جگہ جب کہ مسجد کی ملکیت ہے، اور اس کو گذرگاہ بنانے سے مسجد کی بے حرمتی اور نماز و عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے؛ لہذا اس گذرگاہ کو بند کر کے وہاں مسجد کا وضو خانہ بنانا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے؛ تا کہ مسجد کی بے حرمتی پر بند لگ سکے اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گذرگاہ کو بند کرنے یا وضو خانہ کی تعمیر پر کوئی اعتراض کرے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۱۷۷/۳)

و کرہ تحریمًا - إلی قوله - واتخاذہ طریقًا بغیر عذر. (الدر المختار مع

الشامی ۴۲۸/۲ زکریا)

لا يتخذ طريقًا في المسجد بأن يكون له بابان، فيدخل من ههنا ويخرج

من ذلك. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۱/۵ ۳۲ زکریا)

رجل يمر في المسجد ويتخذہ طريقًا إن كان لغير عذر لا يجوز. (البحر

الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۲/۲ زکریا، الدر

المختار / كتاب الصلاة ۶۱/۲۵ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۶/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## چھوٹی قدیم مسجد کی آخری صف کو ختم کر کے گذرگاہ بنانا؟

**سوال (۳۸۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک چھوٹی مسجد تھی اب اس کو وسعت دی جا رہی ہے، مسجد کی آخری صف صدر دروازہ کے سامنے ہے، اس صف کے بعد میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ بسا اوقات لوگ مسجد کی صف کے اوپر پیر رکھ کر نکل جاتے ہیں، جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیا اس آخری صف کو ختم کر کے راستہ یا چپل اُتارنے کی جگہ بنا دی جائے، جس سے یہ تنگی ختم ہو جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جو حصہ قدیم مسجد میں جماعت خانہ میں شامل تھا، اُسے

اب راستہ میں یا چپل اُتارنے کی جگہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام، والثاني أبداً

إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوي القدسي . (تنوير الأبصار مع الدر المختار / كتاب الوقف

۳۵۸/۴ دار الفکر بیروت، البحر الرائق / فصل في أحكام المساجد ۲۱/۵ زکریا، فتاویٰ قاضی خان

علی الہندیہ / کتاب الوقف ۲۸۸/۳ زکریا)

بخلاف جعل المسجد طريقاً؛ لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية

أبداً، فلم يجوز لأنه يلزم المرور في المسجد . (شامی ۵۷۶/۶ زکریا)

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً . (شرح المحلة لسليم رستم بازرقم المادة: ۴۳،

المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ۳۷/۱ المكتبة الحنفية كوئته، الأشباه والنظائر / الفن الأول في

القواعد، القاعدة السادسة ۲۷۸/۱ إدارة القرآن کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۸/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گذرگاہ بننے کے خوف سے نماز کے علاوہ اوقات میں مسجد کے دروازوں کو بند کرنا؟

**سوال (۳۸۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد ہے جس کے دو راستے ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب؛ لہذا وہ بند رہتے ہیں، نماز کے وقت کھلے رہتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ کھلتے ہیں، تو عام راستہ کی شکل میں آجاتے ہیں، تو اس کا کھلا رہنا بہتر ہے یا بند رہنا؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کو عام گذرگاہ بنانا جائز نہیں ہے؛ لہذا اگر دونوں دروازوں کو کھولنے سے مسجد عام لوگوں کی گذرگاہ بنتی ہو تو اس پر روک لگانے کے لئے جماعت کے علاوہ اوقات میں مسجد کے دروازے بند کر دئے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۲۱۵، ۱۵/۲۱۵ ج ۱)

لا يتخذ طريقاً في المسجد بأن يكون له بابان، فيدخل من هذا ويخرج من ذلك. (الفتاوى الهندية / الباب الخامس من كتاب الكراهية ۱۵/۳۲، الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲/۴۲۸)

كما كره غلق باب المسجد إلا لخوف على متاعه به يفتى. (الدر المختار) هذا أولى من التقييد بزماننا؛ لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح. (الدر المختار مع الشامي / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲/۴۲۸، زكريا، كذا في البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲/۵۹۲، زكريا، كذا في فتح القدير / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱/۴۲۱، دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۶/۵/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا

## مسجد کے آداب اور امام و مقتدی کے اخلاق

**سوال (۳۸۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے ضروری آداب سے آگاہی فرمائیں، نیز امام و مقتدی کے مابین ربط و تعلق اخلاقی حالات کیسے ہوں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے بہت سے آداب ہیں، جن کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، اُن میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں شور و شغب اور جھگڑا نہ کیا جائے، دنیوی باتیں نہ کی جائیں، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ جائیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جائے، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، وغیرہ۔

اور امام و مقتدی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا لازم ہے، مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ امام کا دل سے احترام کریں، اور امام کو چاہئے کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی کردار اور اخلاق ایسے رکھیں کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور دل سے اپنے مقتدیوں کی خیر خواہی کا متنی ہو۔

قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ۳۲]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتاع وعن تناشد الأشعار في المساجد. (سنن

أبي داؤد رقم: ۱۰۷۹، سنن الترمذي رقم: ۳۲۲، سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات / باب ما

يكره في المساجد ص: ۱۸۹ رقم: ۷۴۹ دار الفكر بيروت)

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جَنَّبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلَّ سِيوفكم. واتخذوا على أبوابها المطاهر. وجَمَّروها في الجُمع. (سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات / باب ما يكره في المساجد ص: ١٨٩ رقم: ٧٥٠ دار الفكر بيروت)

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُنزل الناس منازلهم. (رواه مسلم في مقدمة صحيحه، الأحاديث المتخبة في الصفات الست، إكرام مسلم / مكانة المسلم ٢٢٨ رقم: ٨١٤)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور، وأن ينظف ويطيب. (مراجعة المفاتيح ٢٠٥/٢)

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. (سنن أبي داود، كتاب الصلاة / باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ١٥٤/١ رقم: ١٠٧٩)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. (سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا ٨٣٩ رقم: ٣٧١٢ دار الفكر بيروت)

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: ما من والٍ يلي رعيةً من المسلمين فيموت وهو غاشٌّ لهم؛ إلا حرم الله عليه الجنة. (صحيح البخاري، كتاب الأحكام / باب من استرعى رعية فلم ينصح ١٠٥٩/٢ رقم: ٦٨٦٨، فتح الباري ٧١٥١)

ورفع صوت - وأكل ونوم - وأكل نحو ثوم ويمنع منه، وكذا كل مؤذ



ولو بلسانہ. (الدر المختار / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد  
 ۴۳۴۱۲-۴۳۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کاتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۲۳/۱۴۲۳ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا؟

**سوال (۳۸۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
 کہ: ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ عصر مغرب میں زیادہ، باقی وقت میں کم، مسجد میں دو چار چھ آٹھ پانچ  
 دس آدمیوں کا حلقہ بنا کر پڑھے لکھے بھی بے پڑھے لکھے بھی حاجی بھی عالم بھی حافظ بھی، لوگ نماز  
 سے آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کر دنیوی گپ بات چیت کرتے سوتے ہیں، جب مؤذن تکبیر کہنا شروع  
 کرتے ہیں، تب حلقہ توڑ کر ہم آہستہ آہستہ اٹھ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا یہ فعل ٹھیک ہے؟  
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں بلا ضرورت دنیوی بات چیت کرنا ممنوع ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ۳۲]  
 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع  
 أصواتكم الخ. (سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات / باب ما يكره في المساجد ص: ۱۸۹  
 رقم: ۷۵۰ دار الفكر بيروت)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفئ دُولًا ..... وظهرت

الأصوات في المساجد ..... فليبر تقبوا عند ذلك ريحًا حمراء و زلزلة و خفا  
 و مستخًا و قدفًا و آيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. (سنن الترمذي / أبواب الفتن

والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا. (الفتاوى الهندية / الباب الخامس من

كتاب الكراهية ۳۲۱/۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۹/۶ھ

## مسجد میں ہنسی مذاق کرنا؟

**سوال (۳۸۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا مسجد میں ہنسی مذاق کرنا درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد میں ہنسی مذاق کرنا آداب مسجد کے خلاف اور

ممنوع ہے۔

وصرح في الظهيرية بكرهة الحديث: أي كلام الناس في المسجد، لكن

قيده بأن يجلس لأجله..... أما إن جلس للعبادة، ثم بعدها تكلم، فلا. (البحر الرائق،

كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۳۲/۲ زكريا، وكذا في رد المحتار،

كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد ۶۶۲/۱ كراچی)

قوله: بأن يجلس لأجله، فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بنى

لأمور الدنيا. (رد المحتار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في

المسجد ۶۶۲/۱ كراچی)

والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى. (الفتاوى الهندية،

كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰۲۲/۴/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## حلقہ لگا کر مسجد میں سیاسی و غیر سیاسی باتیں کرنا؟

**سوال (۳۸۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد میں نماز کے وقت، قبل یا بعد چند لوگوں کا حلقہ لگا کر سیاسی و غیر سیاسی دنیوی باتوں میں مشغول ہونا درست ہے؟ اُن کے بارے میں کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر کوئی ملی معاملہ ہو اور اُس کے متعلق مسجد میں گفتگو کی جائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم فی أمر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجة. (بیہقی ۸۷/۳)

قیل: یجوز الکلام المباح من الدنیا ولا یجوز الکلام المنکر، کالقصص وحکایات الدنیا الکاذبہ، فقد نقل فی الفتاویٰ الہندیۃ عن التمرتاشی: أن الکلام المباح یجوز فی المساجد، وإن کان الأولیٰ أن یشغل بذكر اللہ. (مجموعۃ رسائل الکنوی، رسالۃ نفع المفتی والسائل / ما یعلق بالمساجد ۱۸/۴ إدارة القرآن کراچی)

الکلام المباح فی المسجد مکروہ یا کمال الحسنات کما تأکل النار الحطب ..... ولا بأس أن یتحدث بما لا إثم فیہ ..... ویلازم قراءۃ القرآن والحديث والعلم والتدریس وسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقصص الأنبیاء وحکایات الصالحین و کتابۃ أمور الدین. (البحر الرائق، کتاب الصوم / باب الاعتکاف ۵۳۱/۲-۵۳۲ زکریا، فتح القدیر، کتاب الصوم / باب الاعتکاف ۳۹۸/۲ دار الفکر بیروت)

والسادس أن لا یرفع فیہ الصوت من غیر ذکر اللہ تعالیٰ. (الفتاویٰ الہندیۃ /

الباب الخامس من کتاب الکراہیۃ ۳۲۱/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۲۳/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے محراب اور وضو خانہ میں موبائل پر گفتگو کرنا؟

**سوال (۳۸۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں تقریباً دس صفیں ہیں، جس میں چھ حصہ محراب کا ہے، مسجد مسلم بغیر آڑکی ہے پہچان کے طور پر درمیان میں اوپر کی جانب سبز رنگ لگا دیا ہے، جیسا صفا مروہ کی مثال مسجد کے بائیں جانب وضو خانہ ہے، جس کا داخلہ میں گیٹ سے ہے، یہ پورا حصہ داخل عمارت میں آ گیا، پوچھنا یہ ہے کہ اگر لوگ محراب کے حصے میں موبائل سے بات کرتے ہوئے دوسرے حصہ میں آ جاتے ہیں، یا وضو خانہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح سے مسجد کے کسی بھی حصہ میں بات کرنے کی گنجائش ہے، یا مسجد سے باہر چلے جانا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے حصہ میں غیر ضروری دنیوی بات کرنا منع ہے، خواہ موبائل پر ہو یا آنے سامنے ہو؛ البتہ کوئی ضروری بات یا دینی بات مسجد میں کرنے کی گنجائش ہے، اور بہر صورت اتنی بلند آواز میں مسجد کی حدود میں گفتگو نہیں کرنی چاہئے کہ دیگر حاضرین کے لئے ناگواری اور اذیت کا باعث ہو۔

ویکرہ الکلام المباح، وقیدہ فی الظہیریۃ: بأن یجلس لأجلہ، لکن فی النہر الاطلاق أوجه. (الدر المختار) فإنه حينئذ لا یباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بنی لأمر الدنیا. (شامی) / باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، مطلب فی الغرس فی المسجد ۴۳۶/۲ زکریا، کذا فی الفتاویٰ الہندیۃ / الباب الخامس فی کتاب الکراہیۃ ۱۹۷/۵ زکریا

صرح فی الظہیریۃ بکراہۃ الحدیث: أي کلام الناس فی المسجد، لکن قیدہ بأن یجلس لأجلہ، أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تکلم فلا. (البحر الرائق) / باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، فصل: کرہ استقبال القبلة ۶۳/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۱۰/۱۴۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں گالی دینا؟

**سوال (۳۹۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر سب کے سامنے گالیاں دیتا ہے اور وہ شخص مسجد کا سکرٹری بھی ہے، تو اُس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں گالیاں وغیرہ دینا نہایت برا عمل ہے اور مسجد کی بے ادبی ہے، ایسے شخص کو اپنے عمل سے باز آنا چاہئے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔

و یمنع منه و کذا کل مؤذ لو بلسانہ . (الدر المختار ۶۶۲/۱ کراچی، ۴۳۵/۲ زکریا)

فقد أفاد أن المنع خاص بالمنکر من القول . (شامی ۶۶۲/۱ کراچی، ۴۳۶/۲ زکریا)

الجلوس في المساجد لتکلم أحادیث الدنيا یحرم بالاتفاق . (نفع المفتی والسائل، کتاب الحظر والإباحة / ما يتعلق بالمساجد ۱۱۶ رحیمیہ دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۲/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے چندہ میں ریزگاری کا نوٹ سے تبادلہ کرنا؟

**سوال (۳۹۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دستور کے موافق جمعہ کے روز ہفتہ واری امام صاحب کے دعا کرانے سے پہلے مسجد کی ضروریات کے لئے ایک شخص یا چند کھڑے ہو کر چندہ کرتے ہیں، چندہ دینے والوں میں سے بعضوں کے پاس ریزگاری موجود نہیں ہوتی، اور وہ مسجد کی مدد یا صدقہ جاریہ کی نیت سے کچھ دینا چاہتے ہیں، جب کہ اُس شخص کے پاس کھلے نہیں ہوتے، تو سو روپے دینے پر دس روپے سے مدد کر کے یا کچھ روپے سے مدد کر کے بقیہ رقم واپس لینا چاہتا ہے، جب کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جو روپیہ دیا وہ دے دیا گیا، اب اُس میں سے لینا درست نہیں، مثلاً کسی کو دس روپے سے مدد کرنی

ہے اور اس نے ۵۰ روپے کا نوٹ دیا، جب کہ ۴۰ روپے اُس کو اپنی ذات کے لئے خرچ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ واپس لینا جائز نہیں، اور مسجد میں جو ریزگاری کے ٹوٹے پیسے جمع ہوتے ہیں، ان میں سے لوگ سو دو سو روپے لیتے ہیں، جب کہ ریزگاری کے عوض بندھے ہوئے نوٹ دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** روپے پیسے میں اصل مقصود متعین نوٹ اور اسکے نہیں

ہوتے؛ بلکہ مالیت مقصود ہوتی ہے؛ لہذا مسجد میں ریزگاری کا تبادلہ نوٹ سے منع نہیں ہے؛ کیوں کہ یہاں تبادلہ اصل مقصود نہیں؛ بلکہ مسجد میں چندہ دے کر اُس کی مالیت میں اضافہ مقصود ہے، اگر اس تبادلہ کو باقاعدہ معاملہ مانیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے؛ اس لئے کہ کبھی کبھار مسجد میں ایسا معاملہ کرنے سے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة / باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ۱۵۴/۱، سنن الترمذي، كتاب الصلاة / باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد ۷۳/۱، سنن النسائي، كتاب المساجد / باب النهي عن البيع والشراء في المسجد ۱۷۱/۱)

وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقاً، لنهييه عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد. (البحر الرائق، كتاب الصوم / باب الاعتكاف ۴۴۹/۲، كراچی، ملتنقی الأبحر، كتاب الصوم / باب الاعتكاف ۳۷۹/۱، المكتبة الغفرانية كوئٹہ، ۵۳۰/۲ زكريا) وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالسوق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه علياً عن خصف النعل فيه مع أنه لو أجمعوا اجتمع الناس لخصف النعال فيه كرهه، فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق

قبل الصلاة فما غلب عليه كره وما لا فلا. (شامي / مطلب: في إنشاد الشعر ۶۶۰/۱  
کراچی، ۴۳۴/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۶/۱۴۲۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں خرید و فروخت اور لین دین کا حکم؟

**سوال (۳۹۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بندہ کی مرتب کردہ کتاب ”مجموعہ مسائل و فضائل“ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر کے خود مسجد میں ہی فروخت کر دی گئی، کیا حدود مساجد میں کتابوں کی فروختگی جائز ہے یا ممنوع ہے؟ بندہ کا مقصد تجارت یا کاروبار نہیں تھا؛ بلکہ اُمتِ مسلمہ کے نفع کے واسطے ایسا کیا تھا، اور یہ اعلان و فروختگی دائمی نہیں تھی؛ بلکہ وقتی تھی، کیا مدارس کا چندہ یا جماعت تبلیغ والوں کا چندہ اور اس طرح مساجد میں عقد خوانی کے بعد تحائف وغیرہ کا لین دین چاہے وہ لفافہ بند کی شکل میں ہو یا کھلے کی شکل میں، کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کے اندر خرید و فروخت ممنوع ہے، اس لئے آپ

کو اپنے عمل پر توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۴۴۰/۶ فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۲۷۱ ذی الحجیل)

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
جَنَّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ صَبِيَانِكُمْ وَمَجَانِينِكُمْ وَشُرَاءَ كُمْ وَبَيْعِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفَعِ  
أَصْوَاتِكُمْ الْخ. (سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات / باب ما يكره في المساجد ۵۴ رقم:  
۷۵۰ دار الفكر بيروت)

ويحرم فيه السؤال - إلى قوله - وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه، وهو أن لا يكون للتجارة؛ بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة. (الدر

و کرہ ہی تحریمًا؛ لأنها محل إطلاقهم. إحصار مبيع فيه كما کرہ فيه مبايعه غير المعتكف مطلقاً للنهي. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الصوم / باب الاعتكاف

(۴۴۰/۱۳ زکریا)

مسجد کے اندر مدارس کا چندہ یا دیگر امور خیر کے لئے چندہ کی اپیل درست ہے، بشرطیکہ اس عمل سے نمازیوں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ اور مساجد میں عقد خوانی کی مقررہ اجرت کا لین دین مناسب نہیں ہے، اگر پہلے سے معاملہ طے نہ ہو اور بطور ہدیہ کے کوئی چیز دی جائے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔

والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل الحافا؛ بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء. (شامي، كتاب

الصلاة / باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سوال المسجد ۴۲/۳ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۲/۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں تفسیر قرآن کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا؟

**سوال (۳۹۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں ایک معروف مفتی اقبال احمد قاسمی روزانہ بعد نماز عشاء بیس منٹ تفسیر قرآن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرا کر یوٹیوب پر ڈال دوں اور اس کی CD بنوا کر تقسیم کر دی جائے؛ تا کہ اُمت کے زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں، خاص طور پر وہ طبقہ جس کا زیادہ وقت انٹرنیٹ کمپیوٹر وغیرہ پر صرف ہوتا ہے، تو کیا اس کام کے لئے مسجد میں باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کی گنجائش ہوگی، جب کہ بہت سی مسجد میں باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، جیسا کہ حیدرآباد کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی مسجد میں ہر جمعہ کو ہوتی ہے، پھر اُن کی تقریر اُن کی ویب سائٹ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور لوگ اسے سنتے ہیں اور کوئی اعتراض



بھی نہیں کرتا، جب کہ ہماری مسجد میں لوگ ویڈیو ریکارڈنگ پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ویڈیو اور ویڈیو تصویر کا حکم الگ الگ ہوگا، جب کہ مقصد صرف امت کو اس جدید دور میں جدید آلات اور ذرائع ابلاغ سے قرآن کریم کی تفسیر پہنچانا ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے تفسیر کا ایک ویڈیو یوٹیوب پر ڈالا ہے، جو کہ انگلش میں بسم اللہ کے نام سے پڑا ہے، نیز بہت سے اکابرین ان آلات کو دین کی خدمت کے لئے اپنارہے ہیں، براہ کرم وسعت اور احتیاط پر نظر کرتے ہوئے جواب تحریر کریں۔ کیا انٹرنیٹ پر ڈالنے کے لئے مسجد میں تفسیر کی ریکارڈنگ کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کوئی متبادل طریقہ بتلا دیں؛ تاکہ لوگوں تک قرآن کی بات پہنچ سکے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور جائز حدود میں رہ کر اس کی کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تفسیر و اصلاحی مواعد و خطبات میں اصل مقصد مفسر یا واعظ کی آواز پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ مقصود آڈیو (یعنی بلا تصویر آواز کی ریکارڈنگ) سے بخوبی حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے اس مقصد کی خاطر مسجد میں ویڈیو گرافی کی اجازت نہیں دی جاسکتی؛ بلکہ صرف آواز ریکارڈ کر کے اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جائے یا CD بنا کر تقسیم کر دی جائے۔ (کتاب الفتاویٰ ۱۶۸/۱-۱۷۰)

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول:  
 إن أشد الناس عذاباً عند اللہ یوم القیامة المصورون. (صحیح البخاری، کتاب اللباس /  
 باب عذاب المصورین یوم القیامة رقم: ۵۹۵۰ دار الفکر بیروت، صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة /  
 باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ رقم: ۲۱۰۹ بیت الأفكار الدولية، المصنف لابن أبي شيبة ۲۰۰/۵  
 رقم: ۲۰۲۰۹، المسند للإمام أحمد بن حنبل ۴۸۶/۳ رقم: ۳۵۵۹)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في

الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعتة حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى الخ. (نوي على صحيح مسلم ١٩٩/٢)

لاتمثال إنسان أو طير ..... لحرمة تصوير ذي الروح. (شامي / كتاب الحظر

والإباحة ٥١٩/٩ زكريا)

يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً أي سواء كان للصورة ظل أو لم يكن

وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. (الموسوعة الفقهية / الشرط الثالث ١٠٢/١٢،

شامي ٦٤٧/١ كراچی)

الضرورات تبيح المحضورات ..... وما أبيع للضرورة يتقدر بقدرها.

(الأشباه والنظائر ٣٠٧-٣٠٨ مكتبة فقيه الأمة ديوبند) فقط والله تعالى أعلم

كتبة: احقر محمد سلمان منصور پوری ١٢٣٥/٣/٢ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں سونا اور رہائش اختیار کرنا

## مسجد میں کس کے لئے سونا جائز ہے؟

**سوال (۳۹۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف والے سو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے، جماعت والے ہوں یا کوئی مسافر ہو کسی کو بھی جائز نہیں، اس مسئلہ میں ہمارے یہاں پر بہت انتشار ہے، آپ تحریر فرمائیں کہ مسجد میں کتنے قسم کے لوگ سو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو مسجد کے اندر سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، تو وہ غسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر کس طرح نکلے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے فرش پر کوئی کپڑا یا چادر بچھا کر نکل جائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ خوب تیزی سے نکل جانا چاہئے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** معتکف اور ایسا مسافر جس کا کہیں ٹھکانہ نہ ہو، اس کا مسجد میں سونا درست ہے، اور تبلیغی جماعت والے اگر صفائی اور مسجد کے ادب و احترام کا لحاظ رکھیں تو ان کے لئے مسجد میں سونے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۴۶۸/۱، فتاویٰ رحیمیہ ۱۲۱/۶)

عن عبد اللہ بن عمر إنہ کان ینام - وهو شابٌ أعزبٌ لا أهل له - فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. (صحیح البخاری / باب نوم الرجال فی المسجد ۶۳۱/۱)  
ولا بأس للغریب ولصاحب الدار أن ینام فی المسجد فی الصحیح من المذہب والأحسن أن یتورع فلا ینام. (الفتاویٰ الہندیة / الباب الخامس من الکراہیة ۳۲۱/۵)  
نیز اگر مسجد میں سونے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے ہی سے اپنا کپڑا یا بستر بچھا کر سونا

چاہئے، خدا نخواستہ اگر احتلام ہو جائے تو مسجد کی چٹائی اور فرش ناپاک نہ ہو۔ اور جب احتلام کی صورت پیش آجائے تو احتیاط کے ساتھ جلد از جلد مسجد سے نکل جائے اور اگر خدا نخواستہ مسجد کی جگہ ناپاک ہو جائے، تو وہاں کوئی نشانی رکھ دے اور غسل سے واپس آ کر جگہ پاک کرنے کا اہتمام کرے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵۱۲/۱، عزیز الفتاویٰ ۲۱۰/۱)

إذا أجنب في المسجد استحب له أن يراعي أقرب الطرق إلى الخروج.

(إعلام الساجد في أحكام المساجد ۶/۳۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۳/۳

## مقیم کا مسجد میں سونا؟

**سوال (۳۹۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد میں مقیم کو سونا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بلا نیت اعتکاف مقیم شخص کے لئے مسجد میں سونا

درست نہیں ہے۔

وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف. (شامی، کتاب الصلاة / مطلب في

الغرس في المسجد ۶۶۱/۱ کراچی، ۴۳۵/۲ زکریا)

ويكره النوم والأكل فيه: أي المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل

ذلك، ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى.

(الفتاوى الهندية / الباب الخامس من كتاب الكراهية ۳۲۱/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۶/۳/۱۰

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسافر کا مسجد میں سونا؟

**سوال (۳۹۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسافر کو مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسافر کے لئے مسجد میں سونے کی گنجائش ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھے۔

والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف. (الحلبى الكبير / فصل في أحكام المسجد ۶۱۲ سہیل اکیٹمی لاہور)

ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح في المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا، کذا في الدر المختار مع الشامي، كتاب الصلاة / مطلب في الغرس في المسجد ۶۶۱/۱ دار الفكر بيروت، ۴۳۵/۲ زکریا) فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۳/۳/۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## امام کا مسجد کی چھت پر یا اندر سونا؟

**سوال (۳۹۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام مسجد اگر شدت گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر چار پائی ڈال کر سوتے تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر مسجد کے اندرونی حصہ میں بغیر چار پائی کے سوتے تو کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** بلا نیت اعتکاف مسجد میں سونا ممنوع ہے، اور مسجد کی کھلی

چھت پر چڑھنا اور سونا مطلقاً مکروہ ہے۔

ویکرہ ۵ ..... نوم إلا لمعتکف، وتحتہ فی الشامی: وإذا أراد ذلک ینبغی أن ینوی الاعتکاف. (الدر المختار / باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، مطلب فی الغرس فی المسجد ۶۶۱/۱ کراچی، ۴۳۵/۲ زکریا، الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ / الباب الخامس فی آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا، کذا فی الحلبي الكبير / فصل فی أحكام المسجد ۶۱۲ لاہور) والصعود علی سطح کل مسجد مکروہ ۵. (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ / الباب الخامس فی آداب المسجد ۳۲۲/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۱۰/۲۰ھ

## امام کا مسجد میں چھوٹی بچی کو لے کر سونا؟

**سوال (۳۹۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب مسجد کے اندر سوتے ہیں اور ایک چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر سوتے ہیں، جب امام صاحب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بچی شور مچاتی اور چلاتی ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اہل مسجد کو چاہئے کہ امام صاحب کے لئے مسجد کے علاوہ کہیں اور رات میں سونے کا انتظام کر دیں، اور امام صاحب کو چاہئے کہ بچی کو مسجد میں لے کر نہ سویں کہ اس کی حرکت سے نماز میں خلل آتا ہے، اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔

ویحرم إدخال الصبيان ومجانین حیث غلب تنجیسہم (الدر المختار) قولہ: ویحرم لما أخرجہ المنذري مرفوعاً جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ویعکم وشراءکم ورفع أصواتکم وسل سیوفکم وإقامة حدودکم وجمروہا فی الجمع واجعلوا علی أبوابہا المطاہر. (شامی / باب ما یفسد الصلاة وما

یکرہ فیہا، مطلب فی احکام المسجد ۴۲۹/۲ زکریا، کذا فی الأشباه والنظائر / القول فی احکام المسجد ۵/۴۱۴ إدارة القرآن کراچی، الحلبي الكبير / فصل فی احکام المسجد ۶۱۰ لاہور) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۲۲/۱۴۲۰ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اہل محلہ کا گھروں سے آ کر مسجد میں آرام کرنا؟

**سوال (۳۹۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری عادت ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم خدا کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور گھر سے آ کر مسجد میں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں اور جس وقت طبیعت چاہتی ہے اس وقت مسجد میں آ کر آرام سے سوتے ہیں، ہمارا یہ فعل ٹھیک ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** معتکف اور مسافر کے علاوہ عام لوگوں کے لئے مسجد

میں سونے کی عادت بنانا درست نہیں ہے۔

وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب. (الدر المختار) وإذا أراد ذلك ينبغي أن

ينوي الاعتكاف. (شامي، كتاب الصلاة / مطلب في الغرس في المسجد ۶۶۱/۱ کراچی، ۴۳۵/۲ زکریا)

ويكره النوم والأكل فيه: أي المسجد لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل

ذلك، ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى.

(الفتاوى الهندية / الباب الخامس من كتاب الكراهية ۳۲۱/۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۲۲/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

مسجد میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو مسجد سے کس طرح نکلے؟

**سوال (۴۰۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اگر مسجد میں کسی مسافر کو یا تبلیغی جماعت کے کسی ساتھی کو رات کو سوتے ہوئے احتلام کی صورت پیش آ جائے اور اُسی وقت مسجد سے نکل کر غسل کرنے کا موقع یا انتظام نہ ہو، تو کیا اُسی حالت میں تہجد کے وقت تک سونے کی اجازت ہوگی یا مسجد کے فرش پر تیمم کر کے پھر سونے کی اجازت ہوگی؟ اور مسجد سے باہر نکلنے کے لئے کیا تیمم کر کے نکلے گا؟ یا اسی طرح باہر نکل جائے؟ اس شکل میں حالت جنابت میں مسجد میں چلنے کا گناہ تو نہ ہوگا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** مسؤلہ صورت میں جنابت کی حالت پیش آتے ہی تیمم کر کے فوری طور پر مسجد سے نکلنا بہتر ہے؛ لیکن اگر تیزی سے تیمم کئے بغیر نکل گیا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر کسی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا ناگزیر ہو، تو تیمم کر کے ٹھہرے، بغیر تیمم کئے ٹھہرنے سے گناہ ہوگا۔

ولو أجنب فيه تیمم وخرج من ساعته إن لم يقدر على استعمال الماء، وكذا لو دخله وهو جنب ناسياً ثم ذكر، وإن خرج مسرعاً من غير تیمم جاز، وإن لم يقدر على الخروج تیمم ولبث فيه، ولا يجوز لبثه بدونه. (حاشية الطحاوي ۱۴۴)

يحرم عليها وعلى الجنب الدخول في المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور، هكذا في منية المصلي. (الفتاوى الهندية ۳۸۱)

وإن احتلم في المسجد يتيمم للخروج، إذا لم يخف من لص أو غيره لعدم الضرورة، وإن خاف يجلس مع التيمم للضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. (غنية المستملي ۶۱) فقط والله تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۲/۲۰۲۳ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

**ناپاکی کی حالت میں مسجد شرعی کے خارجی حصہ میں جانا؟**

**سوال (۴۰۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں



کہ: مسجد کے بائیں جانب وضو خانہ ہے، اور کچھ زمین پڑی ہوئی ہے، دوسری منزل میں اسی حصہ میں جماعت والوں کا سامان رکھنے کے لئے دو کمرے ہیں، تیسری منزل پر بھی وضو خانہ اور مغربی جانب میں امام صاحب کے لئے فیملی کو اڑھے، آمدورفت کے لئے مسجد سے متصل خارج حصہ میں زینہ ہے، جو تیسری منزل تک گیا ہے، مسجد اور خارج حصہ کے درمیان کسی دیوار وغیرہ کا فاصلہ نہیں ہے، ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں خارج حصہ میں جانے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نیز مسجد بھر جانے کی وجہ سے خارج حصہ میں جو مسجد سے متصل ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے جماعت کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد شرعی کے خارج حصہ سے ناپاکی کی حالت میں گذرنا شرعاً درست ہے، اگر چہ درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو، اور مسجد بھر جانے کی صورت میں جو لوگ مسجد کے شرعی حدود سے باہر کھڑے ہو کر جماعت میں شریک ہوں گے، انہیں جماعت کا ثواب ملے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵۳/۱۲ ۵۳/۱۳ ۵۳/۱۴ ۵۳/۱۵)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، الحديث. (سنن ابن ماجه ۱۰۲)

ولا مصلی عید ولا جنازة فلیس لهما حکم المسجد فی ذلك، وإن کان لهما حکمہ فی صحۃ الاقتداء، وإن لم یتصل الصفوف ومثلہما فناء المسجد.

(شامی ۳۱۲/۱ زکریا)

وفي فتاویٰ قاضی خان: الجبانة ومصلی الجنازة لهما حکم المسجد عند

أداء الصلاة، حتى يصح الاقتداء إن لم تكن الصفوف متصلة، وليس لهما حكم المسجد في حق المرور، وحرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام وإن لم يكن الصفوف متصلة..... وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه. (البحر الرائق ۱۹۵/۱)

إن البقعة الخارجية عن جدران المسجد ليست منه. (منحة الخالق ۱۹۵/۱)

فقط والله تعالى أعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۳۲/۸/۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی چھت پر رہائش اختیار کرنا؟

**سوال (۲۰۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی چھت پر رہائش جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد شرعی کی چھت پر رہائش جائز نہیں ہے۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء. (الدر المختار) وكذا إلى تحت الثرى.

(الدر المختار مع الشامی، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱ کراچی، ۲۸/۲ زکریا)

تكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي؛ لأن سطح المسجد له

حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته (الهداية) لأن سطح المسجد

له حكمه إلى عنان السماء. (فتح القدير مع الهداية، كتاب الصلاة / فصل ويكره استقبال القبلة

بالفرج في الخلاء ۲۰/۱ دار الفكر بيروت، ۳۲/۱-۴۳۴ زکریا، کذا في سکتب الأنهر / فصل في

المكروهات من كتاب الصلاة ۱۹۰/۱ بيروت)

لو جعل مسجداً ثم أراد أن يبني فوقه بيتاً للإمام أو غيره هل له ذلك؟

قلت: قال في التاتار خانية: إذا بنى مسجداً وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه. وفي جامع الفتاوى: إذا قال عنيت ذلك، فإنه لا يصدق. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۲۰۱/۵ المكتبة الماجدية كوثه، ۴۲۱/۵ دار الكتاب ديوبند، النهر الفائق / كتاب الوقف ۳۳۰/۳ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۸/۱ھ

## بیتِ اعتکاف مسجد میں قیام؟

**سوال (۴۰۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ماہ رمضان کے علاوہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، نیز تبلیغی جماعت کے لوگ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** غیر رمضان میں نقلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کے لئے بھی اسی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سرير له وراء أسطوانة التوبة. (فتاوى رشيدية ۴۱۵)  
وأكل ونوم، إلا لمعتكف وغريب. (الدر المختار) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم يفعل ما شاء. (الدر المختار مع الشامى، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها / مطلب في الغرس في المسجد ۴۳۵/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۱/۱۴۲۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت اور دعا کس جگہ پڑھی جائے گی؟

**سوال (۴۰۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اعتکاف کی نیت کہاں سے کی جائے گی؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جہاں سے مسجد شرعی شروع ہوتی ہے وہاں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کی جائے گی، اور وہیں مسجد کے داخلے کی دعاء بھی پڑھی جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۱۸۴ اڈا بحیل، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۲/۱۴۰، کتاب الفتاویٰ ۲۵۸/۴)

عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسئلك من فضلك. (صحيح مسلم ۲/۴۸۱، سنن الترمذي ۷/۱۷۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۳۶/۳/۱۴۳۰ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں اجتماعی طور پر روزہ افطار کرنا؟

**سوال (۴۰۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں اجتماعی طور پر روزہ افطار کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں غیر معتکف اور غیر مسافر کے لئے کھانا پینا وغیرہ درست نہیں ہے؛ اس لئے اگر کسی مصلحت مثلاً مغرب کی نماز باجماعت کے حصول کے لئے مسجد میں اجتماعی افطار کیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ سبھی لوگ کم از کم نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں اور مسجد کو کھانے

پینے کے سامان سے ملوث نہ کریں؛ بلکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰۷/۱۵، ۲۰۷/۱۵ جیل)

ویحرم فیہ الخ، واکل ونوم إلا لمعتکف وغریب. (الدر المختار) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى.

(شامی، کتاب الصلاة / مطلب فی الغرس فی المسجد ۴۳۵/۲ زکریا)

لأن تنظيف المسجد واجب. (رد المحتار / باب الاعتكاف ۴۴۵/۲ دار الفکر بیروت، کذا فی البحر الرائق / باب الاعتكاف ۵۳۰/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۱/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے بالائی حصہ پر کرایہ دے کر رہنا؟

**سوال (۴۰۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: دو منزلہ مسجد ہے، اُس کے بالائی حصہ پر اجرت دے کر رہنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی زمین اوپر آسمان تک مسجد ہی کے حکم میں ہے، کسی اور ضرورت کے لئے اُس کے نچلے اور اوپری حصہ میں کسی طرح کی تعمیر جائز نہیں ہے؛ البتہ خارج مسجد اگر جگہ ہو تو وہاں اجرت دے کر رہنا صحیح ہے۔

و کرہ تحریمًا الوطاء فوقہ ..... لأنه مسجد إلى عنان السماء، وكذا إلى تحت الشرى. (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی أحكام المسجد ۶۵۶/۱ کراچی، ۴۲۸/۲ زکریا)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (الدر المختار) وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء؛ فإنه لا يمكن من ذلك. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب فی أحكام المسجد ۳۵۸/۴ کراچی، ۵۴۸/۶ زکریا)

وفي الفتاوى: سئل أبو القاسم من أراد أن يهدم مسجدًا وبينه أحكم من

بنائه الأول؟ قال: ليس له ذلك. (الفتاوى والتاريخانية، كتاب الوقف / أحكام المسجد ٨٤٤/٥ إدارة القرآن كراچی)

وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد، أو كان وقفاً عليه، صار مسجداً شرنبلالية. قال في البحر: حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية الخ. (ردالمحتار، كتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ٣٥٧/٤-٣٥٨ كراچی)

وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٨] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ٤٢١/٥ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

١٢١٤/٨/١٨ھ



# مسجد کے قریب طہارت خانہ بنانا

## مسجد کے محراب کے پاس استنجاء خانہ بنانا؟

**سوال (۴۰۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ (پچ طاق) محراب کہا جاتا ہے، جو سرکاری سڑک سے ملا ہوا ہے، کیا وہاں پر پیشاب گھر بنانا درست ہے، جو ٹھیک پچ طاق کے پیچھے و برابر سے ہے، ٹھیک اسی کے اوپر (وینٹی لینٹر) روشن دان مسجد کا کھلا ہوا ہے، اس میں ہم نے کولر بھی لگا رکھا ہے، جو پیشاب کی بدبو اندر کو کھینچتا ہے، کیا یہاں پر پیشاب گھر بنانا جائز ہے؟ جب کہ پیشاب گھر پر نہ چھت ہے، نہ گیٹ اور نہ ہی کواڑ ہے، جہاں ہر مذہب کے راہ گیر پیشاب کرتے ہیں، تقریباً سو قدم کی دوری پر عورتوں کے سامان کی دوکانیں ہیں، تمام بستی کی عورتیں اسی گلی سے جس میں استنجاء خانہ بنا رکھا ہے سامان خریدنے کے واسطے گذرتی ہیں، اور شرم محسوس کرتی ہیں، جب کہ ہمیشہ سے یہ سنا اور دیکھا گیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت رخ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور استنجاء خانہ بنانے کے بعد سیکڑوں راہ گیر پیشاب کر رہے ہیں، جب کہ نمازیوں کے واسطے پہلے ہی سے مسجد کے گیٹ کے برابر مسجد کی زمین میں استنجاء خانہ بنا رکھا ہے، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ استنجاء خانہ جماعتیوں کے واسطے ہے، ضد بازی کر کے دوسرا استنجاء خانہ محراب کے پاس بنا کر محراب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس کا نمازیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؛ بلکہ عام لوگوں کا استنجاء خانہ ثابت ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ضد بازی نہ کی جائے شریعت کا حکم مانا جائے، جس سے فساد پیدا نہ ہو اس سلسلہ میں علماء کرام سے رجوع کرنا مسئلہ کا حل ہے، جو سب کو مان لینا چاہئے؟ جو اب دے کر صحیح راستہ نکال دیں جس سے آگے کوئی فساد نہ ہو۔

**الجواب وباللہ التوفیق:** شریعت میں مسجد کو بدبو سے دور رکھنے کی تاکید کی گئی

ہے، اسی بنا پر احادیث شریفہ میں بدبودار اشیاء کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت وارد ہے۔ بریں بنا حسب تحریر سوال مسجد کی محراب کے قریب پیشاب خانہ بنانے سے اگر مسجد میں بدبو پھیلتی ہو، تو اس جگہ پیشاب خانہ ہرگز نہ بنایا جائے۔

ورفع صوت - وأكل ونوم - وأكل نحو ثوم ويمنع منه، وكذا كل مؤذ

ولو بلسانہ. (الدر المختار مع الشامی، ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا / مطلب فی الغرس فی المسجد

۴۳۵/۲ زکریا، کذا فی الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ / الباب الخامس فی آداب المسجد ۳۲۱/۵

زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۰/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## صف کے قریب پاخانہ اور پیشاب گھر؟

**سوال (۴۰۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے صحن میں پاخانہ پیشاب گھر دونوں صف کے قریب ایک گز کے فاصلہ پر ہے، جس کی بدبو سے ساری مسجد میں تمام نمازی پریشان ہیں؛ لہذا یہ دونوں چیزیں دوسری جگہ بنادی جائیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** ان بدبودار استنجاء خانوں کو مسجد کے قریب سے ہٹانا نہ

صرف جائز؛ بلکہ ضروری اور لازم ہے، اگر ذمہ دار ان مسجد نہ ہٹائیں گے تو نگہگار ہوں گے۔

عن عبد العزیز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله

عليه وسلم في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. (صحيح البخاري، كتاب

الأطعمة / باب ما يكره من الثوم والقول ۸۲۰/۲، مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد



عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة ۱۲/۲ ۴ رقم: ۷۰۷ المكتبة الحقانية، ۲۰۰۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

ويمنع منه وكذا كل مؤذ. وفي الشامي: ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولاً أو غيره. (شامي، كتاب الصلاة/ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد ۶۶۱/۱ كراچی، ۴۳۵/۲ زكريا، عمدة القاري ۱۴۶/۳ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۴/۵/۸ھ

## مسجد کے صحن میں لیٹرین کا کنواں بنوانا؟

**سوال (۲۰۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید کا کہنا ہے کہ مسجد کے صحن میں لیٹرین کا کنواں بنوادیا جائے اور اوپر سے سینٹ کا سلپ ڈلوادیا جائے، تو کیا اس پر کوئی نمازی اگر نماز ادا کرے، تو نماز صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد شرعی کے حدود میں نجاست کا گڑھا بنانا قطعاً جائز

نہیں؛ البتہ اگر شرعی حدود کے باہر مسجد کے خارجی حصہ میں بیت الخلاء کا گڑھا بنایا جائے، جیسا کہ عام معمول ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اُس کے اوپر بنے ہوئے سلپ پر بیٹھ کر قرآن پاک اور نماز وغیرہ پڑھنا بھی درست ہے۔

لو جعل الواقف تحته بيتًا للسخاء، هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحًا نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابًا بالمصالح جاز. (شامي ۴۲۸/۲ زكريا)

وإذا أصابت الأرض نجاسة ففرشها بطين أو حص فصلي عليها جاز.

(شامي ۳۸۷/۲ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۰/۲/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نچلے حصہ میں لیٹرین واستنجاء خانہ بنانا؟

**سوال (۴۱۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے نچلے حصہ میں لیٹرین واستنجاء خانہ بنانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر کسی نئی جگہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ ہے، اور ابتداء ہی سے

واقف نے اس کے نچلے حصہ میں استنجاء خانہ اور اوپر کی منزل میں نماز کی جگہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔

ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى

الطريق وعزله، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه. ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز، كما في مسجد بيت المقدس، كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية،

كتاب الوقف / الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ۴۵۵/۲ زكريا)

وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد، أو كانا وقفًا عليه صار

مسجدًا، شرنبالية. قال في البحر: حاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون

سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾

فہو کسرداب بیت المقدس، ہذا هو ظاهر الروایة. (ردالمحتار، کتاب الوقف / مطلب  
فی أحكام المسجد ۳۵۷/۴-۳۵۸ کراچی)

وحاصله إن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق  
العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الحج: ۱۸] بخلاف ما إذا كان  
السرداب أو العلو موقوفًا لمصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس،  
هذا هو ظاهر الرواية. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۲۱/۵ زكريا)  
وإذا جعل تحته سردابًا لمصلحه أي المسجد جاز. (الدرالمختار ۳۵۷/۴ زكريا  
کراچی، البحر الرائق ۲۵۱/۵)

وقال الرافعي: قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز؛  
لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله. (تقريبات الرافعي على الشامي ۸۰/۶ زكريا)  
مگر یہ خیال رہے کہ استنجا خانہ کی بدبو اصل مسجد تک نہ آئے، اور جو پرانی مسجد بنی ہوئی ہو،  
اُس کے کسی حصہ میں بھی استنجا خانہ یا آرام گاہ وغیرہ بنانا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ ابتداء میں  
مطلق تعمیر کی وجہ سے وہ نیچے سے اوپر تک مسجد شرعی بن چکی ہے؛ لہذا اُس میں ترمیم کا کسی کو اختیار  
نہیں ہے۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء، وكذا إلى تحت الثرى. (الدرالمختار مع رد  
المحتار / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱ دار الفكر بيروت، ۴۲۸/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۲/۱۴۱۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے نام پر لی گئی زمین میں وضو خانہ پیشاب خانہ وغیرہ بنانا؟

**سوال (۴۱۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں  
کہ: مسجد کے نام پر جو زمین لی جاتی ہے اُس پر وضو خانہ، پیشاب خانہ اور دوکانیں بھی بنوائی جاتی

ہیں؛ تاکہ اُس کی آمدنی سے مسجد کے اخراجات پورے کئے جاسکیں، کیا یہ آمدنی جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو زمین مصالح مسجد کے لئے لی جائے اور اُسے اصل مسجد (جہاں جماعت ہوتی ہے) میں شامل کرنے کی نیت نہ ہو، تو اُس میں غسل خانے اور دوکان وغیرہ بنانے کی اجازت ہے۔

ولو كانت الأرض متصله ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل داره مسجداً أو خاناً ۳۰۰/۲ زكريا، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في ولاية الوقف ۱۴۱۲ زكريا، فتح القدير، كتاب الوقف / الفصل الأول في المتولي ۲۴۱/۶ مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین میں بیت الخلاء بنانا؟

**سوال (۴۱۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں بیت الخلاء نہ ہونے کی وجہ سے مصلیان اور آنے والی جماعتوں کو دشواری پیش آتی ہے، بریں بناء مسجد کے کسی کنارہ بیت الخلاء بنا سکتے ہیں، یا اس کے لئے الگ سے زمین یعنی ضروری ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کا خارجی حصہ جہاں جماعت نہ ہوتی ہو، اُس میں ضرورت کی بنا پر بیت الخلاء کی تعمیر جائز ہے؛ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اُس کی بدبو نمازیوں تک نہ

پہنچے۔ (کفایت المفتی ۷/۳۷۷: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۶۱۵: ۱۵۴: ۱۵۴) (پیشہ)

لأن تنزية المسجد من القدر واجب . (الحلبي الكبير / فصل في أحكام المسجد

۶۱۲ لاہور، کذا فی رد المحتار / باب الاعتکاف ۴۰۲/۴ دار الفکر بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۲۸/۱۴۲۳ھ

## مسجد کے خارجی حصہ میں بیت الخلاء بنانا؟

**سوال (۴۱۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: میرے گاؤں کرس پورہ ضلع سیتا پور میں کچھ لوگ مسجد میں ایک کنارہ پر بیت الخلاء بنوانا چاہ رہے ہیں، جس سے کہ مسجد میں آنے والے مہمان کو باہر کھیت وغیرہ میں استنجاء کے لئے نہ جانا پڑے، اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں مسئلہ بتانے کی زحمت گوارا کریں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد کے خارجی حصہ میں امام و مؤذن وغیرہ کی

ضرورت کے لئے اس انداز کا بیت الخلاء بنانا جس کی بدبو مسجد تک نہ پھیلے فی نفسہ جائز ہے، اس لئے اگر مسجد کے ذمہ داران مذکورہ مسجد کے خارجی حصہ میں ایک کنارہ پر بیت الخلاء بنانا چاہ رہے ہیں، تو بنا سکتے ہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۳۳۱۴ ڈبہ ۱: ۱۰۱)

وإذا جعل تحته سرداباً للمصالحة أي المسجد جاز كمسجد القدس .

(الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب فی أحكام المسجد ۳۰۷/۴ کراچی، ۵۴۷/۶ زکریا)

وعلة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ويلحق بما نص عليه في

الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولاً أو غيره . (شامي، کتاب الصلاة / باب ما يفسد

الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد ۶۶۱/۱ کراچی، ۴۳۰/۲ زکریا، کبیری ۶۱۰)

إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز؛ لأنه إذا انتفع به عامة

المسلمين، صار ذلك لله تعالى أيضاً، وأما الذي اتخذ بيتاً لنفسه لم يكن خالصاً

لِلّٰهِ تَعَالٰی، فِیْ اِنْ قِیْلَ: لَوْ جَعَلَ تَحْتَهُ حَانُوتًا وَجَعَلَهُ وَقْفًا عَلٰی الْمَسْجِدِ، قِیْلَ: لَا یَسْتَحِبُّ ذَٰلِکَ، وَلٰكِنُّهُ لَوْ جَعَلَ فِی الْاِبْتِدَاءِ هٰکِذَا صَارَ مَسْجِدًا، وَ مَا تَحْتَهُ صَارَ وَقْفًا عَلَیْهِ، وَ یَجُوزُ الْمَسْجِدَ وَالْوَقْفَ الَّذِیْ تَحْتَهُ. (حاشیة الشلبي علی تبیین الحقائق / کتاب الوقف ۲۷۱/۴ دار الکتب العلمیة بیروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری ۱۲/۶/۱۴۳۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین پر تبلیغی اجتماع کے لئے عارضی بیت الخلاء بنانا؟

**سوال (۴۱۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے احاطے میں ایک قطعہ آراضی جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی نے عوام کے تعاون سے برائے توسیع مسجد خریدی تھی، مسجد انتظامیہ کا ارادہ مسجد کو توسیع کرنے کا ہے، وہ آراضی مسجد کے باہری صحن میں آ رہی ہے، اور اس آراضی میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جانے پر رمضان کے جمعوں و عیدین پر اب بھی برابر نماز ہوتی ہے، اب تبلیغی جماعت اپنے ایک دوروزہ عارضی اجتماع کے لئے کچھ عارضی بیت الخلاء بنانے کے لئے انتظامیہ کمیٹی سے اجازت مانگ رہی ہے، مستقل قضاء حاجت کے لئے مسجد کے خارج میں ۹ عدد بیت الخلاء، ۷ عدد پیشاب گھر، ۳ غسل خانے مستقل پکے بنے ہوئے ہیں، اور بیت الخلاء کا زینہ بنا ہوا ہے، اس پر مزید کم از کم ۱۲ بیت الخلاء اور بھی تعمیر ہو سکتے ہیں، اب عارضی بنانے کے لئے کہہ کر مسجد کے باہری صحن میں اسی آراضی پر ۲۵ پختہ بیت الخلاء از بردستی طاقت کے زور پر بنائے گئے ہیں، مسجد انتظامیہ نے مفاد مسجد کے پیش نظر ان کو پختہ تعمیر کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ حضرات نے صرف ایک دو دن کے لئے عارضی بنانے کی اجازت مانگی تھی، اس پر یہ حضرات مسجد انتظامیہ سے جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، اور سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم یہ بیت الخلاء بنا کر رہیں گے، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زمین پر جو کہ عوام کے زرعہ سے مسجد کی توسیع کے لئے خریدی گئی ہے، اور توسیع کی بھی اشد ضرورت ہے؛ کیوں کہ مسجد

کا صحن برآمدہ بننے سے کم ہو گیا ہے، ایسے میں کیا اس جگہ پر بیت الخلاء بنانا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورت مسئلہ میں مسجد کی کمیٹی کی اجازت کے بغیر مذکورہ خرید کردہ اراضی مسجد پر پختہ بیت الخلاء، اور پیشاب گھر بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ تعمیر کردہ بیت الخلاء وغیرہ کو منہدم کر کے یہ جگہ مفاد مسجد میں استعمال کرے۔

ثم اعلم أن العادة في زماننا أن الناظر لا يمكن المستأجر من الغراس إلا بإذنه إذا لم يكن له في الأرض حق القرار المسمى بمشدة المسكة، فينبغي أنه لا يملك ذلك بدون إذنه ولا سيما وفيه ضرر على الوقف. (شامی، کتاب الوقف / مطلب للمستأجر غرس الشجر ۶۷۸۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں بدبودار چیز داخل کرنا

## پیاز کھا کر مسجد میں جانا؟

**سوال (۴۱۵):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: پیاز کھانے کے بعد کیا آدمی مسجد میں جاسکتا ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ پیاز کی بدبو کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بدبودار پیاز کھا کر مسجد میں جانا مکروہ ہے؛ کیوں کہ یہ

نمازیوں اور فرشتوں کی تکلیف کا باعث ہے، اور پیاز کی بدبو منہ سے آتے ہونے کی حالت میں نماز اگرچہ ادا ہو جاتی ہے؛ لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ اور یہی حکم ہر بدبودار چیز کا ہے، جیسے: بیڑی، سگریٹ وغیرہ۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من أكل من هذه الشجرة الممتنة فلا

يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس . (مشكاة المصابيح ۶۸)

ویکروہ ..... أكل نحو ثوم، ویمنع منه، وتحتہ فی الشامیة: أي كبصل

ونحوہ مما لہ رائحة کریہة. (شامی ۴۳۰۱۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاء: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۶/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں گیس سلنڈر جلانا؟

**سوال (۴۱۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے



میں کہ: گیس سلنڈر کو مسجد میں جلانا کیسا ہے؟ جب کہ اس میں مٹی کے تیل کی طرح بد بو ہوتی ہے، اور کیا اندر باہر جلانے میں کوئی فرق ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** گیس جلاتے وقت ابتداء میں معمولی گیس نکلنے کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے اور جلنے کے بعد کوئی ناگوار بو محسوس نہیں ہوتی؛ لہذا مسجد سے باہر جلانے کے بعد اگر مسجد میں اُسے رکھ بھی دیا جائے، تو کوئی حرج نہیں؛ لیکن اگر جلانے کے بعد بدبو محسوس ہوتی ہو تو اُسے مسجد میں لانا اور جلانا مطلقاً ممنوع ہوگا۔

عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب ما يكره من الثوم والبقول ۲/ ۲۰۸، مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۶۸)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۲/ ۱۲۲ رقم: ۷۰۷ المكتبة الحقانية، ۲۰۰۷/ ۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

قوله: المنتنة: أي الثوم ويقاس عليه البصل والفجل وما له رائحة كريهة كالكراث. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۲/ ۱۲۲ رقم: ۷۰۷ حقانية، ۲۰۰۷/ ۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

وأكل نحو ثوم، قال الإمام العيني: قلت علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة ما كولا أو غيره. (رد المحتار على الدر المختار / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في

المسجد ۶۶۱/۱ کراچی، ۴۳۵/۲ زکریا، عمدة القاري ۲۰۴/۴ دار الکتب العلمیة بیروت، الحلبي الكبير / فصل في أحكام المسجد ۴۱۰ امجد اکیڈمی لاہور

وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح به، فلندا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاواه أن قولهم: إن الدهن المنتجس يجوز الاستصحاب به مقيدٌ بغير المساجد، فإنه لا يجوز الاستصحاب به في المسجد، لما ذكرنا. (البحر الرائق، كتاب لصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۴۲۸/۲ زکریا، وکذا في الدر المختار، كتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۱/۱۴۱۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا؟

**سوال (۴۱۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں مٹی کا تیل لے جانا اور مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۲/۳۳۳ میرٹھ، فتاویٰ رشیدیہ ۵۳۹)

عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب ما يكره من الثوم والقول ۸۲۰/۲، مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۶۸)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى

مما يتأذى منه الإنس . (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواقع الصلاة ۱۲/۲ ۴ رقم: ۷۰۷ المكتبة الحقانية، ۲۰۰۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

قوله: المنتنة: أي الثوم ويقاس عليه البصل والفجل وما له رائحة كريهة كالكراث . (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواقع الصلاة ۱۲/۲ ۴ رقم: ۷۰۷ حقانية، ۲۰۰۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

وأكل نحو ثوم ويمنع منه، قال الإمام العيني: قلت علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة ما كولا أو غير هـ . (ردالمحتار على الدر المختار / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد ۱۶۱/۱ كراچی، ۳۵/۲ زكريا، عمدة القاري ۴/۴ ۲۰ دار الكتب العلمية بيروت، الحلبي الكبير / فصل في أحكام المسجد ۴۱۰ امجد اكيڈمی لاهور)

وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح به، فلندا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاواه أن قولهم: إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مقيدٌ بغير المساجد، فإنه لا يجوز الاستصباح به في المسجد، لما ذكرنا . (لبحر الرائق، كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۱/۲ زكريا، وكنا في الدر المختار، كتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱ كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۸/۱۸ھ

## مسجد میں مٹی کے تیل کی لائین جلانا؟

**سوال (۴۱۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک ایسی مسجد ہے جس میں لوگ مٹی کا تیل جلاتے ہیں، اور مٹی کے تیل کا برتن بھی مسجد میں ہی رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑتے ہی لائین میں تیل ڈال کر برتن میں ہی رکھ دیتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ مجبوری کے تحت مٹی کے تیل کا استعمال لائین میں ڈال کر مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مٹی کا تیل بدبودار چیز ہے، اسے مسجد میں جلانا اور رکھنا ناجائز ہے، روشنی کی ضرورت ہو تو ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جن میں بدبو نہ ہو، جن کی آج کل کوئی کمی نہیں ہے۔

عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. (صحيح البخاري، كتاب الأطعمة / باب ما يكره من الثوم والبقول ۸۲۰/۲، مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۶۸)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة ۴۱۲/۲ رقم: ۷۰۷ المكتبة الحنافية، ۲۰۰۱/۲ المكتبة الأشرفية ديوبند)

للحديث الصحيح في النهي عن قربان أكل الثوم والبصل في المسجد.

(شامی ۴۳۵/۲)

وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح

فيه. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۱/۲

زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۱۰/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں ماچس کی تیلی جلا کر چراغ جلانا؟

**سوال (۴۱۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں ماچس کی تیلی جلا کر چراغ روشن کرنا درست ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے اس کو حرام لکھا ہے، اگر یہ حرام ہے تو پھر چراغ کس طرح روشن کیا جائے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** حضرت گنگوہیؒ نے جس دیا سلائی کو مسجد میں جلانے سے منع فرمایا ہے، اُس سے وہ گندھک کی دیا سلائی مراد ہے جس میں بہت زیادہ بدبو ہوا کرتی تھی، اور آج کل جو ماچس کی تیلیاں آرہی ہیں، اُن میں ناگوار بدبو نہیں ہوتی ہے، اور اُس کی ضرورت بھی ہے، اس لئے اُنہیں مسجد کے اندر جلانے کی گنجائش ہے، اور یہ حضرت گنگوہیؒ کے فتویٰ کے خلاف نہیں ہے؛ کیوں کہ مسئلہ کا اصل مدار بدبو ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ اور خود حضرت گنگوہیؒ نے اُسی فتویٰ میں موم کی دیا سلائی کو جائز قرار دیا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ۵۴۷ مکتبہ تھانوی دہلی)

**المستفاد:** ويحرم فيه السوال ..... وأكل نحو ثوم ويمنع منه، وكذا كل مؤذ الخ. (الدر المختار مع الشامي، ما يفسد الصلاة وما يكره فيها / مطلب في الغرس في المسجد ۴۳۵/۲ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۳/۱۵ھ

## مسجد میں اگر بتی جلانا؟

**سوال (۴۲۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گھر اور مسجدوں میں اگر بتی جلانے سے لوگ منع کرتے ہیں، بہت سے تو اگر بتی بجھا دیتے ہیں، اگر بتی سینٹ کی بنتی ہے، پھولوں کی تو بنتی نہیں، اور نہ ہی ملتی ہے، اور سینٹ کا استعمال حرام

ہے، اگر بتی تو مزاروں پر جلائی جاتی ہے، مسجدوں اور گھروں میں نہیں۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے، کئی کئی دن آدمی نہیں نہاتا، کپڑے میلے وغیرہ ہونے کی بدبو اس لئے اگر بتی جلائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں شریعت کا حکم کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر بتی سینٹ سے نہیں بنتی؛ بلکہ خوشبودار مادہ سے بنتی

ہے؛ لہذا خوشبو کے لئے اس کا استعمال ہر جگہ درست ہے، اور مسجد میں تو بدرجہ اولیٰ خوشبو کا اہتمام رکھنا چاہئے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب. (مشكاة المصابيح ۶۹)

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

..... اتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجه، أبواب

المساجد / باب ما يكره في المساجد ۵۴ رقم: ۷۵۰ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ھ۱۴۲۲/۱۶

## مسجد کے صحن میں کھانا پکانا؟

**سوال (۴۲۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مسجد یا صحن مسجد میں تبلیغی جماعت والے کھانا پکاتے ہیں اور مسجد میں کھاتے بھی ہیں، یہ کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی اصل حدود میں (جہاں جماعت ہوتی ہے)

کھانا پکانے کی اجازت نہیں ہے؛ لہذا خارجی حصہ میں ہی کھانا وغیرہ پکانا چاہئے۔ اور بہتر ہے کہ

کھانے کا انتظام بھی مسجد کے باہری حصہ میں کیا جائے؛ تاہم اگر باہر کی کوئی جماعت مسجد میں بدیت

اعتکاف مقیم ہو، تو اُس کے لئے مسجد میں کھانے کی گنجائش ہے۔

ویحرم فیہ السوال ..... وأكل نحو ثوم ویمنع منه، وكذا كل مؤذ .....  
 ونوم إلا لمعتكف وغریب. (الدر المختار) وفي الشامیة: وإذا أراد أن يفعل  
 ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو  
 يصلي، ثم يفعل ما يشاء، كذا في السراجیة. (الدر المختار مع الشامی، ما یفسد الصلاة وما  
 یكره فیها / مطلب فی الغرس فی المسجد ۴۳۵/۲ زکریا، كذا فی الفتاوی الهندیة، كتاب الكراهیة /  
 الباب الخامس فی آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا)

لأن تنظيف المسجد واجب. (شامی / باب الاعتكاف ۴۴۵/۲ دار الفكر بیروت، كذا  
 فی البحر الرائق / باب الاعتكاف ۵۳۰/۲ زکریا) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۱۱/۱۴۲۴ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا

جماعت کھڑی ہوتے وقت رومال سے صفوں کو جھاڑنا؟

**سوال (۴۲۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ جماعت کھڑی ہونے کے وقت صف کو رومال سے اس قدر جھاڑتے ہیں کہ دوسری صفوں تک آواز جاتی ہے، نہ اس کی فکر ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت ہوگی یا رکعت جائے گی، اس طرح کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں بیٹھ کر ہر ایسا کام کرنا مکروہ و ممنوع ہے، جس سے نمازیوں کو اذیت پہنچے؛ لہذا ایسے وقت صف کو رومال سے زور سے جھاڑنا منع ہوگا۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۴/۷۱، فتاویٰ محمودیہ ۱/۷۵ زکریا قدیم)

يكره اللغظ ورفع الصوت في المسجد، ففي مصنف بن أبي شيبة أن عمر  
سمع رجلاً رافعاً صوته في المسجد، فقال: أ تدرى أين أنت؟ (إعلام الساجد بأحكام  
المساجد ۳۲۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۱/۱۹ھ

خنزیر کے بالوں سے تیار شدہ برش سے مسجد کی پتائی کرنا؟

**سوال (۴۲۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سور کے بالوں سے بنے برش سے مسجد کی پتائی ہو رہی تھی، ایک نمازی نے مفتی صاحب سے



کہا کہ حضرت یہ تو غلط ہے، تو مفتی صاحب نے جواب دیا اتنی باریکی پر مت جاؤ، اتنی باریکی میں جاؤ گے تو یہ کپڑے جو پہنے بیٹھے ہو، وہ بھی اتر جائیں گے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو برش مسجد کی رزگائی میں استعمال ہو رہا ہے وہ بعینہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہے، تو اُسے رزگائی میں استعمال کرنا درست اور جائز نہیں ہے، جب تک پختہ یقین نہ ہو تو محض شبہ کی بنا پر اُس کا ترک ضروری نہ ہوگا؛ البتہ احتیاط اور اولیٰ یہ ہے کہ اُسے استعمال نہ کیا جائے۔

ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب: شك طء على أصل حرام، وشك طء على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.....، والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم، ولكن يكره خوفًا من الوقوع في الحرام. (كذا نقل البيهقي على الأشباه، القاعدة الثالثة: ۱۰۰ دیوبند)

وشعر الميتة وغير الخنزير طاهر. (الدر المختار) قال الشامي: قوله: على المذهب: أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية: أن شعره نجس، وصححه في البدائع، ورجحه في الاختيار. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة / باب المياه، مطلب في أحكام الدباغة ۲۰۶/۱ کراچی)

وإدخال نجاسة فيه أي في المسجد، قال الشامي: في الفتاوى الهندية: لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة. (رد المختار، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۶۰/۱ کراچی، لفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب لخماس في آداب المسجد ۳۲۱/۵ زکریا) وكره تحريمًا..... وإدخال نجاسة فيه. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب

الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۵۶/۱ کراچی)

وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد، وهو مصرح

به. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة ۶۱/۲

ذكرها) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱۰/۲۲ھ

## سور کے بالوں سے بنے برش سے مسجد میں رنگ کرنا؟

**سوال (۲۲۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: زید کے محلہ کی مسجد میں رنگائی ہو رہی ہے، رنگائی کرنے والا بکر سفید رنگ کا برش لایا، اُس سے رنگ کرنا شروع کیا، خالد نے جب اس برش سے رنگائی کرتے ہوئے دیکھا تو بولا کہ مسجد تو ناپاک ہوگی؛ کیوں کہ یہ برش سور کے بال کا ہے، اور سور نجس العین ہے، اگر آپ کو رنگ کرنا ہے تو کالے رنگ کا برش لائیے جو گھوڑے کے بال کا ہوتا ہے، تو بکر نے کہا کہ اس سے رنگ کرنا ٹھیک ہے، میں نے فتویٰ دیکھا ہے کہ اس میں ایسی کوئی کیمیکل ملائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس سے رنگ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، اب مسئلہ بالا میں تنازع ہو رہا ہے، صحیح صورت تحریر کریں کہ اس برش سے رنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے برش ناپاک ہوتا ہے، تو جتنا رنگ مسجد میں ہو رہا ہے، اس کے پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اولاً تو معلومات رکھنے والے حضرات سے یہ تحقیق کی

جائے کہ وہ برش جس سے رنگ کیا گیا ہے، وہ واقعی خنزیر کے بالوں سے بنا ہے، اگر یہ بات محقق ہو جائے تو اس سے رنگ وغیرہ کرنا درست نہیں ہے، کسی کیمیکل وغیرہ سے بھی خنزیر کے بالوں کی نجاست ختم نہیں ہوتی، اور لاعلمی کی وجہ سے مسجد میں جو رنگ کر دیا گیا ہے وہ خشک ہونے کے بعد پاک ہو جائے گا۔

وظاهر کلامہم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة - إلى قوله - فعلى

هذا لا يجوز بيعه والانتفاع به. (البحر الرائق ۸۰/۶، فتح القدير ۴۲۵/۶، مجمع الأنهر ۵۹/۲

بیروت، شامی ۷۲/۵ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۹/۱ھ

## خنزیر کے بالوں والے برش سے پوتی گئی مسجد کا حکم؟

**سوال (۴۲۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کسی مسجد و مدرسہ یا گھر میں پکارنگ خنزیر کے بالوں سے تیار شدہ برش کے ذریعہ کر دیا گیا ہو، تو کیا یہ مقام پاک ہے؟ اگر پاک نہیں ہے تو نماز درست ہے یا نہیں؟ نہیں تو کیا کیا جائے، جب کہ اس جگہ ایک بڑی رقم خرچ ہو چکی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** خنزیر کے بالوں والا برش مسجد میں استعمال کرنا ہرگز

جائز نہیں ہے؛ تاہم اگر ضرورۃً استعمال کر لیا گیا تو امام محمدؒ کی روایت کے مطابق اُس سے مسجد کی دیواریں وغیرہ خشک ہونے کے بعد ناپاک نہ ہوں گی۔

قال محمد: إنه لو وقع في الماء لا ينجسه. (كذا في الكبرى ۱۴۴، شامی ۷۲/۵

کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹/۱۱/۱۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں زیب و زینت کرنا

## مسجد اور مدرسہ کی تزئین میں رقم خرچ کرنا؟

**سوال (۴۲۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی بنیادی اور اہم ضرورت کے علاوہ خارجی اور غیر ضروری تعمیر میں رقم خرچ کرنا مثلاً مدرسہ کے باہر بلند قامت سنگ مرمر اور ماربل کا خوب صورت دروازہ بنوا کر رنگ برنگ ٹائلس اور پتھروں نیز لائٹنگ وغیرہ سے اُس کو سجانا یا مسجد و مدرسہ کی دیواروں پر اندروباہر سے ماربل لگوا کر اُس کے حسن کو بڑھانا وغیرہ (کہ ان کاموں سے بنیادی طور پر کوئی فائدہ نہیں) کاموں میں رقم خرچ کرنے سے بھی اُجر و ثواب ہوگا یا نہیں؟ نیز ان کاموں میں رقم خرچ کرنا بہتر ہے یا غرباء و مساکین کی امداد اور اپنے اقرباء کی خبر گیری و اعانت؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں نقش و نگار اور سنگ مرمر اور لائٹنگ وغیرہ

چوں کہ ضروریات مسجد و مدرسہ میں سے نہیں ہے، اس لئے مسجد اور مدرسہ کے عمومی چندہ سے اُن پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر کوئی آدمی خود اپنی جیب سے نقش و نگار اور پتھر وغیرہ لگانے کی رقم دے، تو جائز ہے؛ لیکن اِس کے بجائے یہ رقم مساکین پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ

محمودیہ ۱۷۳۶ھ، احسن الفتاویٰ ۶/۲۵۹)

قوله: ولا نقشه بالحص و ماء الذهب: أي ولا يكره نقش المسجد .....

وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولي، فإنما يفعل من مال الوقف، ما يحكم البناء دون النقش، فلو فعل ضمن حينئذ، لما فيه تضييع المال. (البحر الرائق، كتاب

الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۴/۲ - ۶۵ زكريا)

وليس للقيم أن يتخذ من الوقف على عمارة المسجد شرفاً، أو ينتقش المسجد من ذلك، ولو فعل يكون ضامناً. (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجداً الخ ۲۹۱/۳ زكريا)

وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في رمضان وليلة القدر. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۳۶۰/۵ زكريا)

ولا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ونحوه - إلى قوله - إذا فعل من مال نفسه أما المتولى فلا يجوز أن يفعل من مال الوقف. (حلي كبير / فصل في أحكام المسجد ۶۱۵ لاهور، مجمع الأنهر / باب ما يفسد الصلاة وما يكره منها ۱۲۷/۱ بيروت، ۱۹۰/۱ مكتبة فقيه الأمة ديوبند، الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / آداب المساجد ۳۱۹/۵)

وفى الشامية فى حظر الهندية عن المضمورات: والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى. (شامى، كتاب الصلاة / مطلب: كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره ۴۳۱/۲ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۵/۱۴۲۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زیبائش کیلئے اپنا ذاتی پیسہ سے شیشہ لگانا؟

**سوال (۴۲۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا مسجد کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے کیسے بھی سائز کا آئینہ مسجد کے کسی بھی حصہ میں لگایا جاسکتا ہے؟ یا اُس میں آئینہ کی لمبائی اور چوڑائی کی کوئی حد مقرر ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** زیبائش و آرائش کے لئے اپنے حلال روپے سے

دیوار قبلہ کے علاوہ مسجد کے دیگر حصوں (دیواروں اور چھتوں) پر شیشے لگانے کی گنجائش ہے، مسجد کا پیسہ ان زیبائشوں میں صرف نہ کیا جائے، شیشہ کی لمبائی اور چوڑائی کی کوئی قید نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۹/۲۵۸ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ)

ولا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ونحوه - إلى قوله - إذا فعل من مال نفسه، أما المتولي فلا يجوز أن يفعل من مال الوقف إلا ما يرجع إلى أحكام البناء، حتى لو جعل البياض فوق السواد للبقاء ضمن. (حلبی کبیر / فصل فی احکام المسجد ۶۱۵ لاہور، الدر المختار مع الشامی، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها / مطلب فی احکام المسجد ۴۳۰/۲-۴۳۱ ذکر یا)

وفي الفتح: دقائق النقوش ونحوه مکروه. (مجمع الأنهر، کتاب الصلاة / قبیل باب الوتر والنوافل ۱۹۱/۱ دار الکتب العلمیة بیروت، ۱۹۱۱ مکتبه فقیه الامة دیوبند) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۲/۱۴۱۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں ایسا پتھر لگانا جس میں تصویر نظر آجائے؟

**سوال (۴۲۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض مساجد کی دیوار کے اگلے حصہ میں یا حد و محراب میں ایسے پتھر لگائے گئے ہیں، جن میں بحالت نماز امام صاحب اور مقتدی حضرات کی صورتیں نظر آتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز مکروہ ہوگی؟ اور کیا ایسے پتھر لگانا جائز ہے؟ ایک مفتی صاحب سے معلوم کیا گیا، تو فرمایا ایسا پتھر لگانا جائز نہیں، مکروہ ہے، اور دوسرے مفتی صاحب نے فرمایا: جائز ہے، لیکن تصویر نظر آنے پر نماز میں کراہت آسکتی ہے، جواب تحریر فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں پتھر لگانے کی تو فی نفسہ اجازت ہے؛ لیکن اگر

ایسا پتھر ہو کہ اس میں آئینہ کی طرح صاف تصویر نظر آتی ہو، تو اُس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، اور اگر آئینہ کی طرح صاف تصویر نظر نہ آتی ہو، بلکہ صرف پرچھائیں نظر آتی ہوں تو اُس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لأبأس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي، ويكره التكلف  
بسدقائق النقوش خصوصاً في جدار القبلة. (شامسي، كتاب الصلاة / مطلب كلمة "لا بأس"  
دليل على أن المستحب غيره الخ ۴۳۰/۲-۴۳۱-۴۳۱ زكريا، ۶۵۸/۱ كراچی)

وفي الفتح: دقائق النقوش ونحوها مكروه. (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة / باب ما  
يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: ۱۹۱/۱ المكتبة الغفارية كوثه)

ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في المحراب.  
(فتح القدیر، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: ۴۲۱/۱ مصطفى الباني الحلبي  
مصر) فقط والله تعالى اعلم

کتابتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۱/۱۴۲۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد پر کون سا رنگ لگانا چاہیے؟

**سوال (۴۲۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے اندر تمام طرح کے رنگوں کو استعمال کرنا یا پتھر ہلکے رنگوں کا استعمال کرنا، یا پتھر مسجد کو بالکل سفید کرنا سادگی کے ساتھ، تینوں طریقوں میں سے سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں کون سا رنگ استعمال کیا جائے؟ اس بارے میں شرعاً کوئی تعین ثابت نہیں؛ لہذا کوئی بھی ایسا رنگ جو غیروں کی عبادت گاہ کے مشابہ نہ ہو، مسجد

میں استعمال کیا جاسکتا ہے، اور بہر حال سادگی اور کفایت شعاری کا خیال رکھنا بہتر ہے، اور اس کے لئے سفید رنگ ہونا ہی لازم نہیں؛ بلکہ جو رنگ بھی مناسب ہو؛ استعمال کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ عرصہ دراز سے حرمین شریفین کی تزیین مناسب رنگوں سے بلا تکثیر جاری ہے۔

وإذا جعل البياض فوق السواد، أو بالعكس للنقش لا بأس به، ولا بأس بجعل الذهب والفضة في سقف الدار، وأن ينقش المسجد بماء الفضة من ماله، كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة الخ ۳۱۹/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۸/۱۴۲۸ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی دیواروں پر آیات قرآنیہ کے کتبات نقش کرنا؟

**سوال (۴۳۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شاہان مغلیہ اور مسلم حکمرانوں کے عہد حکومت میں تعمیر شدہ اکثر مساجد میں آیات قرآنیہ کے کتبات مختلف خطوط میں فن خطاطی کے عمدہ شاہ کار کے طور پر لکھے گئے ہیں، نیز حرم کی اور حرم نبوی میں بھی یہ کتبات ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں، کیا کسی مسجد میں آیات قرآنیہ کے کتبات نقش کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت یا حرج تو نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** فقہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دیواروں اور محرابوں پر آیات قرآنیہ وغیرہ لکھنا اچھا نہیں ہے؛ اس لئے کہ عمارت گرنے یا رنگ اکھڑنے کی وجہ سے ان آیات کی بے حرمتی کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔

ولیس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من

سقوط الكتابة وإن توطأ. (البحر الرائق / كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل ۳۷۲/۲ کراچی)



وتكره كتابه القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحارِب  
والجدران وما يفرش الخ. (شامى، كتاب الطهارة / قبيل باب المياه ۱۲۹/۱ كراچى، الفتاوى  
الهنديّة، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المسجد ۳۲۳/۵ كوئٹہ، حلبي كبير / قبيل فصل  
التيّم ۶۰ سهيل اكيلى لاهور)

حرمين شريفين ميں ديواروں پر لکھی آيتوں ميں بھی یہ خطرہ موجود ہے؛ اس لئے کہ ممکن ہے  
کہ کبھی آئندہ توسيع کی ضرورت پڑے اور ديواریں توڑی جائیں، اسی طرح جو لوگ اُس کی صفائی  
پر مامور ہیں، ضروری نہیں کہ وہ وضو اور طہارت کا خیال رکھ کر ہی اُس کی صفائی کریں، اگر بے وضو  
ہاتھ لگائیں گے، تو ان آیات کی بے حرمتی ہوگی وغیرہ۔ نیز جو اہتمام اُن کی حفاظت کا حرمين شريفين  
ميں ہوتا ہے وہ دوسری جگہ متصور بھی نہیں، اس لئے ديواروں پر آیات کی کتابت کی حوصلہ افزائی  
نہیں کی جاسکتی، بالخصوص قبلہ کی ديوار ميں آیات وغیرہ لکھنے ميں نمازیوں کا ذہن مشغول ہونے کی  
خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۵/۱۴۱۹ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی ديواروں پر قرآنی آیات کے طغرے اور یا محمد لکھ کر لٹکانا؟

**سوال (۴۳۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
ميں کہ: مسجد کی ديواروں، مکان یا دیگر مقامات وکاغذات ميں بعض لوگ ”یا اللہ“ کے ساتھ ”یا محمد“  
بھی لکھا کرتے ہیں، اُن کا یہ لکھنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفيق:** ديواروں وغیرہ پر قرآنی آیات کے طغرے لکھنے اور  
لٹکانے کو حضرات فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے، اور یا محمد لکھنا اگرچہ  
اس تاویل کے ساتھ جائز ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ميں درود پیش کرتے ہیں؛

لیکن ایہا مشرک کی وجہ سے نہ لکھنا اور نہ کہنا ہی احوط ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ ۶۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳/۷/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اوقاتِ نماز کے نقشہ کو فریم کرا کے مسجد میں لٹکانا؟

**سوال (۴۳۲):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اوقاتِ نماز کے نقشہ کو لکڑی کے فریم میں لگایا گیا، اور فریم کے چاروں بازو پر سامنے کی ڈیڑھ انچ چوڑی آئینہ کی پٹیاں لگائی گئیں ہیں، اس فریم کے سامنے کھڑے ہونے پر آئینہ میں چہرہ صاف نظر آتا ہے، اس فریم کو مسجد میں مغربی دیوار پر لٹکا دیا گیا ہے جو کہ نمازیوں کے سامنے رہتا ہے، اس سلسلہ میں جناب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مذکورہ فریم مسجد میں لٹکانا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** قبلہ کی دیوار پر ایسا نقشہ وغیرہ لٹکانا مکروہ ہے جس کی

وجہ سے نمازیوں کا دھیان بٹتا ہو؛ لیکن قبلہ کی جانب کے علاوہ دوسری طرف اوقاتِ الصلوٰۃ وغیرہ کا نقشہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه، خصوصاً في جدار القبلة؛

لأنه يلهي قلب المصلي. (حلبی کبیر ۶۱۶ لاہور، کذا فی الدر المختار / باب ما یفسد الصلاة

وما یکرہ فیہا، مطلب کلم لا بأس لہ ۶۵۸/۱ کراچی، ۴۳۲/۳ زکریا، فتح القدیر ۴۲۱/۱ دار الفکر بیروت)

محل الاختلاف في غير نقش المحراب، أما نقشه فهو مكروه؛ لأنه يلهي

المصلي كما في فتح القدیر وغيره ۵. (البحر الرائق / باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا ۶۵/۲

زکریا، الفتاویٰ الہندیہ / الفصل الثانی من کتاب الصلاة ۱۰۹/۱ زکریا، الہدایہ / باب ما یفسد الصلاة

الخ ۱۴۴/۱ المكتبة الأشرفية دہلوی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۲/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## اوقاتِ صلوٰۃ کافریم کس دیوار پر لٹکائیں؟

**سوال (۴۳۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اوقات کافریم مسجد میں کس دیوار پر لٹکایا جائے؟ کیا اس کی بھی کوئی قید ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ فریم قبلہ کی دیوار کے علاوہ دیواروں پر لٹکائیں؛

تا کہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو۔

وقیل: یکرہ فی المحراب دون السقف والمؤخر. (الدر المختار / مطلب کلمة

لا بأس دلیل علی أن المستحب غیرہ الخ ۶۵۸۱ کراچی، ۴۳۱۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۲/۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# مسجد میں تعلیم و تعلم

## مسجد میں طلبہ کا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور قیام کرنا؟

**سوال (۴۳۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کی تیسری منزل پر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں مقامی اور غیر مقامی طلبہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب کہ مسجد کی تیسری منزل پر نماز ہوتی ہے، مسجد کی تیسری منزل پر ہی غیر مقامی طلبہ کا قیام بھی ہے، مسجد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا اور مسجد کے اندر طلبہ کا قیام کرنا شرعاً کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد میں احتیاط کے ساتھ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا درست ہے، اور فقہاء نے مسجد میں مستقل قیام کو مکروہ لکھا ہے، اور صرف معتکف یا مسافر اور پردیسی کو قیام کی اجازت دی ہے، بریں بنا مسئلہ صورت میں بچوں کے قیام کے لئے مسجد سے الگ کسی کمرہ کا انتظام ہونا چاہئے۔

لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف، وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن. (البحر الرائق ۶۰/۲ زکریا، ۳۴/۲ کوئٹہ)

ويجوز الدرس في المسجد وإن كان استعمال اللبود والبواري المسبلة لأجل المسجد. (البحر الرائق ۴۱۹/۵ زکریا، ۲۵۰/۵ کوئٹہ)

تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به. (شامي ۶۱۳/۹ زکریا)

والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه،

والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف. (الحلبى الكبير / فصل في أحكام المسجد ۶۱۲ لاهور فقط واللہ تعالیٰ اعلم)

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۱۱/۱۴۳۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کو آباد رکھنے کے لئے اس میں مدرسہ قائم کرنا؟

**سوال (۴۳۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تقریباً تیس سال قبل چاند پور شوگر مل کے سامنے ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی؛ تاکہ مل میں کام کرنے والے مسلم مزدور اور دیہات سے گنا لے کر آنے والے مسلم کسان نماز ادا کر سکیں، ڈھائی سال پہلے تک ایسا ہی ہوتا رہا، مسجد کا خرچ بھی مل کے مزدور ہی برداشت کرتے رہے؛ لیکن اب حالات اس طرح ہیں، جب سے گورنمنٹ یو پی نے مل کو بیچا ہے تو پرانے مل مزدور نوکری چھوڑ کر چلے گئے، تو مسجد بھی غیر آباد ہو گئی، مسجد میں خاص طور پر مغرب، عشاء اور فجر میں کوئی بھی نمازی نہیں ہوتا، اور اگر امام صاحب کہیں چلے جاتے ہیں تو جب تک امام صاحب نہیں آئیں گے، اذان نماز کسی بھی وقت نہیں ہوگی، مسجد کے اطراف اس طرح ہیں کہ مغرب کی جانب غیر مسلم کا باغ ہے، مشرق میں میں روڈ ہے اور جنوب کی طرف ایک مسلم کا مکان ہے، اور شمال میں مسلم کی تھوڑی سی جگہ کھلی پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد غیر مسلم کی ہی آبادی ہے، مسجد سے تقریباً دو کلو میٹر دور تک چاروں طرف کوئی مسلم آبادی نہیں، تو مسجد کو آباد کرنے کے لئے کچھ حضرات نے یہ سوچا کہ مسجد میں مدرسہ قائم کر دیا جائے، تو تعلیم تو مسجد میں ہوگی اور طلباء بھی مسجد میں قیام کریں گے، مسجد کی کچھ دوکانیں ہیں ان کو مدرسہ کے لئے استعمال مثلاً تعلیم یا قیام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں تنخواہ لے کر تعلیم دینا مکروہ ہے، اگر مسجد میں تعلیم یعنی مدرسہ نہ ہو تو مسجد میں تالا لگ سکتا ہے، تو مسجد آباد رکھنے کی کیا صورت ہے؟ برائے مہربانی جیسی بھی صورت ہو، تحریر فرمائیں؟

**نوٹ:** - کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ مدرسہ شاہی بھی چوں کہ مسجد میں قائم ہوا، اور اب بھی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ مسجد کو آباد رکھنے کے لئے اس میں مدرسہ قائم کرنا شرعاً درست ہے، اور یہ مدرسہ مسجد ہی کے تابع رہے گا، یعنی دونوں کی کمیٹی اور منتظم ایک ہوں گے، مدرسہ کے طلبہ کا قیام مسجد کی شرعی حدود میں نہ کرایا جائے؛ بلکہ ملحقہ عمارت میں یا مسجد کی دوکانوں میں کرایا جائے؛ البتہ حدودِ مسجد میں مدرسہ کی طرف سے تنخواہ دے کر تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ استاذِ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں سے فیس لے کر تعلیم دے۔

**نوٹ:** - مدرسہ شاہی مسجد میں نہیں؛ بلکہ اس سے ملحق عمارت میں قائم کیا گیا تھا، اور آج بھی اصل مدرسہ اسی عمارت میں موجود ہے؛ البتہ ضرورت اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے مسجد کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۴/۲۲ میرٹھ، ۱۴/۵۹۷-۵۹۸ ڈابھیل، کفایت المفتی ۳۲۷/۳۲ زکریا)

وفي حديث طويل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ..... الخ. (صحيح مسلم ۳۴۵/۲)

أما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لا يكره. (الفتاوى الهندية، الباب السابع / الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ۱۱۰/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳۰/۱۰/۲۳ ۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد میں مکتب قائم کرنا اور بچوں سے بلند آواز سے دعاء ماثورہ پڑھوانا؟**

**سوال (۴۳۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: چھوٹے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کے لئے صبح و شام مسجد کے اندر مکتب قائم کرنا اور اُن سے اُدعیہ ماٹورہ و مسنونہ بآواز بلند پڑھوانا آدابِ مسجد کے خلاف تو نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر بچے بچیاں اتنے بڑے ہوں کہ اُن کی وجہ سے مسجد کے ناپاک ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو ایسے بچے بچیوں کو ضرورت کے وقت مسجد کی حدود میں تعلیم دینا شرعاً درست ہے، اور دعائیں یاد کرانے کی غرض سے مناسب بلند آواز سے پڑھانے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ ۶/۴۵۸، فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۲۱۶، ۱۵/۲۱۶) (جمیل)

و یحرم إدخال صبيان ومجانين حیث غلب تنجيسهم والا فيكره (الدر المختار)  
 فقوله: إلا فيكره: أي تنزيهاً، تأمل. (الدر المختار مع الشامی، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد ۶۵۶/۱-۶۵۷-۶۵۷، كراچی، الأشباه والنظائر / القول في أحكام المسجد ۵۴/۴ إدارة القرآن كراچی، وكذا في الحلبي الكبير / فصل في أحكام لمسجد ۶۱۰ لاہور)  
 وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز. (فتاویٰ البزازیة علی هامش الفتاویٰ الهندیة ۳۵۷/۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۷/۱۴۲۷ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مکتب میں جگہ کی قلت کے باعث طلبہ کو مسجد میں پڑھانا؟**

**سوال (۴۳۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد سے متصل ایک مکتب ”تعلیم القرآن“ ہے، مکتب میں جگہ کی قلت کی بنا پر طلبہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ طلبہ کا مسجد میں بیٹھنا صحیح نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر بچوں کی پاکی یا ناپاکی کا اچھی طرح اہتمام رکھا جاتا

ہو، تو جگہ کی قلت کی بنا پر مکتب کے بچوں کا مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا شرعاً درست ہے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسجد میں تعلیم و تعلم اور علمی مذاکرہ کرنا ثابت ہے۔ مسجد میں پڑھانے کی ممانعت اُس وقت ہے جب استاذ ذاتی طور پر اپنے لئے فیس لے کر مسجد میں پڑھاتا ہو، اور یہاں یہ صورت نہیں پائی جا رہی ہے؛ اس لئے کہ استاذ کی تنخواہ کا تعلق مکتب کے ذمہ داروں سے ہے، نہ کہ پڑھنے والے بچوں سے۔

عن عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بمجلسين في مسجده: أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من الآخر صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل؛ وإنما بعثت معلماً. (جامع العلم ۵۰۸)

عن جناب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا الناس فيه حلق يتحدثون، فجعلت أمضى الحلق، حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، قال: فسمعتة يقول: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة! ولا آسى عليهم - أحسبه قال مراراً - قال: فجلست إليه فتحدث بما قضى له ثم قام قال: فسألت عنه بعد ما قام، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه. (طبقات ابن سعد ۵۰۱/۳)

عن هلال بن يساف قال: قدمت البصرة فدخلت المسجد فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية مستند إلى أسطوانة في حلقة يحدثهم، فسألت من هذا؟ قالوا: عمران بن حصين رضي الله عنه. (طبقات ابن سعد ۲۹۱/۴، حياة الصحابة، الترغيب



فلا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد ما بني إلا للصلاة أو اعتكاف و ذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن. (البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۰/۲ زكريا، وكذا في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ۶۳/۴ إدارة القرآن كراچی)

وكذا التأديب فيه: أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر، وينبغي أن يجوز بغير أجر. (البحر الرائق ۲۵۰/۱۵ كوثنه) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۷/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کے بالائی حصہ پر بچوں کو تعلیم دینا؟

**سوال (۴۳۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک تعلیمی ادارہ جس میں قرآن پاک مع دینیات و عصری علوم کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، چوں کہ اس کی عمارت ایک مسجد کے برابر ملحق کمروں میں واقع ہے، جہاں تعلیم ہوتی ہے، اب چوں کہ طلبہ کی کثرت ہو رہی ہے اور درس گاہوں میں طلبہ کی مزید گنجائش نہیں ہے؛ لہذا ایسی حالت میں کیا ہم مسجد کی بالائی منزل کو تعمیر کر کے اس میں مزید تعلیمی سلسلہ جاری کر سکتے ہیں؟ براہ کرم تفصیل سے مذکورہ مسئلہ کی وضاحت فرمادیں کہ شرعاً تو کوئی مانع یا اعتراض نہیں ہے؟ ہم کس طرح مسجد کی جگہ کو تعلیم کے لئے استعمال کر سکیں گے؟ وضاحت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسئلہ صورت میں مسجد کی حدود میں صرف دینی تعلیم

(قرآن کریم و دینیات) کی اجازت ہے، بشرطیکہ پڑھنے والے بچے پاکی ناپاکی کا شعور رکھنے والے ہوں، اگر بے شعور بچے ہیں تو ان کے لئے مسجد میں دینی تعلیم کا انتظام بھی درست نہیں ہے، اور انگریزی و عصری تعلیم مسجد میں کسی کے لئے درست نہیں، ایسی تعلیم کے لئے بہر حال مسجد کی

حدود کے باہر تعلیم کا نظم کیا جائے۔

ویجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود والبوارى المسبلة لأجل المسجد. (البحر الرائق ۲۵۰/۱۵ کوئٹہ، ۱۹۱۵ زکریا)

لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف، وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن. (البحر الرائق ۶۰۱۲ زکریا)

لو علم الصبيان في المسجد لا يجوز يأثم الخ، وأما الصبيان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم الخ. (سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات / باب ما يكره في المساجد ۱۸۹ رقم: ۷۵۰ دار الفكر بيروت، البحر الرائق ۴۱۹۱۵ زکریا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۵/۱۴۲۹ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں فیس لے کر بچوں کو قرآن پڑھانا؟

**سوال (۴۳۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں یا حن مسجد یا خارج مسجد حجرہ وغیرہ میں فیس والے بچوں کو جو کلام پاک یاد بنیات وغیرہ پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جائز ہے، جب کہ اہل مسجد کی طرف سے اجازت ہو۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲/۶۰۲، ۱۵۱ جمیل)

أما للتدريس أو للتدريس فلا؛ لأنه ما بني له وإن جاز فيه ..... ويجوز الدرس في المسجد، وإن كان فيه استعمال اللبود والبوارى المسبلة لأجل المسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۴۱۹۱۵ زکریا)

وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز. (الفتاوى لبزازية على هامش الهندية ۳۵۷/۶)  
 فلا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن  
 المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه  
 وقرآنة قرآن. (البحر الرائق، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۰۲/۲ زكريا، وكذا  
 في شرح الأشباه والنظائر للمحوي ۶۳/۴ إدارة القرآن كراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۹/۸/۱۴۱۶ھ  
 الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی حد سے متصل امام کے حجرہ کے سامنے دینی درس گاہ بنانا؟

**سوال (۴۴۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
 میں کہ: زید کے حجرہ کے سامنے دینی درس گاہ ہے جو مسجد کی حد سے الگ ہے، جس میں نونہالان  
 اسلام قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؛ البتہ بچے وضو خانہ میں پانی پینے اور وضو کرنے آتے  
 ہیں، نیز مسجد کے صحن میں بچوں کی قطار لگا کر کلمے وغیرہ بولے جاتے ہیں، چونکہ مدرسہ میں جگہ کی  
 قلت ہے، اُن کا کہنا ہے کہ اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے؛ لہذا دینی درس گاہ بند کر دی جائے،  
 حالانکہ بچے جوتے چپل پہن کر آتے ہیں اور مسجد و مدرسہ کی حد سے الگ الگ جوتے چپل اُتار کر  
 حدوں میں داخل ہوتے ہیں، کیا موصوف کے کہنے پر مدرسہ بند کر دیا جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مدرسہ بند نہ کیا جائے؛ البتہ بہت چھوٹے بچوں کو مسجد  
 میں داخل کرنے میں احتیاط برتی جائے، جو پاکی ناپاکی میں تمیز نہ کر سکتے ہوں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. (المصنف لعبد الرزاق، باب البيع والقضاء في المسجد

ویحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكروه. (شامی)

۶۵۶/۱ کراچی، ۲۹/۱۲/۴۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۵/۵ھ

## مسجد میں دینی و عصری مخلوط تعلیم دینا؟

**سوال (۴۴۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دینا درست ہے یا نہیں؟ مسجد میں درجہ ایک سے اوپر تک کسی بھی درجہ کی تعلیم دینا جس میں عصری دینی دونوں تعلیم شامل ہیں، درست ہے یا نہیں؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم دینا جائز ہے، البتہ مستقل دنیوی تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يُعلمه كان له كأجر حاجٍ تاماً حجته.  
(رواه الطبراني في الكبير، مجمع الزوائد ۱/۲۳، الترغيب والترهيب مكمل، كتاب العلم / الترغيب في الرحلة في طلب العلم ص: ۴۸ رقم: ۱۴۵ بيت الأفكار الدولية)

لأن المسجد ما بني إلا للصلاة أو اعتكاف و ذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن. (غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ۴/۶۳ إدارة القرآن كراچی، وكذا في البحر الرائق / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۶۰/۲ زكريا)  
وتعليم الصبيان فيه بلا أجر، وبالأجر يجوز. (فتاوى البازية على هامش الهندية ۳۵۷/۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۶/۱۲/۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بالغ لڑکیوں اور بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دینا؟

**سوال (۴۴۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے اپنے گھر میں محلہ والوں سے چندہ کر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے مدرسہ قائم کیا اور دیگر جگہوں سے بھی مدرسہ کے لئے چندہ آیا، جب وہ مدرسہ تیار ہو گیا، تو کچھ سال تک اس میں قرآن کریم کی تعلیم دی گئی، پھر اس مدرسہ کو ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، اور وہ شخص جس نے اس کو فروخت کیا تھا، بچوں کو لے کر قرآن کی تعلیم دینے کے لئے محلہ کی مسجد میں آ گیا، تعلیم پانے والے بچوں میں بالغ لڑکیاں بھی ہیں جو کہ مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں، اور نا سمجھ بچے بھی ہیں جو کہ مسجد کا احترام نہیں کر سکتے ہیں، اور مٹی گارے کے ناپاک پیر لے کر مسجد میں وہ بچے گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی صفوں پر اور مسجد کے فرش پر نماز پڑھنے میں دل کراہت کرتا ہے، اور لڑکیاں زیادہ ہیں، اور بچے مسجد میں بہت زیادہ شور و غل کرتے ہیں۔ آنجناب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس مسئلہ کا وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** بالغ لڑکیوں کا مسجد میں آنا جانا شدید فتنہ کا باعث ہے، اور نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا خاص کر جب کہ وہ ننگے پیر نجاست کے ساتھ مسجد میں آتے ہوں، شرعاً ممنوع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے؛ لہذا مذکورہ شخص کا اس طرح بچوں اور لڑکیوں کو مسجد میں پڑھانا خلاف ادب اور ناجائز ہے۔

عن جسرۃ بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. (سنن أبي داود،

کتاب الطهارة / باب في الجنب يدخل المسجد ۳۰/۱ رقم: ۲۳۲ دار الفكر بيروت)  
 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن  
 تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. (سنن ابن ماجه، كتاب المساجد  
 والجماعات / باب تطهير المساجد وتطبيها ص: ۱۹۱ رقم: ۷۵۸ دار الفكر بيروت)  
 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم الخ. (المصنف لعبد  
 الرزاق / باب البيع والقضاء في المسجد وما يجب المسجد ۴۴۲/۱)

أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء منع (الدر المختار) قوله: أما لو تمت  
 المسجدية ..... وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبنى  
 لا يترك ..... الخ، وبه علم أن قوله: وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم  
 ذلك البناء؛ فإنه لا يمكن من ذلك. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب في  
 أحكام المسجد ۳۵۸/۴ كراچی، وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۴۲۱/۵ زكريا)  
 ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. (شامي  
 ۶۵۶/۱ كراچی، ۴۲۹/۲ زكريا)

ومنها أن يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد، سواء كان  
 للجلوس أو للعبور. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة / الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفس  
 الخ ۳۸۱/۱ زكريا، وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الطهارة / فروع ۶۰-۶۱ لاهور) فقط والله تعالى أعلم  
 كتيبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۳/۱۲ھ

مسجد سے متصل مکتب میں عورت کا بچوں کو دینی تعلیم دینا؟

سوال (۴۴۳): کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

|                                |
|--------------------------------|
| مسجد                           |
| صحیح مسجد                      |
| یہاں لوگ جوتا وغیرہ اتارتے ہیں |
| اس جگہ مدرسہ مکتب ہے           |

نقشہ بالا میں مکتب اور صحیح مسجد کے مابین کوئی حائل نہیں ہے، اور اس مکتب میں ایک عورت کو بچوں کو تعلیم دینے کے لئے متعین کیا گیا ہے، جب کہ اس عورت کی آواز مسجد میں پہنچتی ہے، اب ایسی صورت میں ایسے مکتب میں عورت کا آنا اور اُس کا پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مکتب کی جگہ چوں کہ مسجد سے خارج ہے، اور وہاں عورت کے آنے میں بظاہر کوئی فتنہ نہیں ہے، اس لئے عورت پڑھانے کے لئے وہاں جاسکتی ہے؛ البتہ دروازہ وغیرہ بند کر کے ایسا انتظام کیا جائے کہ عورت کی آواز مسجد میں نہ آئے؛ تاکہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو۔

فحل دخوله لجنب و حائض كفناء مسجد و رباط و مدرسة. (الدرالمختار،

كتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، ۴۳۰/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۴/۶/۲۸ھ

**مسجد کے اندر طلبہ کا پروگرام کرنا اور ڈرامہ اور مکالمہ دکھانا؟**

**سوال (۴۴۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے اندر طلبہ کرام کا تقریری پروگرام کرنا جس میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر مسجد کی شایان شان نہیں، مثلاً مسلم اور غیر مسلم کے مابین فسادات دکھلاتے وقت اُن کے لباس

اختیار کرتے ہیں، اور اُن کے طرز عمل کو مسجد میں دکھلاتے ہیں، جس سے ناظرین کبھی شور مچاتے ہیں، کبھی زور سے ہنستے ہیں، جب کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک شخص کو مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کرنے کی وجہ سے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح پروگرام کرنا اور اُس میں شرکت کرنا شرعاً کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد میں فی نفسہ تقریری پروگرام تو جائز ہے؛ لیکن کوئی ایسی حرکت کرنا جو آدابِ مسجد کے خلاف ہو، مثلاً ڈرامہ کی شکل میں لباس وغیرہ بدل کر پروگرام پیش کرنا، یا ایسی بات کرنا جس سے مسجد میں خواہ مخواہ شور و غل ہو جائے، ہرگز جائز نہیں؛ اس لئے ایسے ممنوع پروگرام بالخصوص مسجد میں ہرگز نہ کئے جائیں۔ (مستفاد: فتاویٰ مجموعیہ ۳۵۹/۲۳ میرٹھ، امداد الفتاویٰ ۶۳۴/۲) و آداب المسجد ترجع إلى معان: منها: تعظیم المسجد، ..... و منها:

تنظيفه مما يستقذر ويتنفر منه، و منها: الاحتراز عن تشويش العباد وهيشات الأسواق الخ. (حجة الله البالغة / المساجد من شعائر الله ۲۰/۲-۲۱ مکتبہ حجاز دیوبند)

ذکر الفقیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی التنبیہ حرمة المسجد خمسة عشر، السادس: منها: أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى، السابع: أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا.....، الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمر الدنيا. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المساجد ۳۲۱/۵، نفع المفتى والسائل ۳۸۱ مکتبہ الصديقية، الحلبي الكبير / فصل في أحكام المسجد ۶۱۰ لاہور) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۶/۱۶/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد میں فیس لے کر دینی تعلیم دینا؟

**سوال (۴۴۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے



میں کہ: ایک مسجد کے اندر تعلیم قرآن کا سلسلہ چند ماہ سے چل رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اُس کا قیام مسجد کے اندر کیا گیا ہے، باہر کسی اور جگہ کا بالکل کوئی نظام نہیں ہے، اس کو فروغ دینے اور سنبھالنے کے لئے ایک مستند و مشاق قاری و عالم دین کو بٹھا رکھا ہے، پڑھنے والے طلبہ پر ماہانہ فیس مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ طلبہ بخوشی ادا کرتے ہیں، اور یہی درحقیقت معلم صاحب کی تنخواہ کا واحد ذریعہ ہے، چندے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اب ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نظام شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر فیس لے کر تعلیم دینا جائز نہیں؛ لہذا آپ فیصلہ فرمادیں۔ نیز یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس عمل میں دخل اندازی کرتا ہے اور نظام کو بند کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق مسجد شرعی کے

حدود میں بچوں سے فیس لے کر تعلیم کا جو سلسلہ قائم کیا گیا ہے، یہ نامناسب اور خلافِ اولیٰ ہے؛ البتہ اگر یہ صورت اپنائی جائے کہ معلم صاحب پڑھنے والے سے بذاتِ خود فیس وصول نہ کریں؛ بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اُن کا ذمہ دار ہو، اور پھر ماہانہ بطور تنخواہ معلم کو مشاہرہ دیا کرے، تو اس صورت میں مسجد کی حدود میں پڑھانے میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، چنانچہ فتاویٰ بزازیہ وغیرہ کی عبارت سے فی الجملہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

و تعلیم الصبیان فیہ بلا أجر وبالاجر یجوز . (بزازیہ علی ہامش الہندیہ، کتاب

الکراہیۃ / الباب الثانی فی العبادات، نوع فی المسجد ۳۵۷/۶)

معلم الصبیان بأجر لو جلس فیہ لضرورة الحر لا بأس بہ، و کذا التعلیم

إن بأجر کرہ إلا للضرورة وإن حسبیة لا . (بزازیہ علی ہامش الہندیہ، کتاب الصلاة / الباب

السادس والعشرون فی حکم المسجد ۸۲/۴ کوئٹہ)

أما المعلم الذی یعلم الصبیان بأجر إذا جلس فی المسجد یعلم الصبیان

لضرورة الحر أو غیرہ لا یکرہ . (الفتاویٰ الہندیہ ۱۱۰/۱، المحلی الكبير ۶۱۱-۶۱۲)

وعلى هذا الفقهاء إذا كانوا يكتبون الفقه بالأجر في المسجد يكرهه، وإن كان بغير أجر، لا وفي كراهية العيون، معلم جلس في المسجد، أو وراق كتب في المسجد، فإن كان المعلم يعلم بالأجر، والوراق يكتب لغيره بأجر، يكره لهما إلا أن يقع لهما الضرورة. (الفتاوى الشارعية، كتاب الكراهية / الفصل الخامس في المسجد والقبلة وغيرها ۶۶/۱۸ رقم: ۲۸۰۴۷ زكريا، فتح القدير، كتاب الصلاة / باب علق المسجد ۴۳۳/۱ دارالفكر بيروت، البحر الرائق، كتاب الوقف / فصل في أحكام المساجد ۱۹/۵، خلاصة الفتاوى ۲۲۹/۱، الموسوعة الفقهية ۲۰۶/۳۷) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۷/۱۴۳۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین میں مسجد کی آمدنی سے مکتب کی تعمیر کرانا؟

**سوال (۲۳۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) مسجد کے پڑوس میں مسجد کی زمین کا ایک حصہ خالی پڑا ہے، اس حصے میں بچوں کا مکتب مسجد کی آمدنی سے تعمیر کرا سکتے ہیں یا نہیں؟  
(۲) بچوں کو پڑھانے کے لئے مکتب میں ایک معلم رکھا، اس کی تنخواہ مسجد کی آمدنی سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱-۲) مسجد کی کمیٹی کے تحت اس کی نگرانی میں مسجد کی خالی پڑی ہوئی زمین میں بچوں کی دینی تعلیم کے لئے مکتب تعمیر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس مکتب کے معلم کی تنخواہ بھی مسجد کے فنڈ سے دینا جائز ہے۔

الشامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة، قال في الخانية معزياً إلى أبي بكر البلخي: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۵/۵ کوئٹہ)

ویداً من غلته بعمارتہ، ثم ما هو أقرب لعمارتہ، کإمام مسجد و مدرس  
مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (الدر المختار) أي فإن انتهت عمارتہ و فضل من  
الغلة شئ، والذي ویداً به من ارتفاع الوقف. أي من غلته عمارتہ شرط الواقف  
أولاً، ثم إلى ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد و المدرس  
للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج و البساط كذلك إلى آخر  
المصالح. (الدر المختار مع الشامی ۵۵۹/۶-۵۶۱-۵۶۱ زکریا، کذا فی البحر الرائق / کتاب الوقف ۳۵۶/۵

زکریا الفتاوى الهندية، کتاب الوقف / مطلب: یداً من غلة الوقف بعمارتہ ۳۶۸/۲ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۰/۱۲/۱۴۳۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی موقوفہ زمین میں سرکاری اسکول قائم کرنا؟

**سوال (۴۴۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی زمین گیارہ گھنٹا چار دھور ہے، مگر سرکاری مال گذاری رسید جو مسجد چیرام کے نام سے  
کٹ رہی ہے، اس میں صرف دس گھنٹا ساڑھے سات دھور زمین ہے، جس کا مال گذاری رسید نمبر  
۵۷ ہے، جو بہار اسٹریٹ سنی وقف بورڈ ۳۳ ہارڈھنگ روڈ علی امام متھ پٹنہ ۱۰ کے وقف ہے، وقف  
نمبر ۵۳۲ ہے۔

مسجد کی وقف کردہ زمین میں متولی کی معرفت سے بہار سرکار نے سرکاری کتب کا مکان  
بنادیا ہے، جس میں کچھ بچے ابھی تعلیم پا رہے ہیں، کیا اس طرح سے مسجد کی زمین میں بہار سرکار کا  
کتب بنانا جائز ہے یا ناجائز؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد کی موقوفہ زمین میں سرکاری اسکول مفت میں قائم

کرنا جائز نہیں؛ البتہ اگر اسکول کی طرف سے مسجد کو معقول کرایہ ادا کیا جائے اور اس کا وقت بھی

متعین کیا جائے تو گنجائش ہو سکتی ہے، اگر وقت مقررہ پر اسکول والے مسجد کو کرایہ ادا نہ کریں تو مسجد والوں کے لئے اس اسکول کو خالی کرانے کا حق ہوگا۔

أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال، فللقاضي أن يصرف في ذلك، لكن على وجه القرض، فيكون ديناً في مال الفيء. (الفتاوى الهندية / كتاب الوقف ۴۶۴/۲)

لا يملك الاستدانة إلا بأمر القاضي. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في إفتاء الناظر الوقف ۴۴۰/۴ دار الفكر بيروت، ۶۵۸/۶ زكريا)

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصصه ولا يخلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزائنه، وليس فيها ما يفي به، يستقرض من خزائنه غيرها، ثم إذا حصل التي استقرض لها مال يرد إلى المستقرض. (رد المحتار، كتاب الزكاة / باب العشر، مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها ۳۳۷/۲ كراچی)

وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتاً يخصصه ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن الكل نوع حكماً يختص به، فإن لم يكن في بعضها شيء، فلا إمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر، ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه. (تبيين الحقائق، كتاب السير / باب العشر والخراج والحزبية ۱۷۱/۴ دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في البحر الرائق، كتاب السير / باب العشر والخراج والحزبية ۲۰۱-۲۰۰ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۳۶/۲/۲۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# متفرقات احکام مساجد

## گنے کی کھوئی سے مسجد کا پانی گرم کرنا؟

**سوال (۴۴۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کی طرف سے گنے کا رس نکالنے کے کولہو لگائے جاتے ہیں، اس سے آدمی گنے کا رس نکال کر اس کی کھوئی وہیں چھوڑ جاتے ہیں، اس کھوئی سے مسجد کا پانی گرم ہوتا ہے جو نمازیوں کے وضو وغیرہ میں کام آتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** کھوئی کے مالکان کا اپنی کھوئی کولہو میں چھوڑ آنا اس

بات کی دلیل ہے کہ اُن کی طرف سے کھوئی کو استعمال کی اجازت ہے؛ لہذا دلالتاً اجازت کی وجہ سے اُس کھوئی کا مسجد کے پانی گرم کرنے میں استعمال کرنا درست کہا جائے گا۔

كما استفاد من قوله في رد المحتار: ويقوره أن مجرد الإلقاء من غير

كلام يفيد هذا الحكم، كمن ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره، فمن أخذ

شيئاً ملكه؛ لأن الحال دليل على الإذن. (رد المحتار، كتاب اللقطة / مطلب: له الأخذ من

نثار السكر في العرس ۲۸۵/۴ کراچی، ۴۴۶/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۰/۱۲/۱۸ھ

## مسجد میں اگر بتی جلانے پر جنت کے آٹھوں دروازوں سے

## داخل ہونے کا عقیدہ؟

**سوال (۴۴۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور صبح و شام اگر بتی جلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو جاؤں گا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مسجد خدا کا گھر ہے، اگر بتی یا کسی اور خوشبو سے اس کو

خوشبودار کرنا مستحب اور باعثِ ثواب ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه

وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب. (مشكاة المصابيح / باب المساجد

ومواضع الصلاة، الفصل الثاني ٦٩١، سنن أبي داؤد ٦٦١)

وفي المرقاة: قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد

بالبخور خلافاً لما لك حيث كرهه. فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد

عمر رضي الله عنه على المنبر. واستحب بعض السلف تخليق المسجد

بالبزغفران والطيب. وروي عنه عليه السلام فعله، وقال الشعبي: هو سنة. (مرقاة المفاتيح

٣٩٣/١ دار الكتب العلمية بيروت)

البتہ ایسا کرنے سے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا اعتقاد

بلا دلیل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۶/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**مسجد کیلئے زمین دینے والے کا مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا؟**

**سوال (۳۵۰):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کسی شخص نے مسجد کے لئے زمین دی، اور اس میں مسجد بھی تعمیر ہوگئی، اور وہ آدمی جس نے

مسجد کے لئے زمین دی تھی، اُس نے اپنی زمین کو بنام مسجد رجسٹری نہیں کی، کچھ عرصہ گزر گیا تو محلہ

کے چند آدمی سے بھگڑا ہوا، تو زمین والے نے اُن چند آدمیوں کو اُس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور کہا کہ تم لوگ اپنی دوسری مسجد کا انتظام کر لو، میں اس مسجد میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، جب کہ یہ مسجد نمازیوں کی بالکل خالی رہتی ہے، تو یہ چند آدمی اپنی اپنی نماز اپنے اپنے دروازہ پر ادا کرتے ہیں، تو ان چند آدمیوں کا مسجد سے روکنا اور ان کا نہ جانا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جب مسجد تعمیر ہوگئی اور شرعی طور پر مسجد بن گئی، تو اَب اُس میں شرعاً وقف یا کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی محلہ والے کو روک دیں، جن لوگوں کو روکا گیا ہے وہ نماز کے وقت اُس مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

و کما کرہ غلق باب المسجد (الدر المختار) قال في البحر: وإنما کرہ لأنه يشبه المنع من الصلاة. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (الدر المختار مع الشامي ۶۵۶/۱ کراچی، ۴۲۸/۲ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۳/۱۱/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی دیواروں میں کبوتر پالنے کے لئے سوراخ کھولنا؟

**سوال (۴۵۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: محلہ جو اکھر ضلع بھاگل پور کے باشندگان نے اپنی مسجد تعمیر کرتے وقت مسجد کی دیوار کے باہری جانب کی آمدنی کے لئے ۳۰-۳۵ سوراخ چھوڑے ہیں، اور اس میں کبوتروں کو پال رہے ہیں، اور کبوتروں کی آمدنی مسجد میں آتی ہے، مگر جنگلی کبوتروں کی بیج و شراہ کی دشواری، نیز کبوتروں کے ذریعہ چھت کی گندگی کا لحاظ کرتے ہوئے اراکین مسجد کمیٹی کبوتروں کے سوراخوں کو بند کر کے کبوتر ہٹانا چاہتے ہیں، مگر ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سوراخوں کو بند کرنے سے کبوتروں کو تکلیف ہوگی اور کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، وہ کسی کتاب کا عربی متن بھی پیش کرتے ہیں، مسجد

کی صفائی اور عمارتوں کی خوبصورتی کی بقاء اور بیچ و شراء کی وجہ سے سوراخوں کو بند کرنا کیسا ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جب کہ کبوتروں کی وجہ سے نمازیوں اور مسجد کے احترام میں فرق آتا ہے، اور ان کی وجہ سے مسجد میں کوڑا کرکٹ اور بیٹ جمع ہو جاتی ہے، تو بلاشبہ کبوتروں کے سوراخوں کو بند کر دینے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جو صاحب اس کے خلاف عبارت پیش کرتے ہیں، وہ معتبر کتابوں کے حوالہ سمیت عبارت سے ہمیں مطلع فرمائیں؛ تاکہ اُس پر غور کیا جاسکے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كل ذي روح، إلا أن يؤذي. (المعجم الكبير للطبراني ۹۱۱۲ رقم: ۱۲۶۳۹)

مستفاد: وهل يجوز قتل الوطأويط لتلويثها حصر المسجد بخرنها الفاحش؟  
فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها وقتل المودي منها ومن الدواب جائز.

(شامی، کتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء ۴۰۱/۶ کراچی، ۵۷۵/۹ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۴/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مساجد اور دینی اداروں کے تحفظ کا شرعی حکم؟

**سوال (۳۵۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بابر می مسجد، کاشی، مٹھرا، درگاہ یا کوئی دینی ادارہ کے لئے لاکھوں لوگوں کی جان و مال کو لگایا جاتا ہے، یہ ادارے بچانے چاہئے یا نہیں؟ یا وقت کے تقاضہ پر یا حکمت عملی اختیار کر کے اس کو غیر مذہبوں کے حوالے کر دیا جائے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اپنی مساجد، مدارس اور دینی اداروں کو بچانے کے لئے



دستور کے دائرہ میں رہتے ہوئے ہر ممکن جدوجہد کرنی لازم ہے، اور کسی بھی صورت میں اپنی کسی بھی مسجد کو غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہئے، مساجد اور اوقاف کی زمینیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دوسروں کے حوالے کر دے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مِنْ كَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِيهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة / باب وجوب الزكاة ص: ۳۳۲ رقم: ۱۳۹۹ دار الفكر بيروت، مرقاة

المفاتيح، كتاب الزكاة / الفصل الثالث ۲۴۷/۴ رقم: ۱۷۹۰ دار الكتب العلمية بيروت)

فإذا تم ولمزم لا يملك أي لا يكون مملوگًا لصاحبه، ولا يملك أي لا يقبل التملك لغيره بالبيع، ونحوه لاستحالة تملك الخارج عن ملكه. (شامي ۵۳۹/۶ زكوة فقط واللہ تعالیٰ اعلم)

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۹/۸/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## کسی شخص کو بلا عذر محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا؟

**سوال (۴۵۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک صاحب جو محلہ کے رہنے والے ہیں، انہیں ایمان دار اور بزرگ سمجھ کر ایک نو تعمیر مسجد

میں پیش امام بنا دیا گیا، اُن صاحب نے مسجد میں مختلف اقسام کی بدعنوانیاں کیں، اس وجہ سے امامت سے برطرف کر دیا گیا، علماء کرام نے انہیں امامت سے برطرف کرنے کا فتویٰ جاری کیا، جو اس تحریر کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے:

اپنی برطرفی کے بعد اُن صاحب نے اپنی برادری کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنا شروع کیا کہ فلاں برادری کے لوگوں نے ہم لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا؛ لہذا اپنی ایک الگ مسجد تعمیر کرنی چاہئے، یہاں یہ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے کہ اس محلّہ میں دو مساجد قریب قریب ہی واقع ہیں جو کہ کافی کشادہ ہیں، اور تمام محلّہ کے نمازیوں کے لئے کافی ہیں، بہر حال اُن صاحب کے ورغلانے پر اُن کی برادری کے افراد نے بجائے اس کے کہ جگہ خرید کر مسجد کے لئے وقف کرتے اور اُس پر مسجد تعمیر کرتے، محلّہ میں افتادہ تقریباً ایک سو مربع گز ایک تھوئیہ پلاٹ پر قبضہ کیا، اس پلاٹ میں میونسپل بورڈ کا ایک کنواں ہے، اور باقی اہل تشیع حضرات کا قبرستان ہے، ان لوگوں نے بغیر اجازت اہل تشیع اور میونسپل بورڈ کی جگہ پر چرم قربانی اور زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ اکٹھا کر کے ایک مختصر سی عمارت تعمیر کر لی اور اُسے مسجد اور دینی مدرسہ کا نام دے دیا، اور یہاں بغیر سرکاری اجازت کے اذان و نماز شروع کر دی، اور اپنی برادری کے لوگوں کو دوسری مساجد میں نماز کے لئے جانے سے روکتے ہیں، کیا کسی شخص یا افراد کو بلا وجہ کسی مسجد میں نماز کے لئے جانے سے روکنا اور کسی دوسری مسجد میں نماز کی ترغیب دینا درست ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** کسی مسجد سے بلا وجہ کسی نمازی کو روکنے کی اجازت

نہیں ہے۔

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا

اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة، جزء آیت: ۱۱۴]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشاً منعوا النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (تفسير ابن كثير مكمل ص: ۱۰۹ دار السلام رياض) فقط  
والله تعالى اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۹ھ/۲۰/۳۰

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟

**سوال (۲۵۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: اپنے قریبی محلہ کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جو مسجد گھر کے زیادہ قریب ہو اس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

أفضل المساجد مكة، ثم المدينة، ثم القدس، ثم قبا، ثم الأقدم، ثم الأعظم، ثم الأقرب، (الدر المختار) وفي الشامية: ثم الأقدم أفضل لسبقه حكماً إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته؛ فإنه أفضل حينئذٍ لسبقه حقيقةً وحكماً.

(شامی / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب: فی أفضل المساجد ۶۵۹/۱ کراچی، ۴۳۲/۲

زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴ھ/۵/۶

## مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرنا اور مسجد کی بجلی استعمال کرنا؟

**سوال (۲۵۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مسجد کے اندر مجلس نکاح کے انعقاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا لوگوں کو اس پر عمل کی ترغیب دی جاسکتی ہے؟ اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا معمول رہا ہے؟

اور مجلس نکاح کے دوران سیکھے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ استعمال کر کے مسجد کی بجلی خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو بوجہ احتراز مشکل ہونے کے جواز کی کوئی صورت ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق:** نکاح کی مجلس مسجد میں منعقد کرنا مسنون اور پسندیدہ

ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔

ويستحب عقد النكاح في المسجد قاله أبو عمرو بن الصلاح، واجتمع

بحدیث: ”أعلنوا النكاح في المسجد“. (أعلام الساجد بأحكام المساجد ۳۶۰، الدر

المختار / كتاب النكاح ۶۶۴ زکریا)

اور نکاح کی مجلس اگر ایسے وقت میں منعقد ہو جب کہ نمازیوں کی ضرورت سے سیکھے وغیرہ

چل رہے ہوں، تو ان پیکھوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نماز کے علاوہ وقت

میں مستقل طور پر مسجد کی بجلی استعمال کی جائے تو نکاح والوں کو چاہئے کہ اس کا معاوضہ مسجد کے فنڈ

میں جمع کرا دیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۱۰۶/۶)

هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد؟ والجواب فيه أنه إن كان

موضوعاً للصلاة فلا بأس به، وإن وضع لا للصلاة بأن فرغوا من الصلاة وذهبوا،

فإن أضر إلى ثلث الليل لا بأس به، وإن أضر أكثر من ثلث الليل ليس له ذلك.

(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية / الباب الخامس في آداب المساجد ۳۲۲/۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۹/۸/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**جمعہ کی نماز سے قبل گولک گھما کر چندہ کرنا؟**

**سوال (۳۵۶):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: جمعہ کی نماز سے قبل گولک گھما کر چندہ کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بعض جگہ دستور ہے جب کہ

بعض لوگ سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو گھڑ گھڑکی آواز نکلتی ہے، نیز سنتیں پڑھنے والوں کے آگے سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ دریں صورت نماز میں خلل لازمی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر گولک کو بہت آہستہ سے آگے بڑھایا جائے کہ آواز نہ نکلے یا معمولی سی نکلے، اور نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں؛ بلکہ پیچھے سے نکال دیا جائے، تو کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر آداب مسجد کی رعایت رکھتے ہوئے اور نمازیوں کا

خیال کرتے ہوئے گولک گھمائی جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔

قولہ: ويكره التخطي للسؤال، (المختار المختار) قال في النهر

والمختار: إن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا

يسئل إلحافاً؛ بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء، ومثله في البرازية.

(شامی، کتاب الصلاة / باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سوال المسجد ۱۶۴/۲ کراچی، ۴۲/۳

زکریا، فتاویٰ بنزازیة / الفصل الثالث والعشرون في الجمعة ۷۶/۲، النهر الفائق / باب صلاة الجمعة

۳۶۵/۱ إمدادية ملتان)

لیکن آج کل مسجد کے ادب کی بالکل رعایت نہیں رکھی جاتی اور نہ اس پر تقابو پایا جاسکتا ہے؛

اس لئے کہ گولک کو آگے بڑھانے والے مختلف طبعیت کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی آواز سے

نماز پڑھنے والوں کی طبعیتیں مشوش ہوتی ہیں، اس لئے عام حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت

کسی طرح نہیں دی جائے گی۔

وفيهسا ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على الصفة المذكورة. (شامی، باب

الجمعة / مطلب في الصدقة على سوال المسجد ۱۶۴/۲ کراچی، ۴۲/۳ زکریا)

لہذا چندہ کا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے مسجد کے ادب میں اور نمازیوں کی

نماز میں خلل نہ پڑے، مثلاً دروازوں پر گولکیں نصب کر دی جائیں اور اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اپنا عطیہ اس میں ڈالائیں۔

عن عبد اللہ بن عامر الیحصبی قال: سمعت معاویة رضی اللہ عنہ یقول: ..... سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: إنما أنا خازن، فمن أعطیته عن طیب نفسی فمبارک له فیہ، ومن أعطیته عن مسئلة وشره، کان كالذی یأکل ولا یشبع. (صحیح مسلم، کتاب الزکاة / باب النهی عن المسئلة ۳۳۳/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۵/۱۴۱۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ



# احکام عید گاہ

## عید گاہ کی تعریف اور مسجد میں تبدیل شدہ عید گاہ کا حکم؟

**سوال (۴۵۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عید گاہ کی تعریف کیا ہے، اور عید گاہ کہاں ہونی چاہئے؟ ہمارے یہاں عید گاہ تھی جس کو کثرت آبادی کی وجہ سے مسجد میں تبدیل کر لیا گیا ہے، جس میں اب اذان و نماز اور تراویح ہوتی ہے، اور سلیف بھی ڈالی جا چکی ہے، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب عید کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے؛ کیوں کہ دونوں مسجدیں برابر ہیں، یا اسی عید گاہ میں، بہتر کہاں ہے؟ یا ان حالات کے پیش نظر دوسری عید گاہ تعمیر کی جائے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عید گاہ آبادی کے باہر اس خالی میدان کو کہا جاتا ہے

جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور عید گاہ کا آبادی سے باہر ہونا مسنون ہے۔

مصلی العید الصحراء خارج المدینة حیث تؤدی صلاة العید . (معجم لغة

الفقهاء ۴۳۴)

حسب تحریر سوال جب عید گاہ کی جگہ کو مسجد میں تبدیل کر لیا گیا ہے، تو یہ مسنون عید گاہ نہیں رہی؛ لہذا آبادی کے باہر حصہ میں نئی عید گاہ بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، اور جب تک نئی عید گاہ نہ بنے، تو آبادی کی سب سے بڑی مسجد میں خواہ وہ جامع مسجد ہو یا کوئی اور مسجد؛ عید کی نماز پڑھی جائے؛ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں۔

والخروج إلى الجبابة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع.

(شامی / مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس ۴۹/۳ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## موقوفہ زمین میں عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۵۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سنارپٹی کے تین محلے ہیں: (۱) اتر محلہ (۲) دکن محلہ (۳) مہندی پور۔ تینوں محلے والے ۷ سال قبل تک نماز عیدین کے لئے سنارپٹی سے دو کلو میٹر دور مرزا پور کوٹھی جایا کرتے تھے، ادھر ۷ سال سے ایک دو والے سنارپٹی ہی میں بنام عید گاہ ایک موقوفہ زمین پر (جس کی سرکاری رجسٹری ابھی باقی ہے) عیدین کی نماز ادا کرنے لگے، پھر ۱۴۱۵ھ میں عید الفطر کے وقت تین یعنی مہندی پور کے خواص کی رائے ہوئی کہ اگر اس زمین (جس پر سات سال سے عیدین کی نماز ہو رہی ہے) کے علاوہ دوسری جگہ عید گاہ بنائی جائے تو محلہ مذکورہ کے افراد بھی شامل ہو جائیں گے، چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ اب دوسری جگہ عید گاہ بنائی جائے، مگر عید سے پہلے اختلاف ہو گیا اور نتیجہ عید الفطر و عید الاضحیٰ میں ایک جماعت سابق عید گاہ میں اور دوسری جماعت اس کے مشرقی جنوب کے گوشہ میں تقریباً ۱۰۰ گز کے فاصلہ پر ہوئی، پھر ۱۴۱۶ھ کی عید الفطر و عید الاضحیٰ میں سابق عید گاہ کو بھی چھوڑ کر جانب شمال تقریباً ۱۰۰ گز کے فاصلہ پر دوسری زمین میں ایک جماعت اور دوسری جماعت مشرق و جنوب کی گوشہ والی زمین میں ہوئی۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان تینوں مذکورہ زمین کا حکم کیا ہوگا؟ اور بصورت اتحاد مستقل

عید گاہ بنانے کے لئے کس حصہ کو اپنائیں؟

**نوٹ :-** خیال رہے کہ ۷ سال عید گاہ والی زمین اور اس کے بعد والی (گوشہ مذکورہ کی)

زمین بذریعہ میٹنگ موقوفہ ہے؛ لیکن ابھی تک سرکاری رجسٹری باقی ہے، جب کہ تیسری زمین بحالت جذبہ وقف کی گئی ہے، اور اس کی بھی سرکاری رجسٹری باقی ہے۔



**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ تینوں زمین اگر عید گاہ کے لئے زبانی اور فعلی طور پر وقف کر دی گئی ہیں، اُن میں سے جس زمین پر چاہیں اتفاق رائے سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وقف کے صحیح ہونے کے لئے سرکاری رجسٹری ضروری نہیں ہے۔

ویزول ملکہ عن المسجد والمصلی بالفعل، وبقوله جعلته مسجداً عند الثاني، وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة (الدر المختار) قوله: والمصلی شمل مصلی الجنازة ومصلی العید. قال بعضهم: يكون مسجداً حتى إذا مات لا یورث عنه، والظاهر ترجیح الأول؛ لأنه فی الخانیة یقدم الأشهر. (شامی، کتاب الوقف / مطلب: إذا وقف كل نصف علی حدة صار وقفین ۳۵۶/۴ کراچی، ۴/۶ ۵۴-۵۵ زکویا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۱۷/۳/۱۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد پنج گانہ کے نام وقف کردہ زمین میں عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۵۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید، عمر، بکر کی مشترکہ آراضی تقریباً دو بیگھہ جو اُن لوگوں کے نام سرکاری کاغذات میں تھی؛ لیکن ایک دوسرا شخص قابض تھا، اُن لوگوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی آراضی کو مسجد پنج گانہ کے ارکان کو اس بات پر دے دی تھی کہ اگر مسجد کے ارکان میری آراضی پر قبضہ کر لیں جو فلاں شخص کے قبضہ میں ہے، تو میں مسجد پنج گانہ کے نام وقف کر رہا ہوں۔

اب مسجد کے ارکان نے قابض کا مقدمہ کر کے مسجد کے ہی فنڈ سے آراضی پر قبضہ کر لیا، اور فی الوقت مسجد کے ارکان زمین پر قابض ہیں؛ لیکن جب زمین کی کارروائی سرکاری کاغذات پر ہوئی، تو مسجد کے متولی کے نام ہوئی، اب بستی کے ذمہ دار حضرات اسی زمین پر عید گاہ بنانا چاہتے ہیں، اور وقف کرنے والے حضرات میں سے دو حضرات حیات ہیں، اور ایک شخص فوت بھی ہو چکا

ہے، حیاتِ حضرات میں سے دونوں کی مرضی بھی ہے کہ بنوالو بہتر ہے، اس صورت میں عید گاہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بنوالی جائے تو اس عید گاہ میں نماز ہوگی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** مذکورہ زمین مسجد پنج گانہ کی ملکیت ہوگئی ہے؛ لہذا اس پر عید گاہ بنانا درست نہ ہوگا، اگر ناگزیر ضرورت ہو کہ اس کے علاوہ عید گاہ کے لئے کوئی جگہ مہیا نہ ہو، تو پھر اس زمین کے بدلہ میں دوسری زمین مسجد پنج گانہ کو ادا کی جائے، اس کے بعد وہاں عید گاہ بنائی جائے۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ زمین مسجد کی ملک ہے، اس لئے ذاتی حیثیت سے اس مسجد کا متولی اپنا نام درج نہیں کر سکتا، اس کا نام اگر رہے گا تو صرف متولی کی حیثیت سے رہے گا، اور متولی بدلنے سے نام بھی بدل جائے گا۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲۵۴/۱۲، ۲۳۱/۱۷ قدیم زکریا)

وإن كان لوقوف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله، إن أعطى مكانه  
بدلاً أكثر ربعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند أبي يوسف والعمل  
عليه. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في شروط الاستبدال ۵۸۷/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۲/۳/۱۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## گرام سماج کی زمین پر عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۶۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں عید گاہ چھوٹی ہوگئی ہے اور آبادی میں بھی آگئی ہے، دوسری عید گاہ الگ بنانے کا ارادہ ہے، اس موجودہ عید گاہ کو مسجد اور مدرسہ بنا دیا جائے گا، اور کسی کارخیر میں لگا دیا جائے گا، اس گاؤں سے دو گاؤں ملحق ہیں، دونوں گاؤں میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ایک گاؤں کا پردھان مسلمان اور دوسرے گاؤں کا پردھان غیر مسلم ہے، گرام سماج کی جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کیا گرام پردھان کی اجازت سے یا گرام پردھان کو زمین کا معمولی سا معاوضہ دے کر گرام سماج کی

زمین پر عید گاہ بنائی جاسکتی ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** گرام سماج کی زمین اگر باقاعدہ قانون کے مطابق عید گاہ

کے نام بلا معاوضہ یا معاوضہ دے کر الاٹ کر دی جائے، تو اس میں عید گاہ بنانا بلاشبہ درست ہے۔

المستفاد: سلطان اذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلدة حوانيت

موقوفة على مسجد، وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم ينظر إن كانت البلدة

فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان لا يضر بالمارة. (الفتاوى الهندية، باب في المسجد وما

يتعلق به / الفصل الأول فيما يصير به مسجدًا وفي أحكامه وأحكام ما فيه ٤٥٧٢) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۵/۱۱/۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**عید گاہ چھوٹی پڑنے پر اگر دوسری بنائیں تو پہلی عید گاہ کا کیا کریں؟**

**سوال (۴۶۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: عید گاہ میں جگہ کم ہے، تو وسیع کے لئے جگہ نہیں، اُس کے تھوڑی دور فاصلہ پر جگہ ہے، اگر

وہاں دوسری عید گاہ بنائیں تو اول ویران ہوگی، اگر دوسری نہ بنائیں تو پریشانی ہوتی ہے، تو کیا

دوسری عید گاہ بنا کر دونوں میں نماز پڑھیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اتفاق رائے سے دوسری عید گاہ بنالیں، اور پہلی عید گاہ

کی جگہ مسجد بنا دیں یا اُسے معذور اور وضعفاء کی نماز عید کے لئے خاص کر دیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ

۵۳۲/۱۴، ۵۳۲/۱۵، ۵۳۲/۱۶) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۲/۴/۱۴۱۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## ایک کلومیٹر کی دوری پر دوسری عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۶۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک کلومیٹر یا اس سے کم کی دوری پر نئی عید گاہ بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا شریعت میں عید گاہ بنانے کے لئے کچھ دوری متعین ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں بہستی کے سبھی مسلمانوں کو ایک ہی عید گاہ میں نماز ادا کرنی چاہئے، اور اتنی قریب دوسری عید گاہ بنانے کہ ایک کی تکبیر کی آواز دوسری میں سنی جائے تو یہ زیادہ برا ہے۔ (کفایت المفتی ۱۴۳۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۵/۹/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## بلا ضرورت ضد بندی سے ایک قصبہ میں دو عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۶۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کہتا ہے کہ میرے قصبہ میں ایک عید گاہ ہے، اُس عید گاہ میں ابھی تک کسی بھی عید کے موقع پر جگہ کم نہیں پڑی، تقریباً عید گاہ بھر جاتی ہے، عید گاہ کی توسیع کا کام بھی برابر جاری ہے، عید گاہ میں جگہ کم نہ پڑنے کے باوجود بھی یہاں کے کچھ لوگ دوسری عید گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا شرعاً کسی قصبہ میں ایک عید گاہ ہوتے ہوئے دوسری عید گاہ بنانا درست ہے؟ یا دوسری عید گاہ تعمیر کرنے والوں کو موجودہ عید گاہ کے توسیع کے کاموں میں تعاون کرنا چاہئے، نیز دوسری عید گاہ بنانے کی صورت میں شر و فساد کا بھی خوف ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر پہلی عید گاہ نمازیوں کے لئے کافی ہے اور وہ آباد

ہے، تو بلا ضرورت دوسری عید گاہ نہیں بنانی چاہئے، یہ شریعت کی منشاء کے خلاف ہے، اور فتنہ کا

وقد قيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء

وجه الله. (تفسير مدارك بحواله كفايت المفتى ۳۹/۱۷) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتابتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۱۱/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## غیر مقلدین کا اپنی عید گاہ الگ بنانا؟

**سوال (۴۶۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: چوں کہ عید گاہ میں عیدین کی نماز صرف ۶ تکبیرات زوائد سے ادا کی جاتی ہے، لہذا اہل حدیث حضرات جن کو احناف غیر مقلد کہتے ہیں، اپنی نماز عید ۱۲ تکبیرات زوائد کے ساتھ ادا کرنے کی غرض سے اپنی عید گاہ علیحدہ بنالیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ اس میں فتنہ کا بھی اندیشہ ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہے تو اہل حدیث کو دوسری عید گاہ بنانے

کی اجازت نہ دینی چاہئے، خاص کر اس لئے بھی کہ دلیل کا اعتبار سے ان کی رائے مرجوح ہے۔

استدل أهل الحديث (اللامذهبية) على كون التكبيرات في العيدين من

إثنا عشر بما أخرجه الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي

صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة

خمسًا قبل القراءة. (سنن الترمذي، أبواب العيدين / باب في التكبير في العيدين ۱۱۹/۱)

قال الشيخ العلامة أنور شاه الكاشميري: وفي مسنده كثير بن عبد الله

وهو ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داؤد: ركن من

أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه. وقال الدارقطني وغيره: متروك،

كذا في الميزان. وحسنه الترمذي والبخاري وابن خزيمة، وضعفه أحمد بن

حنبلی۔ (معارف السنن شرح سنن الترمذی ۴۳۶/۴ المکتبۃ النوریۃ کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۱/۱۱/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## تین گاؤں والوں کا مل کر اپنی الگ عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۶۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تین چھوٹے گاؤں میں ایک مشترکہ عید گاہ تھی جہاں عوام نماز عید ادا کرتے تھے، بعد ازاں باہمی تنازعات کے باعث دو گاؤں والے افراد نے اپنی علیحدہ عید گاہ قائم کر لی، حالانکہ دونوں جگہ جمعہ قائم نہیں ہے؛ لہذا دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا ایسی جگہ جہاں جمعہ قائم نہیں ہے وہاں عیدین کا ادا کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں چوں کہ تینوں گاؤں میں سے کوئی گاؤں بھی شرائطِ اقامت جمعہ و عیدین کا متحمل نہیں ہے؛ لہذا ان تینوں میں سے کسی ایک گاؤں میں یا دو گاؤں مل کر یا تینوں گاؤں مل کر بھی اگر عیدین کی نماز کا اہتمام کریں گے تو یہ فعل از روئے فقہ حنفی خلاف شرع ہوگا، اس لئے اس خلافِ سنت سلسلہ کو ہر جگہ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔

ویشترط للعید ما یشرط للجمعة إلا الخطبة۔ (الفتاویٰ الہندیۃ / باب فی صلاۃ

العیدین ۲۱۱/۱)

أما شرائط (الجمعة) المصور۔ (الفتاویٰ الہندیۃ / باب فی صلاۃ الجمعة ۲۰۵/۱) فقط

واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۱۱/۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## آبادی سے دو کلومیٹر دور گاؤں کی پلانٹنگ کی جگہ عید گاہ بنانا؟

**سوال (۴۶۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے شہر میں عید گاہ جو قدیم تھی آبادی میں داخل ہو چکی ہے، حضرات علماء کرام اور مجلس علماء نے مشورہ کیا ہے کہ عید گاہ شہر سے باہر ہونا ضروری ہے؛ تاکہ سنت مؤکدہ پر عمل ہو؛ لہذا آبادی سے ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر ہی ایک جگہ عید گاہ کے لئے خریدنا طے کیا ہے، یا ارادہ ہے اور جگہ دیکھی گئی جو چھ ایکڑ ہے؛ لیکن اسی چھ ایکڑ میں سے پلاننگ دو ایکڑ فروخت ہو چکی ہے، اور جنوب کی جانب سے بھی پلاننگ کافی فروخت ہو چکی ہے، اسی چھ ایکڑ میں سے چار ایکڑ زمین عید گاہ کے لئے خریدنا ہے؛ لیکن اس عید گاہ کے زمین سے قریب سو میٹر شمال میں سرکاری ”گورنمنٹ مکھ پدیر اسکول“ تعمیر ہو رہا ہے؛ بلکہ تعمیر ہو چکا ہے، اسی جگہ سے قریب قبرستان بھی ہے، گاؤں کی آبادی یہاں سے نظر آتی ہے اور چند سالوں میں اس عید گاہ کی آراضی سے متصل آبادی بھی ہو جائے گی، جب کہ حضرت مفتی عبدالرحیم لاچپوری گجراتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاویٰ رحیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں یہ تحریر لکھی ہے کہ ”عید گاہ آبادی سے دور باہر جنگل میں فناء شہر میں ہونی ضروری ہے“ حوالہ در مختار شامی بحر الرائق وغیرہ کا دیا، اور جلد ۵، ۳۱، ۵۱ پر لکھا ہے کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں نماز عید ادا فرماتے تھے؛ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ مذکورہ تحریر میں لکھا ہوا میٹر ملاحظہ فرما کر جواب دیں۔

(۱) جگہ جو خریدی جا رہی ہے آبادی سے ایک کلومیٹر کے اندر ہی ہے۔

(۲) جگہ سے متصل پلاننگ بھی ہو چکی ہے اور آئندہ چند سالوں میں آبادی ہو جائے گی۔

(۳) سو میٹر کے فاصلہ پر اسکول سرکاری تعمیر ہو چکا ہے۔

(۴) اس سے قریب ہی قبرستان ہے، کیا یہ فناء شہر میں ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** آبادی سے ایک کلومیٹر قریب جگہ جہاں اس آبادی کا

قبرستان بھی موجود ہے، اور نئی کالونی کے لئے پلاننگ بھی ہو رہی ہے، یہ جگہ فناء شہر میں داخل ہے، اور یہاں سردست عید گاہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تک یہاں باقاعدہ آبادی نہ

ہو جائے اس جگہ عید کی نماز پڑھنے سے عید گاہ کی سنت ادا ہوتی رہے گی، اور جب یہ جگہ آبادی سے متصل ہو جائے گی اور یہ عید گاہ آبادی میں آجائے گی، تو اس جگہ عید کی نماز پڑھنے سے عید گاہ کی سنت ادا نہ ہوگی، پھر اس سنت کی ادائیگی کے لئے آبادی سے دور کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی ہوگی۔

ثم خروجه ماشياً إلى الجبانة، وهي المصلى العام، أي في الصحراء والخروج إليها، أي الجبانة لصلاة العيد سنة. (الدر المختار مع الشامى ۴۸۳-۴۹ زكريا) استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وإن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. (فتح الباري / باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ۴۵۰/۲)

لو صلى العيد في الجامع ولم يتوجه إلى المصلى فقد ترك السنة. (البحر الرائق / باب العيدين ۱۵۹/۲ كوثه، ۲۷۸/۲ زكريا)

خصوص التوجه إلى المصلى مندوب. (حاشية الطحطاوي / باب أحكام العيدين ۲۹۰، ۵۳۱ أشرفية) فقط والله تعالى أعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۸/۱۱/۱۴۳۱ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## مسجد کی زمین پر تبادلہ کر کے عید گاہ بنانا؟

**سوال (۳۶۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے اپنی ایک قطعہ آراضی مسجد میں وقف کر دی اور متولی کو اختیار دیا کہ مسجد کے کاموں میں اس کی آمدنی صرف کی جائے، نیز ایک قطعہ آراضی مسجد کے متولی اور ممبران مسجد نے بھی خریدی، اب صورت حال یہ ہے کہ گاؤں والے گاؤں میں عید گاہ بنانا چاہتے ہیں، اور عید گاہ کے نام کی کوئی زمین نہیں ہے۔

تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مسجد کی زمین پر عید گاہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ



مسجد کی زمین آبادی سے متصل ہے، تو کیا مسجد کی زمین کا تبادلہ عید گاہ بنانے کے لئے آبادی سے دور زمین کا کسی سے کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ گاؤں کے پردھان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ایک بیگھہ زمین عید گاہ کے لئے دے دیں، بعد میں ہم ممبران سے مشورہ کر کے زمین دینے والے کو ایک بیگھہ کی جگہ تین بیگھہ زمین گرام سماج کی اس کے نام پٹہ کر دیں گے، تو ایسی صورت میں کیا زمین لے کر عید گاہ بنائی جاسکتی ہے؟ گاؤں میں رضا خانی بھی ہیں، گرام سماج سے زمین پٹہ کی صورت میں اگر زمین کا تبادلہ ہوتا ہے، تو رضا خانی بھی اس عید گاہ میں انتظامات اور امانت میں دخل دے سکتے ہیں، ہم لوگ اپنی عبادت گاہوں میں بدعتیوں کو شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں، اُمید کہ جملہ اُمور میں شرعی حکم سے مطلع فرمائیں گے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** جو آراضی زید نے مسجد کے لئے وقف کر دی ہے اُس کو تبدیل کرنا اہل مسجد کے لئے جائز نہیں؛ لیکن جو آراضی مسجد کے لئے قیمتاً خریدی گئی ہے، ضرورت کے وقت متولی اور کمیٹی کی اجازت سے اس کا تبادلہ دوسری زمین سے کیا جاسکتا ہے، نیز اُسے فروخت کر کے وہاں عید گاہ بنانا بھی درست ہے، اور گرام سماج کی زمین پر بھی عید گاہ بنائی جاسکتی ہے، اور اس صورت میں دوسرے مسلک والوں کے دخل دینے کی جو بات سوال میں کہی گئی ہے اُس کے متعلق مصلحت بہتی والے بہتر جان سکتے ہیں، مستقبل کے اعتبار سے جو صورت بہتر ہو اُسے اپنا لیا جائے۔

وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تملكه. (الهداية ۶۴۰/۲ اشرفیہ)

متولی المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاً أو داراً، ثم باعها جاز إذا كانت له ولاية الشراء. (الفتاوى التاتارخانية / مسائل وقف المساجد ۱۸۰/۸ رقم: ۱۱۵۶۸ زکریا) وفي فتاوى أبي الليث: سلطان أذن لأقوام أن يجعلوا أرضاً من أرض الكورة في مسجدهم ويزيدوا فيه، ويتخذوا حوانيت، موقوفة على مسجدهم. قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: إن كانت البلدة فتحت عنوة جاز أمره. (الفتاوى

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۳۱/۳/۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں کی عید گاہ کو مدرسہ میں تبدیل کرنا؟

**سوال (۳۶۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے علاقہ میں ایک گاؤں ہے جس میں شرعاً جمعہ درست نہیں ہے، مگر وہاں ایک عرصہ سے عید گاہ بنی ہوئی ہے، اور لوگ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایک عالم نے مسئلہ بتایا کہ چون کہ تم پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جب کہ تمہارے یہاں شرعاً جمعہ بھی نہیں ہے، تو تم کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہئے، اگر پڑھو گے تو گنہگار ہو گے، کیا اُن عالم صاحب کا بتایا ہوا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اب اُس گاؤں کی عوام دارالافتاء سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ جب ہم عید گاہ پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس عید گاہ کا ہم کیا کریں، اس کو فروخت کر دیں، یا مدرسہ بنا لیں یا ایسے ہی عید کی نماز پڑھتے رہیں؟ جو فیصلہ ہوگا ہم کو منظور ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** جس آبادی میں جمعہ کے قیام کی شرائط نہیں پائی جاتیں

وہاں عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مذکورہ عالم صاحب کا بتایا ہوا مسئلہ درست ہے، گاؤں والوں کو چاہئے کہ آپس میں مشورہ سے مذکورہ عید گاہ کو دینی مدرسہ کے لئے متمین کر دیں۔

تجب صلا تھما فی الأصح علی من تجب علیہ الجمعة بشرائطها

المتقدمة. (شامی / باب العیدین ۴۵/۳ زکریا)

و كما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز صلاة

العید. (شامی / باب الجمعة ۷/۳ زکریا)

في شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي، كتاب الوقف /

مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ٥٤٩/٦ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۳/۱۰/۱۴۳۱ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کو آبادی میں آجانے کی وجہ سے جامع مسجد میں تبدیل کرنا؟

**سوال (۴۶۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: عید گاہ کو جامع مسجد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر عید گاہ آبادی سے باہر ہے تو اُس کو جامع مسجد سے

تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہے، اور اگر عید گاہ آبادی کے درمیان میں آچکی ہے تو عامۃ المسلمین اور عید گاہ

کمیٹی کے مشورہ سے اس جگہ جامع مسجد بنائی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ آبادی میں آنے کی وجہ سے

مسنون عید گاہ کی حیثیت باقی نہیں رہتی؛ لہذا اُس کو قریبی مصرف میں لگایا جاسکتا ہے، اور جامع مسجد

اس کا قریبی مصرف ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵۹/۱۵-۶۰/۱ بجیل)

لو سكن بلا إذن أو أسكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل.

(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب: إذا أجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة ٦١٥/٦ زكريا)

قوله: اتحد الواقف، وقال تحته في الشامية: بأن وقف وقفين على

المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه، أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا

يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح

والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان

الواقف متحدثاً. (شامي، كتاب الوقف / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ٥٥١/٦ زكريا)

والذي يتسأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط أولاً، ثم ما هو أقرب

للعمارۃ، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم  
قدر كفايتهم. (البحر الرائق ۲۱۳/۵ کراچی)

ويبدأ من غلته بعمارتہ ثم ما هو أقرب لعمارتہ، كإمام مسجد ومدرس  
ومدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (الدر المختار مع الشامی / كتاب الوقف ۵۰۹/۶-۵۶۱  
زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۲/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی عید گاہ میں مدرسہ بنانا؟

**سوال (۴۷۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے  
میں کہ: ایک مقام پر پہلے عید گاہ تھی، اب اس کے مد مقابل متصلاً نئی عید گاہ اعلیٰ پیمانے پر تعمیر کر دی  
گئی ہے، جہاں گذشتہ کئی سال سے عیدین کی نماز کا سلسلہ جاری ہے، چونکہ پرانی عید گاہ گندگی،  
غلاظت اور نازیبا حرکات کے لئے استعمال کی جانے لگی تھی، اس لئے پرانی عید گاہ کے منتظمین نے  
مذہبی تعلیم کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس عید گاہ میں ایک عظیم الشان دینی درس گاہ قائم کرنے  
کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لئے چبوترہ عید گاہ کے سہ جانب باقاعدہ درس گاہ کی تعمیر اور تعلیمی و تدریسی  
ضرورتوں کی کفالت کے لئے دوکانوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس دینی درس گاہ کے لئے  
نہ صرف طلبہ کے لئے تعلیمی درس گاہ ہوں؛ بلکہ بیرونی طلبہ کی رہائش کے لئے ایک عظیم دارالاقامہ اور  
چبوترہ عید گاہ پر ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا بڑا منصوبہ پیش نظر ہے، جس میں الحمد للہ بہت حد تک  
کامیابی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی تدریس و تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، صورت مذکورہ بالا  
میں مجلس انتظامیہ جو وقف بورڈ کی منظور شدہ اور مقرر کردہ ہے، جس کے انتظام میں یہ پرانی عید گاہ  
ہے، کیا ایسے عظیم اور دینی کار خیر کے لئے کمیٹی انتظامیہ پرانی عید گاہ میں مدرسہ کے قیام اور اس کے  
لئے ضروری تعمیرات کا حق رکھتی ہے؟

**الجواب وباللہ التوفیق:** نئی عید گاہ کی تعمیر کی وجہ سے چوں کہ پرانی عید گاہ کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لئے اس پرانی عید گاہ کی زمین کو تمام مسلمانوں اور انتظامیہ کمیٹی کے مشورہ سے دوسرے رفاہی امور (مسجد مدرسہ وغیرہ) میں استعمال کرنا درست قرار دیا جائے گا، خاص کر ایسے حالات میں جب کہ اُس زمین کے خالی پڑے رہنے سے اُس کے ضیاع کا شدید خطرہ لاحق ہو۔

كما يستفاد من عبارة الشامي: والذي ينبغي متابعة المشائخ المذکورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، ولا سيما في زماننا؛ فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل إنقاضة اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقفه يأكلها النظار أو غيرهم. (شامي / مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ۳۶۰/۱۴ کراچی، ۵۵۰/۱۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۲۷ھ

## عید گاہ کے لئے خالی پڑی ہوئی زمین پر مدرسہ بنانا؟

**سوال (۴۷۱):** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارا علاقہ دینی اعتبار سے بالکل کورا پڑا ہوا ہے، دینی تعلیم سے لوگوں کو رغبت نہیں تھی، اس وقت کچھ محنت کرنے کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ عید گاہ کے علاوہ عید گاہ کی جگہ آدھی ایکڑ پلید پڑی ہوئی ہے، تو اس کو کیا مدرسہ کے لئے منتخب کیا جاسکتا ہے، یعنی مدرسہ تعمیر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** وہ جگہ اگر عید گاہ کی موجودہ اور آئندہ ضرورت سے فاضل اور زائد ہے، تو عام مسلمانوں کے مشورہ سے وہاں ضرورت کی بنا پر مدرسہ تعمیر کیا جاسکتا ہے۔

والذی ینبغی متابعة المشائخ المذکورین فی جواز النقل بلا فرق بین مسجد أو حوض . (شامی، کتاب الوقف / مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوہ ۳۶۰/۴ کراچی)

ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصمر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجروها . (الفتاوى الهندية / الباب الخامس من كتاب الوقف ۴۱۴/۲ زكريا، كذا في قاضي حان على هامش الهندية / باب الرجل يجعل داره مسجداً ۳۰۰/۳ زكريا، فتح القدير / الفصل الأول من كتاب الوقف ۲۴۱/۶ دار الفكر بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۲/۲/۲۰۱۴ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کی زمین میں مکتب قائم کرنا اور عید گاہ کو کرایہ دینا؟

**سوال (۴۷۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) محلہ پورہ دلہن مبارک پوری کی عید گاہ ہے، عید گاہ کی زمین پر چار کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کمروں میں اہل محلہ کے بچوں کا ایک دینی مکتب قائم ہے، مکتب قائم کرتے ہوئے تین اہل خیر نے یہ طے کیا کہ ماہانہ تین سو پچاس روپے عید گاہ کو بطور کرایہ دیا جائے گا۔ چنانچہ عید گاہ کو بطور کرایہ تین سو پچاس روپیہ موصول ہوتے رہے، ادھر چند سالوں سے اہل قصبہ کی مالی حالت کمزور ہوئی، جن اہل خیر نے بطور خاص تین سو پچاس روپیہ طے کیا تھا وہ بند کر دیا، بچوں کی زیادتی سے ذمہ داران مدرسہ نے کچھ مدرسین کا اضافہ کیا، اور عمومی چندہ اہل خیر سے کرنے لگے، تو جن حضرات نے طے کیا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عمومی کیا جا رہا ہے، تو چند جیب پر انحصار کیوں؟ اسی چندہ کی رقم سے کرایہ ادا کیا جائے کیوں کہ عمومی چندہ میں ہم بھی شریک رہتے ہیں، ذمہ داران مدرسہ کہتے ہیں کہ عید گاہ بھی عوامی ہے اور مکتب بھی عوامی ہے، تو کرایہ کیسا؟ سوال طلب امور یہ ہیں کہ:

عید گاہ کی زمین کا حکم کیا ہے؟ اگر عید گاہ کی زمین پر کمرے لے وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو کن

شرائط کے ساتھ ان کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے؟ اور کیا دینی مصلحت کے تحت مکتب قائم کرنا، اور کرایہ پر دوکان دینا دونوں کی شرط یکساں ہے یا الگ ہے؟

(۲) بعض ذمہ داران مدرسہ کا یہ کہنا ہے کہ عید گاہ بھی عوامی ہے اور مکتب بھی عوامی کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** (۱) اگر عید گاہ کی منظمہ کمیٹی اور عید گاہ کی زمین پر قائم

مکتب کی انتظامیہ الگ الگ ہیں، تو مکتب والوں پر لازم ہے کہ وہ عید گاہ کو ماہانہ کرایہ ادا کریں، اور اگر یہ مکتب عید گاہ کمیٹی کے تابع ہے اور اسی کی ماتحتی میں چلتا ہے، تو پھر اس میں الگ سے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ یہ مکتب عید گاہ کے تابع ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۶۲۲/۲ میرٹھ)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدین أو رجل مسجدًا و مدرسة ووقف علیہما أو قافًا لا يجوز ذلك أي الصرف المذكور. (الدر المختار مع الشامی،

كتاب الوقف / مطلب في نقل أنقاض المسجد ۵۵۱۶ زکریا، البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۱۶۵

کوئٹہ، بزازیة علی الفتاویٰ الہندیة، كتاب الوقف / قبیل نوع في ألفاظ جاریة في الوقف ۲۶۱۶ کوئٹہ)

مستفاد: للمستأجر غوس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضربا لأرض

ولیس له الحفر إلا بإذن ویأذن لو خیرًا وإلا لا، وما بناه مستأجر أو غوسه فله

ماله ینوہ للوقف. (الدر المختار مع الشامی، كتاب الوقف / مطلب في حکم بناء المستأجر في

الوقف بلا إذن ۴۵۵/۴ کراچی، ۶۷۸/۶ زکریا، البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۰۴/۵، مجمع الأنهر /

كتاب الوقف ۵۹۹/۴ دار الکتب العلمیة بیروت)

ولو كانت الأرض متصلةً ببيوت المصریر غب الناس في استیجار

بیوتها، ویكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل، كان للقیم أن ینبی فیها بیوتًا

ویؤجرها. (فتاویٰ قاضی خان علی هامش الفتاویٰ الہندیة، كتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره

مسجدًا الخ ۳۰۰/۳ زکریا، وكذا في الفتاویٰ التاتاریخانیة، كتاب الوقف / تصرف القیم في الأوقاف

۶۱۵ ۷۴ إدارة القرآن کراچی، وکذا فی الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الوقف / الباب الخامس فی ولاية الوقف

وتصرف الیم فی الأوقاف ۴/۲ ۴۱ زکریا

(۲) یہ صحیح ہے کہ عید گاہ اور کتب دُنوں عوامی ہیں؛ لیکن دُنوں کے مصارف الگ الگ ہیں؛ لہذا ایک پر موقوفہ زمین بلا اجرت دوسرے پر خرچ نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ ایک مصرف دوسرے کے تابع ہو، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے۔

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصصه ولا يخلط بعضه ببعض وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض من خزانة غير هاتم إذا حصل للتي استقرض بها مال يرد إلى المستقرض. (شامي، كتاب الزكاة / مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها ۳۳۷/۲ كراچی، البحر الرائق / قبيل باب أحكام المرتدين ۱۱۹/۵ كونه، مجمع الأنهر / قبيل باب المرتد ۴۸۶/۲ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
املاہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۸/۴/۱۴۳۲ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کے احاطہ میں دوکان لگا کر کرایہ وصول کرنا؟

**سوال (۴۷۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عید گاہ کے میدان میں عارضی طور پر دوکانوں وغیرہ کا کرایہ عید گاہ کمیٹی کے لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عید گاہ کے احاطہ میں جو زمین آتی ہے، وہ عیدین کی نماز ادا کرنے کے لئے وقف کی گئی ہے؛ لہذا منشاء وقف کے خلاف کرتے ہوئے اس جگہ پر دوکانیں لگوانا اور ان کا کرایہ وصول کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف /



مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً ۶۶۵/۶ زکریا، ۴۴۵/۴ کراچی)

علاوہ ازیں عبادت گاہ کو نمائش گاہ اور بازار بنانا زروے شرع قطعاً جائز نہیں ہے۔

ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً. (شامی، کتاب الوقف /

مطلب إذا وقف كل نصف على حدة صار واقفين ۳۵۶/۴ دار لفکر بیروت، ۵۴۵/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۶/۲۵/۱۴۱۵ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## پرانی عید گاہ میں شادی ہال اور دوکانیں بنا کر آمدنی حاصل کرنا؟

**سوال (۴۷۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے شہر سربانی میں ایک قدیم عید گاہ اور مسجد ہے اور عید گاہ مسجد سے جڑی ہوئی ہے، اس

طرح کہ سرکاری کاغذات میں دونوں کا اندراج ایک ساتھ ہے اور دونوں کی کمیٹی بھی ایک ہے، شہر

کی آبادی بڑھنے سے عید گاہ چھوٹی پڑنے لگی اور وہ شہر کی بالکل درمیان میں آگئی؛ اس لئے

ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک صاحب خیر نے شہر کے باہر ایک جگہ عید گاہ کے لئے وقف کر دی، اب

عید کی نماز اسی جگہ شروع ہو گئی ہے، قدیم عید گاہ کے بارے میں صرف اتنا علم ہے کہ ایک لمبے عرصہ

سے یہ جگہ عید گاہ کے لئے استعمال ہو رہی ہے، اور سرکاری کاغذات میں عید گاہ کے نام سے مذکور

ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ موجودہ صورت میں جب کہ عید گاہ کے لئے دوسری جگہ کا

انتظام ہو چکا ہے، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ قدیم عید گاہ کی جگہ پر شادی ہال اور دوکانیں بنا کر

کرایہ سے دے دی جائیں اور اس سے مسجد کے مصارف پورے کئے جائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** پرانی عید گاہ میں شادی ہال اور دوکانیں بنا کر آمدنی

حاصل کرنا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر ضرورت ہو تو قریبی مسجد میں اس عید گاہ کی زمین کو شامل کیا جاسکتا

ہے، نیز کمیٹی کے مشورے سے وہاں دینی مدرسہ بنانا بھی درست ہے۔

مسجد مبنی اراد رجل أن ينقضه و بينه أحكم ليس له ذلك إلا أن يخاف أن يهدم. (شامی، کتاب الوقف / مطلب في أحكام المسجد ۳۵۷/۴ کراچی، ۵۶۶/۶ زکریا، النهر الفائق، کتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۳۲۹/۳ دار الکتب العلمیة بیروت، البحر الرائق، کتاب الوقف / فصل في أحكام المسجد ۲۵۱/۵ کوئٹہ)

قیم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فناءه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكناً تسقط حرمة وهذا لا يجوز. (الفتاوى الهندية، کتاب الوقف / الباب الحادي عشر ۴۶۲/۲ زکریا، فتاوى قاضي خان، کتاب الوقف / باب الرجل يجعل داره مسجداً ۲۹۳/۳ کوئٹہ، فتح القدير ۲۳۶/۶ دار الفكر بیروت)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به. (الدر المختار، کتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، و مطلب: بيان مفهوم المخالفة ۴۳۳/۴-۴۳۴ کراچی، ۶۴۹/۶ زکریا، وكذا في الأشباه والنظائر، کتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد: ۶/۲، ۱۰ إدارة القرآن کراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ۱۲۶/۱ المكتبة الميمنية مصر)

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً..... فيأذا درست، واستغنى عن الدفن جاز صرفها إلى المسجد. (عمدة القاري ۱۷۹/۴) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الملاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۴۳۲/۱/۷ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کے لئے موقوفہ زمین میں شادی ہال بنانا

**سوال (۴۷۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لکھنؤ کی عید گاہ عیش باغ کی چہاردیواری کے اندر ایک ہال بنا ہوا تھا، جس میں عید گاہ سے متعلق سامان اور ایک چوکی دار رہتا تھا، عیدین کے موقعوں پر اس ہال کی صفائی و پتائی کر کے

مستورات کے لئے کھول دیا جاتا تھا؛ تاکہ مستورات مردوں کی صفوں میں نہ کھڑی ہوں، عید گاہ کی حدود کے باہر میلہ لگتا تھا، جس میں ناچ گانا اور دوسری خرافات ہوتی تھیں، اور عید کے پیچھے ٹر ہوا کرتی تھی، حالات زمانہ اور چند مصالحوں کی بنا پر اس قطعہ زمین کی بھی چہار دیواری بنوائی گئی، چوں کہ ہال بہت ہی شکستہ ہو گیا تھا؛ لہذا اس جگہ کے بجائے اس قطعہ زمین پر تعمیر کر لیا گیا، اس ہال میں مسلمانوں نے شادی بیاہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، چند گھنٹوں کے لئے اس شرط کے ساتھ دے دیا گیا کہ صرف انہیں شادیوں کی اجازت دی جائے گی، جو شعائر اسلامی کے تحت ہوں، جس میں ناچ گانا وغیرہ نہ ہوں، ہال کو نقصان پہنچا، دو تین تقریبات کے بعد اس ہال کے لئے عطیہ مقرر کر دیا گیا؛ تاکہ ہال کی صفائی پائی، مرمت اور بجلی وغیرہ کے اخراجات پورے کئے جاسکیں، تو کیا شرعی طور پر یہ طریقہ آمدنی جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر مذکورہ قطعہ اصل عید گاہ کی حدود میں شامل نہ کیا گیا

ہو؛ بلکہ عید گاہ کے منافع کے لئے وقف ہو تو وہاں شادی ہال کی تعمیر اور اس سے عید گاہ کے لئے

آمدنی حاصل کرنا درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۱۵۴ زکریا)

و دخل ما لو كان الوقف مسجدًا أو مدرسةً سكن فيه فتجب فيه أجرة

المثل. (شامی، کتاب الوقف / مطلب سكن المشتري دار الوقف ۴۰۸/۴ بیروت، ۶۱۵/۶ زکریا)

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل - إلى قوله - ولو زاد أجره على أجر

مثله، قيل: يعقد ثانيًا به على الأصح، والمستأجر الأول أولى من غيره؛ فإن قبلها

فهو الأحق وإلا أجرها من الثاني. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف / مطلب فيما زاد أجر

المثل بعد العقد ۴۰۴/۴ کراچی، ۶۰۸/۶-۶۱۰ زکریا، البحر الرائق / کتاب الوقف ۲۳۵/۵-۲۳۶ کوئٹہ)

هل يجوز أن يتخذ حصنًا بجانب حائط المسجد يمنع الضرر عن

المسجد من مال الوقف فهذا على وجهين: إن كان الوقف على مصالح

المسجد جاز؛ لأن هذا مصلحة المسجد. (الفتاوى الولوالحية / الفصل الأول من كتاب الوقف ۹۰/۳ دار الكتب العلمية بيروت)

ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً. (شامي، كتاب الوقف

/ مطلب إذا وقف كل نصف على حدة صاروا وقفين ۳۵۶/۴ دار الفكر بيروت)

لیکن ضروری ہے کہ مذکورہ ہال میں تقریبات شریعت کے مطابق ہوں، بے پردگی فحاشی، تصویر کشی اور بے جا سجاوٹ جیسی خرافات سے مکمل اجتناب کی شرط لگائی جائے؛ تاکہ عید گاہ کا احترام برقرار رہے، ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو یہ شادی ہال معاصی و منکرات کا مرکز بن جائے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۱۱/۱۴۱۶ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کی چہار دیواری میں کھیلنا؟

**سوال (۴۷۶):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے قصبہ کی عید گاہ جو تقریباً آبادی سے ملحق ہی ہے، بجانب شمال واقع عید گاہ کی باؤنڈری چہار دیواری ہے، اور اس وقت اُس میں کافی گھاس اُگی ہوئی ہے، جس کو چرنے کے لئے بکری بھی زینہ پر سے ہو کر چلی جاتی ہیں۔ کچھ نوجوان طبقہ کا یہ خیال ہے کہ چہار دیواری کے اندر گھاس صاف کر کے شام کے وقت ہم لوگ والی بال کھیل لیا کریں، اور جوتے وغیرہ باہر ہی رکھیں تو عید گاہ کی باؤنڈری میں صفائی رہے گی اور بکری وغیرہ بھی نہیں گھسیں گی۔ براہ کرم شرعی فیصلہ جو اس بارے میں ہو تحریر فرما کر آگاہ فرمائیں، نوازش ہوگی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عید گاہ بنانے والوں یا وقف کرنے والوں نے عید گاہ

اس لئے بنائی ہے؛ تاکہ اُس میں نماز عید ادا کی جائے، نہ کہ اس لئے کہ اُس میں کھیل کود وغیرہ جیسے

کام انجام دیئے جائیں، اس لئے عید گاہ کے اندر کھیل کود کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، باقی عید گاہ کی صفائی وغیرہ کرانا اور اُس کو جانور وغیرہ چرنے سے محفوظ رکھنا عید گاہ کے ذمہ داروں اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھا جائے۔

وأما المتخذ للصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء لا في حق غيره، به يفتي (تنوير الأبصار) والمختار للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء؛ لكن قال في البحر: ظاهره أنه يجوز الوطأ والبول والتخلي فيه، ولا يخفى ما فيه؛ فإن الباني لم يعده لذلك، فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد. (شامي، كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، ۲۰۱۲ء ۴۳۰/۱۲ ذکر کیا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۲/۴ھ

## عید گاہ کی پیداوار سے عید گاہ کے خادم کو اجرت دینا؟

**سوال (۴۷۷):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عید گاہ کے خادم کو عید گاہ کی خدمت کے عوض اُس کی زمین اور درخت کی پیداوار دینا یا اُس خادم کا عید گاہ کی زمین و درخت سے بعوض خدمت نفع اٹھانا جائز ہے؟  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر کمیٹی اجرت کے طور پر عید گاہ کی پیداوار خادم کے لئے طے کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ويبدأ من غلته بعمارة ثم ما هو أقرب بعمارة كإمام مسجد ومدرس  
مدرسة يعطون بقدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح.

(الدر المختار مع الشامي، كتاب الوقف / مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارة ۳۶۶/۴ کراچی، ۲۰۱۶ء ۵۰۹/۶

ذکر کیا، البحر الرائق ۲۱۱/۵ کوئٹہ، الدر المنتقى / كتاب الوقف ۵۸۷/۲ دار الکتب العلمیة بیروت)

کل ما صلح ثمناً أي بدلاً في البيع، صلح أجره؛ لأنها ثمن المنفعة. (شامي / كتاب الإحارة ۵/۹ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷/۱۱/۱۴۳۳ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کے خود ساختہ مجاور کے خلاف قانونی کارروائی کرنا؟

**سوال (۴۷۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مرار گولیا میں واقع عید گاہ کے سلسلہ میں ایک شخص منظور علی نامی نے ۱۹۴۷ء میں عید گاہ کے کھاتہ میں اپنے آپ کو مجاور کی حیثیت سے لکھوایا ہے اور اُس کا وہ رجسٹریشن کرانے کے درپے ہے، تو محترم سوال یہ ہے کہ عید گاہ کا مجاور ہوتا ہے یا نہیں؟ اور وہ مجاور اپنے آپ کو عید گاہ کی ملکیت کا وارث سمجھتا ہے، اور ہم لوگ اس کو مجاورت سے ہٹانے کی کوشش میں ہیں اور مقدمہ کر رہے ہیں، یہ حربہ درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عید گاہ کا مجاور نہیں؛ بلکہ متولی ہوتا ہے، جو شخص بزعم خود

مجاور بن بیٹھا، اُس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا درست ہے۔

وفي الأسعاف لا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به. (البحر الرائق / كتاب الوقف ۲۲۶/۵ كوئٹہ، شامي، كتاب الوقف / مطلب في شروط المتولي ۳۸۰/۴ كراچی، الفتاوى الهندية / الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم الخ ۴۰۸/۲ كوئٹہ)

القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضي. (شامي، كتاب الوقف / مطلب فيما يعزل به

الناظر، فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز كان خائناً يستحق العزل ۳۸۰/۴ كراچی، البحر الرائق /

وینزع وجوباً ولو غیر مامون۔ (کنذافی التنویر ۳۷۹/۴، تنویر الأبصار علی الشامی،

کتاب الوقف / مطلب فی شروط المتولی ۵۷۸/۶ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۹/۱۲/۱۴۱۶ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کی مسجد میں ”بلاک پرکھ“ کے کوٹے سے بھراؤ ڈالوانا؟

**سوال (۴۷۹):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ہمارے قصبہ میں جو قبرستان ہے وہ اس وقت زمین کی سطح سے کافی نیچائی میں آ گیا ہے، قبرستان میں میت اور عیدین کی نماز کے واسطے جو مسجد بنی ہوئی ہے نیچا ہونے کی وجہ سے برسات میں پانی بھر جاتا ہے، اس مسجد کی سطح کو اٹھانے کا خرچہ کافی مہنگا ہے، ان تمام صورت حال کے پیش نظر عید گاہ کمیٹی نے ”بلاک پرکھ“ (سلمان) کے کوٹے سے مٹی ڈالوانے کے لئے رابطہ قائم کیا ہے۔ لہذا دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم عید گاہ کی مسجد میں بلاک پرکھ کے کوٹے سے بھراؤ

ڈالوا سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اگر آئندہ کسی فتنہ اور حکومت کی دخل اندازی کا اندیشہ

نہ ہو، تو بلاک پرکھ کے کوٹے سے عید گاہ یا قبرستان میں مٹی ڈالوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔

وهدیة أهل الحرب وما أخذ منهم بغیر قتال، وفي تقریرات الرافعی أي

للإمام وإلا فهي للآخذ. (شامی / مطلب: فی بیان بیوت المال ومصارفها ۲۸۲/۳ زکریا، امداد

المفتیین کامل ۱۰۱۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۶/۱۲/۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ سے متصل بسنے والوں کا عید گاہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا؟

**سوال (۲۸۰):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گاؤں کے چند لوگ عید گاہ کے قریب اپنا کاروبار کرتے ہیں، گاؤں کی مسجد وہاں سے کافی دور ہے؛ اس لئے عید گاہ میں پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اُس عید گاہ میں پنج وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں؛ لیکن جب

تک اُسے مسجد شرعی نہ بنایا جائے وہاں پنج وقتہ نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہ ملے گا۔

وأما المتخذ للصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء، وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس لا في حق غيره به يفتى. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، ۴۳۰/۲ زکریاء البحر الرائق، کتاب الصلاة / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، فصل لما فرغ من بیان الکراهية في الصلاة ۳۶/۲ کوئٹہ، حاشیة الشلیبی علی الزیلعی / باب ما یفصد الصلاة وما یکره فیها، فصل کره استقبال القبلة بالفرج) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۱۱/۲۳ھ

## کیا مملوکہ عید گاہ میں نماز پنج گاہ نہ پڑھ سکتے ہیں؟

**سوال (۲۸۱):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: جس کی زمین میں عید گاہ ہے اور اُس کا کہنا ہے کہ کوئی نماز عیدین پڑھے یا نہ پڑھے، میں نہ کسی کو روکوں گا اور نہ کسی کو کہوں گا کہ نماز عیدین پڑھنے آؤ، اور گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ تم جب تک عید گاہ کو اور زمین کو یعنی جس میں قبریں ہیں، وقف نہ کرو گے تب تک ہم لوگ اس میں نماز عیدین نہیں پڑھیں گے، تو اس عید گاہ میں نماز عیدین پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس زمین میں پیڑ پودھے ہیں، اس بنیاد پر وہ وقف نہیں کرنا چاہتا ہے۔



**الجواب وبالله التوفیق:** صورتِ مسئلہ میں جو عید گاہ وقف نہیں؛ بلکہ مملوک ہے اور مالک نے اُس میں نماز کی اجازت دے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں عید گاہ میں نماز پڑھنا درست ہے؛ کیوں کہ عید گاہ کا وقف ہونا شرط نہیں ہے؛ بلکہ مملوک میں بااجازت مالک نماز عید ہو جائے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۱۸/۹-۱۷۱/۶)

نیز لوگوں کو وقف کے لئے اصرار نہ کرنا چاہئے؛ کیوں کہ عید کی نماز کا مقصد شہر سے باہر نکل کر شانِ اسلام کا اظہار ہے جو اس عید گاہ سے بھی حاصل ہے۔

الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح، كذا في المصنوعات. (الفتاوى الهندية / باب في صلاة العيدين ۱۰۰/۱)

وأما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء، وإن انفصل الصفوف وفقاً بالناس لا في حق غيره به يفتى. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الصلاة / مطلب في أحكام المسجد ۶۵۷/۱ کراچی، ۴۳۰/۲ زکریا، البحر الرائق، کتاب الصلاة / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، فصل لما فرغ من بیان الکراهیة فی الصلاة ۳۶/۲ کوئٹہ، حاشیة الشلبی علی الزیلعی / باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، فصل کره استقبال القبلة بالفرج) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۷/۱۴۱۵ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

**عید گاہ میں غیر مسلم کی طرف سے بچھائی گئی صفوں پر نماز پڑھنا؟**

**سوال (۲۸۲):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: چندویں کی عید گاہ میں دس ہزار سے زائد لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں جو درمی وغیرہ کی صفیں بچھائی جاتی ہیں، وہ وہاں کے چیئرمین ہر سال دونوں عیدوں میں اپنے پیسوں سے بچھواتے ہیں،

جب کہ وہ غیر مسلم ہیں، کیا اس پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ وہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے اتنی وسعت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی جیب سے وہاں کا خرچ اٹھا سکتے ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** اگر کوئی دینی ولی مصلحت کے خلاف نہ ہو، تو غیر مسلم کی

طرف سے بچھائی گئی صفوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں؛ تاہم بہتر یہی ہے کہ عید گاہ کی منظمہ کمیٹی کی طرف سے صفوں کا انتظام کیا جائے؛ تاکہ اس کا رخیر میں کوئی سیاسی مفاد اثر انداز نہ ہو۔

و أما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا

وعندهم، كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو فقراء أهل الذمة. (البحر الرائق

/ كتاب الوقف ۱۶۱۵ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۲/۱۴۳۰ھ

الجواب صحیح: بشیر احمد عفا اللہ عنہ

**نماز عید سے پہلے سیاسی بے ریش آدمی کا دین کی بات کرنا؟**

**سوال (۲۸۳):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: عید کی نماز سے پہلے باوجود امام صاحب کے ہونے کے بے شرع شخص دین کی بات کرے،

اور وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو، کچھ لوگوں کو اس پر اشکال ہو، تو انہوں نے اس بات کو کمیٹی کے

لوگوں میں رکھا، اور کمیٹی والوں نے مراد آباد کے علماء سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، اس بارے میں

آپ حضرات رائے لکھ دیں؛ تاکہ وہاں کے لوگوں کو کمیٹی سمجھا سکے، یہ تقریر کرنے والے صاحب

عالم بھی نہیں ہیں، شرعی حکم تحریر فرمادیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفیق:** عید گاہ کا ممبر سیاسی اثر و رسوخ سے پوری طرح پاک

ہونا چاہئے، اور وہاں سے ایسے شخص ہی کو بیان کی اجازت ہونی چاہئے جو باشرع ہو اور دین کا وسیع

علم رکھتا ہو، اور بہر حال عید جیسے دینی اجتماعات میں سیاسی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۳۳/۲ زکریا)

عن عوف بن مالک الأشجعی رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو أو مختال. (مشكاة لمصاحح / كتاب لعلم ۳۵ فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۲۷/۱۴۳۰ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عورتوں کا عید گاہ میں جانا؟

**سوال (۲۸۴):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: کیا عورتیں عید گاہ جاسکتی ہیں؟

جواب: ہاں اس سلسلہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ نماز اور دعائیں شریک رہیں گی، حائضہ اور نفساء عورتیں دعائیں شریک رہیں گی اور نماز سے الگ رہیں گی۔  
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اس میں کوئی شک نہیں کہ دور نبوت میں حضرات

صحابیات مساجد میں اور عید گاہ میں تشریف لاتی تھیں، مگر وہ درخیز القرون ہونے کے باعث فتنوں سے محفوظ تھا، دور نبوت کے بعد جب رفتہ رفتہ فتنوں کا شیوع ہونے لگا، تو خود دور صحابہ میں عورتوں کے مساجد میں آنے کی ممانعت کی گئی، اور ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ اور طاہرہ خاتون نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ: ”اگر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے دور کی عورتوں کی بے احتیاطیاں دیکھ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں آنے پر اس طرح پابندی لگا دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔“

تو غور فرمائیے! جب دور صحابہ کے بارے میں سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

رائے یہ ہے، تو آج جب کہ قدم قدم پر فتنے ہیں اور خطرات واقعات بن کر آرہے ہیں، ان میں

خواتین کو مساجد اور عید گاہوں میں بے محابا آنے کی ترغیب کیسے دی جاسکتی ہے؟ آج کے پرفتن دور میں جو لوگ عورتوں کو مساجد اور عید گاہوں میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ ایک خطرناک فتنہ کو دعوت دے رہے ہیں، اور اُن احادیث کی صراحتاً خلاف ورزی کر رہے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اُن کے لئے مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: صلوۃ المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی حجرتها، وصلاتها فی منحدعها افضل من صلاتها فی بیتها. (سنن ابی داؤد / باب ما جاء فی خروج النساء الی المسجد ۸۴۱/۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: لو أدرك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. (صحيح البخاري / باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغسل ۱۲۰/۱، صحيح مسلم ۱۸۳/۱، سنن ابی داؤد ۸۴۱/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۵/۵/۱۴۲۴ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عورتوں کا مردوں کے ساتھ عیدین کی نماز میں شریک ہونا؟ یا علیحدہ جماعت کرنا؟

**سوال (۴۸۵):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عورتوں کو عیدین کی نماز مردوں کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ اور عیدین کی نماز عورتیں تنہا جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو دلائل سے نوازیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں اور اس پر فتن دور میں

ہندوستان جیسے ممالک میں عورتوں کا عید گاہ جانا اور جماعت میں شرکت کرنا سخت فتنہ کا باعث اور مکروہ ہے۔ اسی طرح صرف عورتوں کی جماعت جس میں امامت عورت ہی کرے اُس کو بھی فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج نساء في العيدين، وفي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يدع امرأة تخرج إلى فطر ولا أضحى.

(المصنف لابن أبي شيبة ۲۳۴/۴ المجلس العلمي، الفتاوى التاتارخانية ۲۰۸/۲ رقم: ۳۴۱۸ زكريا)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فقالت لعمرة: أو ممنع، قالت: نعم. (صحيح البخاري، كتاب الأذان/ باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغسل ۱۲۰/۱ رقم: ۸۶۱، ف: ۸۶۹، صحيح مسلم، كتاب الصلاة/ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ۱۸۳/۱ رقم: ۴۴۵)

أخرج الطبراني عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيتكن خير لكن. (المعجم الكبير للطبراني ۲۹۴/۹ رقم: ۹۴۷۵، الفتاوى التاتارخانية/ من يجب عليه الخروج ۶۱۴/۲ رقم: ۳۴۲۹ زكريا) ويكره تحريمًا جماعة النساء..... ويكره حضورهن الجماعة، ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. (الدر المختار ۳۰۷-۳۰۵/۲ زكريا)

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة؛ لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف، فيكره كالعراة. (فتح القدير/ باب الإمامة ۳۶۲/۱ زكريا) فقط والله تعالى أعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ



**الجواب وباللہ التوفیق:** ملبہ وغیرہ دوسری عید گاہ میں لگا دیں اور زمین کو کرایہ پر دے کر اُس سے آئندہ آمدنی کا ذریعہ بنائیں اور اُسے دوسری عید گاہ میں خرچ کر دیں۔

ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أو قافه إلى مسجد أو حوضٍ آخر؟ فقال نعم. (شامي، كتاب الوقف / مطلب: فيما لو خرب المسجد أو غيره ۳۵۹/۴، کراچی، ۵۵۰/۶، ذکر یہ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۶/۹/۹ھ

الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

## عید گاہ کی زمین غیر مسلم آبادی میں آجانے کی وجہ سے اُسے بیچ کر پیسہ قبرستان میں لگانا؟

**سوال (۴۸۸):** - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں میں عید گاہ کے نام سے جگہ چھوڑ دی گئی تھی، اور اُس جگہ کی بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی، کافی عرصہ ہوا؛ لیکن اُس کے اندر ابھی تک عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، اب وہ جگہ غیر مسلم آبادی کے بیچ آگئی، اس وجہ سے گاؤں والوں نے اُس جگہ کو بیچ دیا، اب اس روپے لوگاؤں کے قبرستان میں لگانا چاہتے ہیں، آیا اس روپے کا استعمال قبرستان میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

**الجواب وباللہ التوفیق:** اولاً تو عید گاہ کی وہ زمین فروخت نہیں چاہئے تھی، بالفرض اگر وہ زمین بالکل ہی ناقابل انتفاع تھی تو بھی اُس سے حاصل شدہ آمدنی قبرستان میں نہیں لگائی جاسکتی؛ بلکہ اس رقم سے دوسری عید گاہ کے لئے جگہ خرید کر وقف کرنا لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن. (تنوير الأبصار) وفي الشامي:  
قوله لا يملك: أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التملك  
لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تملك الخراج عن ملكه. (شامي، كتاب الوقف / قبيل  
مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن ٥٣٩/٦ زكريا)

إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تملكه. (الهداية / كتاب الوقف ٦٤٠/٢ مكتبة  
شركت علمية ملتان، وكذا في فتح القدير / كتاب الوقف ٢٢٠/٦ مكتبة مصطفى الباي الحلبي مصر،  
وكذا في البحر الرائق / كتاب الوقف ٣٤٢/٥ زكريا)

شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.  
(الدر المختار، كتاب الوقف / مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، ومطلب: بيان مفهوم المخالفة  
٤٣٣/٤ - ٤٣٤ كراچی، ٦٤٩/٦ زكريا، وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف / الفن الثاني، الفوائد:  
١٠٦/٢ إدارة القرآن كراچی، تنقيح الفتاوى الحامدية ١٢٦/١ المكتبة الميمية مصر) فقط والله تعالى أعلم  
كتبة: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ١٩/١٠/١٣١٩ھ  
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

